

ہزاروں سال نرس اپنی بے نوری پہ روتی ہے
بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا

جدید اضافہ شدہ ایڈیشن

حیاتِ انوری

سوانح، ارشادِ اہل بیت
و مکتوبات

حضرت مولانا محمد انوری لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ

خادمِ خاص و خلیفہ مجاز حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ
تلمیذ ارشد و خلیفہ امام العصر حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ
و خلیفہ اعظم حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ

مؤلف

ڈاکٹر عمران فاروق

مقدمہ

حضرت مولانا مجاہد الحسنینی رحمۃ اللہ علیہ

فاضل دارالعلوم ڈابھیل

ترتیب و حواشی

مجدد ارشد انوری نمبرہ حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ



ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا

حیاتِ انوری

سوانح، ارشادات و مکتوبات

حضرت مولانا محمد انوری لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ

خادمِ خاص و خلیفہ مجاز حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ

تلمیذ ارشد و خلیفہ امام العصر حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ

و خلیفہ اعظم حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ

مؤلف

ڈاکٹر عمران فاروق

مقدمہ

حضرت مولانا مجاہد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ

ترتیب و حواشی

محمد راشد انوری نبیرہ حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں
قانونی مشیر
منظور احمد راجپوت ایڈووکیٹ ہائیکورٹ کراچی

نام کتاب	حیاتِ انوری
مؤلف	ڈاکٹر عمران فاروق
جدید ایڈیشن	رمضان المبارک ۱۴۴۱ھ - مئی 2020ء
ناشر	محمد راشد انوری
قیمت	

ملنے کے پتے

کراچی: بلال انٹرپرائزز، S1 جامع مسجد ناظم آباد نمبر 2

+92 300 2421646

فیصل آباد: □ مکتبہ انوری، مدرسہ تعلیم الاسلام P223 مین بازار

سنت پورہ، +92 321 7545059

□ مجلس رائے پوری، مدینہ ٹاؤن

+92 321 7603507

ڈھڈیاں شریف: خانقاہ گلشن قادریہ نزد جھاوڑیاں

ضلع سرگودھا، پنجاب - پاکستان



اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ مُنِيبٌ مُبِينٌ

اللَّهُمَّ
بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ مُنِيبٌ مُبِينٌ

انتساب!

حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ

حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ

حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ

حضرت مولانا محمد انوری لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ

حضرت مولانا محمد ایوب الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ

کے نام

جن کے وجودِ قدسی کے فیوض و برکات اور
انواراتِ قلبی سے ہزار ہا تشنگانِ رُشد و ہدایت فیض

یاب ہوئے

فہرست

صفحہ نمبر	عنوان
11	تقاریظ علماء کرام
11	حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ
13	حضرت مولانا نسیم اختر شاہ قیصر مدظلہ
16	حضرت مولانا محمد حنیف جالندھری مدظلہ
18	حضرت مفتی سید عبدالقدوس ترمذی مدظلہ
20	حضرت مولانا زاہد الراشدی مدظلہ
21	حضرت مولانا اللہ وسایا مدظلہ
22	حضرت مولانا سید محمد کفیل شاہ بخاری مدظلہ
24	حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی مدظلہ
26	بریگیڈیئر (ر) قاری فیوض الرحمن جدون مدظلہ
29	پیش لفظ
31	عرض مؤلف
36	مقدمہ از قلم حضرت مولانا مجاہد الحسنی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
45	سوانح حضرت مولانا محمد انوری قادری لائل پوری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
45	خاندانی پس منظر
48	خاندانی شجرہ نسب
49	مولانا محمد انوری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی ولادت

50	حصولِ علم
52	بیعت و خلافت
52	(1) شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
55	(2) امام العصر حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
63	دارالعلوم دیوبند میں حضرت انوری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کے اساتذہ کرام
64	ہمعصر مشاہیر
64	(3) قطب الارشاد حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
71	نکاح
72	حج کی سعادت
73	1947ء میں فسادات کا آغاز اور پاکستان ہجرت
78	دینی و ملی خدمات
79	مقدمہ بہاولپور میں حضرت مولانا محمد انوری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا کردار
85	1953ء کی تحریک ختم نبوت میں مولانا محمد انوری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی شمولیت
88	مولانا محمد انوری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> سے ملاقات
89	درس قرآن کی مقبولیت
90	فیصل آباد میں دورہ حدیث کی ابتداء
90	دارالعلوم دیوبند کی معاونت
92	مولانا محمد انوری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا عشقِ رسول <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small>
101	ارشادات و واقعات
130	تھانہ بھون اور رائے پور میں میری پہلی حاضری

140	وصال
143	اولاد
146	تصانیف
147	مشہور تلامذہ
148	خلفاء و مجازین
150	مختصر حالات خلفاء و مجازین
178	ہم عصر علماء و مشائخ
186	منکرین حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت رائے پوری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا ارشاد گرامی
194	منتخب خطوط
209	عکس تحریر اکابر حضرت شیخ الہند <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> ، حضرت انور شاہ کشمیری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> ، حضرت رائے پوری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> ، حضرت انوری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
215	وظائف و عملیات
225	شجرات طریقت
225	سلسلہ قادریہ مجددیہ غفوریہ رحیمیہ
226	سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ سعدیہ غفوریہ
227	سلسلہ چشتیہ نظامیہ قدوسیہ امدادیہ
228	سلسلہ چشتیہ صابریہ قدوسیہ امدادیہ
229	سلسلہ سہروردیہ بخاریہ ولی اللہیہ امدادیہ
230	خاندانی شجرہ سہروردیہ مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>

232	نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم از امام العصر حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
241	مختصر سوانح حضرت مولانا محمد ایوب الرحمن انوری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
249	نسبت کے قدردان (اکابر علماء و مشائخ سے ملاقاتیں)
312	ارشادات و واقعات
324	منتخب خطوط
335	وظائف و عملیات
337	عکس تحریر حضرت مولانا محمد ایوب الرحمن انوری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> (قصیدہ حمدیہ)
338	تبصرے
353	عکس سند دار العلوم دیوبند
354	عکس سرٹیفکیٹ اور پینٹل کالج لاہور



اشعار

ہر ایک شے ذکر حق کرتی ہے تو بھی کہے جا ہر گھڑی ہر آن اللہ
 تیری ہر بات لکھی جا رہی ہے کہے جا ہر گھڑی ہر آن اللہ
 تیرے سانسوں کی گنتی ہو رہی ہے کہے جا ہر گھڑی ہر آن اللہ
 تجھے اس واسطے پیدا کیا ہے کہے جا ہر گھڑی ہر آن اللہ
 مزہ پاتی ہیں آنکھیں عاشقوں کی
 نظر کے سامنے رکھ نام اللہ



Justice Muhammad Taqi Usmani

Member Shariat Appellate Bench
Supreme Court of Pakistan
Vice President Darul-Uloom Karachi-14.

محمد تقي العثماني
قاضی عالیٰ شریعت اسلامیہ پاکستان
مجلس الشوریۃ الاسلامیہ
نائب رئیس دارالعلوم کراچی ۱۴۔ پاکستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله
الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين.

حضرت مولانا محمد انوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ان اکابر میں سے تھے جن کی زندگی اور جن کے افادات امت کیلئے عظیم مشعلِ راہ ہوتے ہیں۔ انہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے ارادت کا تعلق تھا اور امام العصر حضرت علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے تلمذ کا۔ اور اسی نسبت سے انہوں نے اپنے نام ”محمد“ کے ساتھ انوری کا اضافہ فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خاص تھے۔ انکی کتاب ”انوار انوری“ حضرت علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و ملفوظات پر بیش قیمت تالیف ہے جس سے بندہ نے خوب استفادہ کیا۔

اب تک حضرت مولانا محمد انوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی سوانح مرتب نہیں ہوئی تھی۔ اب ان کے پوتے جناب صاحبزادہ محمد راشد انوری صاحب کی تحریک پر ابو حذیفہ عمران فاروق صاحب نے ”حیات انوری“ کے نام سے یہ کتاب مرتب کی ہے جسے طباعت سے قبل جناب محمد راشد انوری صاحب نے بندہ کو ایک

بندہ کو ایک نظر دکھایا۔ استفادہ تو ان شاء اللہ طبع ہونے کے بعد ہی ہو سکے گا۔ لیکن اس کام کی اہمیت کے پیش نظر اظہار مسرت کیلئے یہ چند سطور لکھ دی ہیں۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو امت کیلئے نافع بنائیں اور صاحبِ سوانح کے افادات کو عام کرنے کا ذریعہ بنائیں۔ آمین

سندھ

محمد تقی عثمانی ریسرچ سوسائٹی
۱۸، زردا لکھنؤ، سندھ

(10 ستمبر 2017ء)

مولانا سید نسیم اختر شاہ قیصر مدظلہ

نبیرہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ

استاذ عربی دارالعلوم وقف دیوبند، یوپی (انڈیا)

مولانا محمد انوری لائل پوری، ایک برگزیدہ علمی شخصیت:

امام العصر حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ کی وہ جماعت جس نے برصغیر ہندوپاک میں اپنے نامور اور شہرہ آفاق استاذ کی علمی عظمتوں و فضیلتوں کو زندہ اور باقی رکھا ان میں بے شمار نام ہیں اور یہ وہ ہستیاں ہیں گذشتہ ساٹھ سال کی علمی تاریخ جن کے نام سے معنون ہے یہ سب برگزیدہ انسان تھے اور جنہوں نے اپنے علم و فضل سے، تقویٰ و کمال سے، درس و تدریس سے، تصنیف و تالیف سے اس کا ثبوت فراہم کیا کہ وہ جماعت دیوبند کے نمائندہ افراد ہیں اور علم و کمال کی بستیاں ان سے آباد ہیں۔ بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر اس ادھیڑ عمری تک حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردانِ رشید کے واقعات اور رشد و کمال کے قصے بار بار سننے میں آئے ان میں سے بہت سوں کا دیدار بھی ہوا، کچھ سے شرفِ ملاقات بھی حاصل رہا، کچھ کی خدمت میں چند روز رہنے کی سعادت بھی ملی..... اپنے بچپن میں حضرت مولانا محمد انوری لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ (فیصل آبادی) کے مبارک نام اور خدماتِ جلیلہ سے واقفیت حاصل ہوئی اور اس کا سبب یہ ہوا کہ والد مرحوم کے کتابی ذخیرہ میں جہاں بے شمار کتابیں تھیں وہیں حضرت مولانا محمد انوری لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”انوارِ انوری“ بڑے اہتمام اور احتیاط کے ساتھ موجود تھی..... حضرت مولانا محمد انوری لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے نہ صرف یہ کہ رشتہ تلمذ قائم کیا بلکہ ان سے روحانی تعلق بھی قائم فرمایا۔ حضرت مفتی فقیر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک پر حضرت مولانا محمد انوری لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ،

حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے وابستگی اختیار کی اور جب حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے کوچ کر گئے تو حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت و خلافت پائی..... 1983ء میں احقر پہلی بار پاکستان گیا..... ہمارے پاکستان کے سفر سے پہلے والد مرحوم نے اپنے واقف کاروں کو بذریعہ خطوط ہماری آمد کی اطلاع دے دی تھی انہی میں حضرت محمد انوری لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ کے گرامی قدر صاحبزادے مولانا سعید الرحمن صاحب سنت پورہ بھی تھے..... پاکستان کے 22 روزہ قیام کے زمانے میں حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب نے ہماری بڑی خبر گیری کی اور محبتوں سے نوازا۔ حضرت مولانا محمد انوری لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ ان برگزیدہ انسانوں میں سے تھے جن پر تاریخ علم و عمل ہمیشہ ناز کرے گی کہ انہوں نے دین و شریعت کی گراں بہا خدمات انجام دیں، اپنے علم و فضل سے ایک زمانہ کو مستفیض کیا۔ پاکستان میں وہ علماء کہ جن کا نام آسمانِ علم پر درج ہے اور جو آفتاب و ماہتاب کی طرح روشن ہیں ان میں حضرت مولانا محمد انوری لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام نمایاں ہے۔ ان کی زندگی اخلاص و عمل کا لائق تقلید اور قابلِ قدر نمونہ تھی آپ کی زندگی میں وہ تمام رنگ موجود تھے جو ایک صاحب علم و فضل شخص کی زندگی میں ہوتے ہیں، آپ اکابر و اسلاف کے پاکیزہ زندگی کا بہترین عکس تھے وہی آب و تاب، وہی تیور، زندگی کا وہی رخ، وہی خدمات کی انجام دہی، وہی دین کی لگن، وہی مذہب سے وابستگی، وہی تڑپ و اضطراب جو اکابر کا خاصہ ہوتا، وہ آپ کے یہاں بھی بدرجہ اتم موجود تھا حقیقت یہ ہے کہ حضرت مولانا محمد انوری لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے افراد صدیوں کی گردشوں اور شب و روز کی بے شمار تبدیلیوں کے بعد وجود میں آتے ہیں، جب تک رہتے ہیں مرکزِ نگاہ رہتے ہیں اور جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو محرومی کا احساس دلاتے رہتے ہیں.....

حضرت مولانا محمد انوری لائل پوری کو بھی اپنے استاذ سے والہانہ تعلق اور شیدائیانہ قربت تھی، آپ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سچے عاشق تھے ان کے علوم و کمالات کے محافظ ہونے کے ساتھ ان کے نام اور کام کو متعارف کرانے کی ان میں بڑی بے چینی تھی، بڑا جذبہ تھا حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سبھی شاگردوں نے مضبوط انداز میں اس سمت میں کام کیا یہ جذبہ بھی تاریخ علمائے دیوبند کے روشن پہلوؤں کی نشان دہی کرتا ہے اور حضرت مولانا محمد انوری لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ اس سعادت میں برابر کے شریک ہیں..... حضرت مولانا محمد انوری لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے پردہ کئے ہوئے 47 برس گزر رہے ہیں مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا حادثہ وفات حال ہی میں پیش آیا ہو۔ صاحب علم و کمال کو موت نہیں آتی اس کا علمی کام اور تلامذہ کا حلقہ ان کے ناموں کو زندہ رکھتا ہے اور زمان و مکان کی دوریوں کو ہمیشہ سمیٹتا رہتا ہے۔ حضرت مولانا محمد انوری لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز شاگرد تھے خود حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ان سے دلی تعلق تھا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ حضرت مولانا محمد انوری لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خون میں انوری محبت گردش کر رہی تھی انہوں نے لائل پور میں ایک عالی شان مسجد کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا مسجد تعمیر ہوئی تو اس کا نام ”مسجد انوری“ تجویز فرمایا حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 25 مئی 1901ء اور آپ نے 22 جنوری 1970ء کو رختِ سفر باندھا۔ اس دنیا میں جو کچھ ہے سب ختم ہونے کے لیے ہے باقی رہنے والی ذاتِ ربِّ کائنات کی ہے خداوندِ عالم حضرت مولانا محمد انوری لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم خدمات کو قبول فرما کروہاں کی تمام راحتیں اور بلندیاں انہیں عطا فرمائے اور یہاں ان کی اولاد و احفاد کو اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے سرفراز فرمائے۔



**JAMIA
KHAIR-UL
MADARIS (Regd)**
Orangzaib Road, Multan Pakistan.



جامعہ خیر المدارس
اورنگزیب روڈ ملتان پاکستان

حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ ”کالبدر فی النجوم“

اللہ تعالیٰ نے محض اپنے لطف و کرم اور فضل و احسان سے احقر کو جن بلند نسبتوں سے نوازا ہے ”ولا فخر“ ان میں سے ایک قابلِ قدر نسبت خاندان حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دوہری رشتہ داری بھی ہے اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کے برادرِ بزرگ مولانا اللہ بخش رحمۃ اللہ علیہ میرے حقیقی نانا ہیں جبکہ ان کے فرزند حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب کے ساتھ میری صہری قرابت داری ہے۔ اس نسبت پر میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مرید باصفا اور خادمِ خاص، حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ اور امام العصر حضرت مولانا علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مایہ ناز شاگرد تھے بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ خلفائے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور تلامذہ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حیثیت ”کالبدر فی النجوم“ تھی۔

اول الذکر کے ہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے خود اس خواہش کا اظہار فرماتے ہیں کہ ”میرا جی یہ چاہتا ہے کہ جہاں آپ کی قبر ہو، میری قبر بھی

وہیں ہو، اور ثانی الذکر کے ساتھ آپ ﷺ کی عقیدت و محبت آپ کے نام کے جزء ثانی (انوری) سے ہی ظاہر ہے کیونکہ آپ ﷺ کا حقیقی نام محمد تھا۔ حضرت شاہ صاحب ﷺ کی ذات کے ساتھ محبت کی بناء پر اپنے نام کے ساتھ انوری لکھا کرتے تھے اور پھر یہ ”اسم منسوب“ آپ کے نام کا جزء بن گیا۔ خانوادہ انوری ﷺ کے ساتھ آپ ﷺ کی عقیدت مندانہ محبتوں اور سعادت مندانہ خدمتوں کو امام العصر حضرت مولانا علامہ کشمیری ﷺ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیری ﷺ نے اپنی تحریرات میں بلند و بالا الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے اور اس باب میں ان کی شہادت ”صاحب البیت ادزی بما فیہ“ کے پیش نظر جو مقام اعتبار رکھتی ہے وہ ظاہر ہے۔

حضرت مولانا محمد انوری ﷺ کی سوانح پر کسی مستقل تصنیف کے نہ ہونے کی وجہ سے قلب و ضمیر پر ایک قرض کا سا بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے حضرت ﷺ کے حفید مکرم صاحبزادہ محمد راشد انوری صاحب کو یہ توفیق عنایت فرمائی کہ انہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا چنانچہ ان کی تحریک پر محترم جناب ابو حذیفہ ڈاکٹر عمران فاروق صاحب نے ”حیات انوری“ کے نام سے حضرت ﷺ کی سوانح حیات تالیف فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان حضرات کی اس خدمت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ (آمین)

والسلام

محمد حنیف جالندھری

(دعا گو و دعا جو) محمد حنیف جالندھری

مہتمم جامعہ خیر المدارس ملتان

۲۴ ذیقعدہ ۱۴۳۸ھ 17 اگست 2017ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Syed Abdul Qadoos Jirmzi

سید عبدالقادر نس ترمزی

Jamiah Haqqaniah Sahiwal Sargodha

جامعہ حقانیہ ساہیوال سرگودھا

فون: 048-6786002
048-6786899

التاریخ

باسم سبحانہ و تعالیٰ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

احقر نے کتاب ”حیات انوری“ مؤلفہ جناب مولانا عمران فاروق صاحب کا مطالعہ کیا ہے۔ جسے ہمارے عزیز مولانا محمد راشد انوری سلمہ اللہ نے بیش قیمت حواشی سے مزین کیا ہے۔ اس کتاب میں حضرت شیخ العالم مولانا محمود حسن دیوبندی قدس سرہ کے صحبت یافتہ اور حضرت قطب الارشاد مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ کے مرید خاص حضرت مولانا فتح الدین رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند گرامی اور حضرت امام العصر علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ خاص و خلیفہ حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر راپوری قدس سرہ کے خلیفہ خاص ہمارے مخدوم بزرگ حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات طیبہ اور آپ کی سوانح کو بڑے احسن انداز میں جمع کیا گیا ہے جس پر مؤلف کتاب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ حضرت صاحب سوانح رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد احفاد میں اس کا خیر کی طرف حضرت کے نبیرہ برادر عزیز مولانا محمد راشد انوری سلمہ نے خاص توجہ فرمائی اور عظیم سوانح ان کی کوشش اور لگن و جذبہ کی بنیاد پر حضرت کے خاندان اور متوسلین تک پہنچی اس جذبہ، جدوجہد اور کامیاب کوشش پر وہ مبارکباد کے بجا طور پر مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوشش اور خدمات کو قبول فرمائیں اور امت کے لئے اس کتاب کو نافع اور مفید بنائیں۔ حضرت

شیخ سعدی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے:

نام نیک رفتگان ضائع مکن

تا بماند نام نیکت بردگار

ترجمہ: ”پہلے گزرنے والے نیک حضرات کا ذکر ضائع نہ کرو

تا کہ تمہارا نام بھی زمانہ میں باقی رہے۔“

ان شاء اللہ یہ کتاب صحیح معنی میں اس کا مصداق ہوگی اور عزیز موصوف

کو اپنے اسلاف کے حالات دوسروں تک پہنچانے پر خاندان اور دیگر حضرات کی

طرف سے یقیناً دعائیں حاصل ہوں گی کہ عالم اور عارف شیخ طریقت کی سوانح اور

حالات بعد والوں کے لئے راہنمائی اور استفادہ کا باعث ہونے کے ساتھ ان کی

حیات ثانی کا ذریعہ ہوتے ہیں..... کما قیل: والذکر للانسان عُمُرًا ثَانٍ..... اور

بعد والوں کا اپنے اسلاف کو یاد رکھنا باعث طمانیت، سکون اور مشعل راہ ہے۔ اللہ

تعالیٰ اس سوانح کو اخلاف کے لئے باعث راحت اور سکون و ہدایت کا ذریعہ

بنائیں۔ آمین

احقر عبدالقدوس ترمذی غفرلہ

جامعہ حقانیہ ساہیوال ضلع سرگودھا

۳۰ جمادی الاخریٰ ۱۴۴۱ھ

25 فروری 2020ء

حضرت مولانا زاہد الراشدی مدظلہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شیخ العلماء حضرت مولانا محمد انوری قدس اللہ سرہ العزیز ان نامور اور بزرگ علماء کرام میں سے ہیں جنہوں نے پاکستان کے قیام کے بعد اس وطن عزیز میں دینی حلقوں کی راہ نمائی اور انہیں منظم کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور ان کے فرزند ان گرامی اور خاندان کی اس عظیم دینی خدمات کا تسلسل بجز اللہ تعالیٰ جاری ہے۔ ان بزرگوں کے حالات و خدمات سے نئی نسل کو واقف کرانا ایک ضروری دینی و ملی تقاضہ ہے تاکہ نوجوان علماء کرام اور کارکن ان کی روشنی میں اپنے کردار اور محنت کے دائرے صحیح طور پر طے کر سکیں۔

محترم ڈاکٹر عمران فاروق صاحب نے اس سلسلہ میں پیش رفت کی ہے جو حضرت ﷺ کے ساتھ ان کی عقیدت و محبت کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور زیادہ زیادہ لوگوں کے لیے نفع بخش بنائیں۔ آمین یارب العالمین

ابوعمار زاہد الراشدی

نزیل فیصل آباد

14-08-2017 (۲۱ ذیقعدہ ۱۴۳۸ھ)

شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایا مدظلہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مخدوم العلماء والمشاخ حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ربانی اور قطب وقت تھے۔ آپ بیک وقت حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردِ رشید اور حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب خلیفہ مجاز تھے۔ آپ اپنے دور میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے پاسبان اور حدی خواں تھے۔

یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ مولانا عمران فاروق صاحب نے آپ کی سوانح مرتب فرمائی ہے، اس کتاب کے عنوانات سے ہی اندازہ ہوا کہ یہ مختصر مگر جامع دستاویز ہے جو ریفرنس بک کا کام دے گی اور مدتوں یاد رکھی جائیگی، حق تعالیٰ اسے مصنف محترم کے لیے صدقہ جاریہ اور امت مسلمہ کے لیے مشعلِ راہ فرمائیں۔ آمین بحرمتہ النبی الکریم

محتاج دعاء

فقیر اللہ وسایا

خادم ختم نبوت ملتان

۶ ذیقعدہ ۱۴۳۸ھ 13 اگست 2017ء، اتوار

مجلس اشرار اسلام پاکستان

• دارِ بنی ہاشم، مہربان کالونی، ملتان • 061-511961

حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں بہت بلند مقام اور عالی نسبتوں کے امین ہیں، ان کے والد ماجد حضرت مولانا فتح الدین رحمۃ اللہ علیہ، فقیہ ملت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس اللہ سرہ العزیز کے مایہ ناز شاگرد تھے، انہوں نے اپنے بیٹے ”محمد“ کو شیخ الہند مولانا محمود حسن نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں تسلیم و تربیت کے لیے پیش کر دیا، حضرت شیخ الہند نے بیس سالہ محمد کو بیعت کر کے خلعت خلافت سے بھی نوازا۔ شیخ الہند کے انتقال کے بعد ان کے تلمیذ رشید علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تعلیم اور سلوک و احسان کی منزلیں طے کیں اور بیعت و خلافت سے مشرف ہوئے۔ اسی نسبت سے انوری کہلائے۔ حضرت شاہ صاحب کے انتقال کے بعد مرشد العلماء حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری نور اللہ مرقدہ سے بیعت ہوئے اور خلافت سے نوازے گئے۔ آپ نے حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری قدس اللہ سرہ العزیز کی زیارت کی اور اپنے والد ماجد کے ہمراہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کسب فیض کیا۔ اتنی عظیم الشان نسبتوں کے امین وہ اپنے عہد کے آخری آدمی تھے۔ انہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی توجہات، حضرت انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا شرف تلمذ اور حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی محبت و شفقت سمیٹنے کا اعزاز حاصل ہے، اس اعزاز میں وہ یکتا تھے۔

بڑے لوگوں کے سواخ و تذکرے، کام کی باتوں، اعلیٰ سیرت و کردار، اچھے اخلاق، پند و نصائح، واقعات و مشاہدات اور تجربات سے معمور ہوتے ہیں۔

جن کے مطالعے سے آئندہ نسل کی تعلیم و تربیت اور شخصیت سازی میں بڑی مدد ملتی ہے، یہی ہمارا ورثہ ہے جس کی حفاظت انتہائی اہم اور ضروری ہے۔

حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ ان شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنے والدین، اساتذہ، شیوخ اور اکابر علماء کے علمی و ایمانی کمالات کو بھرپور طریقے سے محفوظ کیا اور پھر اس عظیم ورثہ کو نژادِ نو میں منتقل کیا۔ مولانا کے سوانحی حالات کتابی صورت میں یکجا نہیں تھے۔ بھلا ہو محترم ڈاکٹر عمران فاروق کا جنہوں نے آپ کے مختصر مگر جامع حالات مدوّن و مرتب کر کے نئی نسل پر احسان کیا۔ مولانا کے لائق پوتے مولانا محمد راشد انوری بن حضرت مولانا ایوب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، مبارک باد کے مستحق ہیں جنہوں نے محترم ڈاکٹر عمران فاروق کو اس کارِ عظیم کی انجام دہی پر متوجہ کیا، یہ ان کے جدا مجد کا حق تھا جو انہوں نے ادا کیا۔ حضرت مولانا محمد انوری قدس سرہ جیسی پاکیزہ ارواح کا تذکرہ جتنا زیادہ ہونا کافی ہے اور اس کی جتنی ضرورت اب ہے کبھی نہ تھی۔ یہ کتاب ایک مبارک کاوش ہے، لیکن ابھی مزید کام کی ضرورت ہے کہ امت کی رہنمائی ایسے ہی پاک طینتوں کے احوال و آثار سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے مرتب و محرک و ناشر حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور یہ خدمت قبول فرمائے۔ (آمین)

دعا گو و طالب دعا



سید محمد کفیل شاہ بخاری

نائب امیر مجلس احرار اسلام پاکستان

۱۷ ذیقعدہ ۱۴۳۸ھ، 10/10 اگست 2017ء

حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی مدظلہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

زیر نظر کتاب ”حیات انوری“ حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات پر مبنی ہے، حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اکابرین دیوبند میں ہوتا ہے، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اور امام العصر حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی تلامذہ اور قطب الارشاد حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بے پناہ عقیدت رکھتے تھے، اسی والہانہ محبت و عقیدت کی وجہ سے اپنے نام محمد کے ساتھ ”انوری“ لاحقہ لگاتے تھے جس کی وجہ سے محمد انوری کے نام سے مشہور ہوئے۔

حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی تحفظ ختم نبوت اور تحفظ ناموس صحابہ رضی اللہ عنہم کرتے ہوئے گزری، دشمنان ختم نبوت ہوں یا دشمنان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے علمی اور فکری تعاقب میں ہمیشہ سرگرم عمل رہتے تھے، آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہم جیسے طلبہ و علماء کے لیے مشعل راہ ہے۔ بڑے لوگوں کی کتاب پر تقریظ بھی بڑے لوگ لکھا کرتے ہیں، میں ایک کم علم طالب ہونے کے ناطے اور حضرت سے عقیدت مندی کی وجہ سے اگر لکھنا چاہوں تو پوری ایک کتاب لکھی جاسکتی ہے، حضرت کی دارفانی سے رخصتی کے بعد ان کی زندگی کو کتابی شکل میں یکجا کرنا بہت بڑا کام تھا جس کا بیڑا عزیزم مولانا راشد انوری صاحب نے اٹھایا اور ملک بھر کا دورہ کر کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کے متعلقین اور عقیدت مندوں سے ملاقات کر کے معلومات جمع کیں اور عزیزم ڈاکٹر عمران فاروق صاحب نے اس کو کتابی شکل دی، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے جس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس

کا اجر دنیا و آخرت میں عطا فرمائے، حضرت ﷺ سے تعلقات اور ان سے عقیدت اور زندگی میں جو کچھ ان سے سیکھنے کا موقع ملا احقر نے اس کو مضمون کی صورت میں کتاب میں درج کروا دیا ہے۔

حضرت ﷺ کے مقام و مرتبہ کا اندازہ اس چھوٹے سے واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے جس وقت آپ کا انتقال ہوا تو سرخیل ختم نبوت حضرت مولانا تاج محمود ﷺ رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹے لیکن غم و فکر کی وجہ سے نیند نہ آئی، رات بھر کروٹیں بدلتے رہے، بیٹوں نے پوچھا، ابا جان! آپ کو کوئی تکلیف ہے۔

تو فرمایا ہاں! مجھے آج ایسی تکلیف ہے جس کا علاج کسی کے پاس نہیں، آج ہمیں وہ شخصیت چھوڑ کر چلی گئی کہ جب ہم رات کو سوتے تھے تو وہ مصلیٰ پر ہمارے لیے دعائیں کیا کرتے تھے وہ مولانا محمد انوری ﷺ تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو شرف قبولیت سے نوازے اور عوام و خواص کے لئے نافع بنائے۔

محمد احمد لدھیانوی

۲۶ ذیقعدہ ۱۴۳۸ھ 19 اگست 2017ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Brig (R)
Dr. Hafiz Qari Foyouz-ur-Rehman
B.A. (University Distinction)
M.A. (Arabic, Islamic Studies, Urdu & Persian)
M.O.L (Master of Oriental Learning)
PHD (Islamic Studies)
Advance Diploma (Riyadh University)
Diploma in Arabic Interpretship (NIML)

برکیڈیئر (ر)

ڈاکٹر حافظ قاری فیوض الرحمن
ایم اے، ایم او ایل، پی ایچ ڈی
ایم اے عربی، اردو، فارسی، اسلامیات

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ
الْاَنْبِیَآءِ وَالْمُرْسَلِیْنَ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ وَمَنْ
تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ۔ اَمَّا بَعْدُ!

حیاتِ انوری (حضرت مولانا محمد انوری فیصل آبادی، م 1970ء) کا یہ
دوسرا ایڈیشن ہے جو عزیزانِ گرامی عمران فاروق اور محمد راشد انوری صاحبان کی
کوشش سے منظرِ عام پر آ رہا ہے۔ مؤخر الذکر مولانا محمد ایوب الرحمن کے فرزند اور
مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں۔

حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے ممتاز فاضل اور عالم
باعتدال تھے۔ انہوں نے 1339ھ میں علامہ محمد انور شاہ کشمیری، مولانا سید اصغر حسین،
مولانا مفتی عزیز الرحمن اور حضرت مولانا رسول خان رحمہم اللہ اور دیگر اساتذہ کرام
سے دورہ حدیث کی تکمیل کی تھی۔ فراغت کے بعد انہوں نے پنجاب یونیورسٹی
سے مولوی فاضل اور منشی فاضل کے امتحانات بھی پاس کئے تھے۔ انہیں حضرت
مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند سے مالٹا کی رہائی سے واپسی کے بعد دارالعلوم میں
اپنے استاذ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مولانا مفتی فقیر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی
سفارش پر بیعت کی سعادت کے ساتھ ان کی خدمت اور پھر ان سے خلافت بھی
حاصل ہوئی تھی۔

ان کے وصال کے بعد اپنے استاذ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے اتنے متاثر ہوئے کہ پھر ان کے ہاتھ پر بیعت سے مشرف ہوئے اور ان سے بھی خلافت حاصل کی۔ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی کے علاوہ اپنے وقت کے عظیم محدث اور فقیہ علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ (خلیفہ مجاز حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ) کی علم حدیث میں شاگردی اور پھر خلافت بھی حاصل تھی۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی محبت و عقیدت کی وجہ سے مولانا محمد نے اپنے نام کے ساتھ انوری کو شامل کر کے اپنے نام کا جزو بنا دیا۔ ان کے وصال کے بعد حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم راپوری رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین اور مشہور بزرگ حضرت مولانا عبدالقادر راپوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم ہونے کی بھی سعادت ملی۔ اس طرح ان کو اپنے وقت کے تین بزرگوں سے خلافت حاصل تھی۔

مولانا محمد انوری صاحب کو درسِ نظامی کی تدریس کے ساتھ کتبِ دورہ حدیث پڑھانے کا موقع بھی ملا اور ان کے شاگردوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ مسجد میں امامت و خطابت کے علاوہ تصنیف و تالیف اور وعظ و تبلیغ کے شعبوں میں کام کا موقع بھی ملا اور اہل فیصل آباد کو ان کی ان خدمات سے بھرپور استفادہ کرنے کا خوب موقع ملا۔ ساتھ ہی بیعت اور مریدوں کی اصلاح و تربیت کا سلسلہ بھی جاری رہا۔

مولانا انوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام زندگی دین کی خدمت میں گزاری اور پھر 1970ء میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے۔ ان کا سوانحی تذکرہ میری تصنیف ”مشاہیر علمائے دیوبند“ مطبوعہ 1976ء لاہور، جلد 1، صفحہ 422-424 تک تین صفحات میں شائع ہوا تھا۔

اللہ والوں کے تذکروں سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ان کے

تذکرے پڑھ کر اُن کی طرح دین پر ڈٹ کر چلنے کا عزم بھی پیدا ہوتا ہے اور اس تذکرہ کی اشاعت سے بھی یہی مقصود ہے۔

عزیز محمد راشد صاحب کا جذبہ قابلِ قدر اور قابلِ تحسین ہے کہ انہوں نے وہ کام کیا جو اُن کے والدِ گرامی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے دادا جان کی زندگی اور کام پر ”حیاتِ انوری“ اور علامہ انور شاہ کشمیری پر اُن کی تصنیف ”انوارِ انوری“ اور ان کی دیگر تمام تصانیف ”کلیاتِ انوری“ میں دوبارہ شائع کر کے قارئینِ کرام کے لئے پڑھنے کی سہولت مہیا کر دی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُن کی ان خدمات کو قبولیت سے نوازیں اور اس علمی ذخیرہ کو اُن کے والد، دادا جان اور خاندان کے مرحومین اور خود ان کے لئے صدقہ جاریہ بنائیں۔ آمین مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری اُمید ہے کہ کتاب کا یہ ایڈیشن پہلے ایڈیشن سے بھی کہیں بہتر ہوگا اور شائقین اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے۔

طالبِ رحمت

فیض الرحمن

ڈاکٹر حافظ قاری فیض الرحمن

بروز پیر ۵ رجب ۱۴۴۱ھ / 2 مارچ 2020ء

پیش لفظ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے جد امجد حضرت اقدس مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ پر مستقل سوانح حیات منظر عام پر آرہی ہے، ایک عرصہ سے دل میں یہ خواہش تھی کہ دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کی حیات پر مستقل سوانح مرتب ہونی چاہئے، والد محترم حضرت مولانا محمد ایوب الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی خواہش تھی، اس سلسلہ میں انہوں نے کافی کوشش بھی کی لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر تاخیر ہوتی رہی حتیٰ کہ ۲۰ رمضان المبارک ۱۴۳۶ھ بمطابق 8 جولائی 2015ء کو آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔

حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معتمد خاص و خلیفہ مجاز میرے محترم و مخلص دوست ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کی بھی عرصہ دراز سے یہی خواہش تھی کہ حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ پر سوانح ہونی چاہیے جس کا وہ اکثر اظہار بھی کرتے تھے، اس سلسلہ میں میری خواہش پر انہوں نے ایک جامع مضمون لکھا جو رسالہ ماہنامہ ”صلوا علیہ وآلہ“ میں چھپا۔ جسے پڑھ کر کئی حضرات نے تقاضا کیا کہ حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ پر مستقل سوانح مرتب ہونی چاہیے چنانچہ ان حضرات کی خواہش دیکھ کر اس کام کا پختہ ارادہ کر لیا اور محترم عمران فاروق صاحب کے ہاں فیصل آباد پہنچا اور یہ ذمہ داری انہیں سونپ دی گئی، انہوں نے بھی مکمل تعاون کرتے ہوئے تمام تر مصروفیات ترک کر کے ابتدا کر دی۔ تقریباً چالیس دن میں کام مکمل ہوا۔ اس دوران میں نے حضرت دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کے حالات جمع کرنے کے لیے

مختلف شہروں کا سفر کیا۔ الحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی اور سوانح کا کام پایہ تکمیل کو پہنچا، ہر ممکن کوشش کی گئی ہے کہ ہر بات باحوالہ ہو۔

کتاب کے آخر میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سوانح بھی شامل کی ہے اور والد صاحب کی اکابر علماء و مشائخ سے ملاقاتیں جو انہوں نے ذاتی یادداشت کے طور پر نوٹ کیں تھیں ”نسبت کے قدردان“ کے عنوان سے شامل کر دی گئی ہیں۔ ان میں سے اکثر ملاقاتوں میں میں بھی والد صاحب کے ساتھ ہتا، کیونکہ سفر و حضر میں تقریباً پچیس سال میں والد صاحب کی خدمت میں ہی رہا، بہت سے اکابر علماء و مشائخ کی خدمت میں اور خانقاہوں میں جانے کی سعادت حاصل ہوئی۔

اللہ تعالیٰ اس کتاب کو عوام و خواص کے لیے نافع بنائے اور ہمارے لیے ذریعہ آخرت بنائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اساتذہ و مشائخ اور متوسلین کی قبور کو نور سے منور فرما کر اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

محمد راشد انوری

ابن حضرت مولانا محمد ایوب الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ

نبیرہ حضرت اقدس مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ

کیم ذیقعدہ ۱۴۳۸ھ بمطابق 26 جولائی 2017ء

عرضِ مؤلف

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد صلوة دائمة
مقبولة تؤدى بها عنا حقه العظيم۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے مقبول و مخلص بندوں کے ذریعے توحید و سنت کی اشاعت کا انتظام فرمایا ہے، یہ وہ سعادت مند بندگانِ خدا ہیں جنہیں مخلوقِ خدا کی رشد و ہدایت کے لیے چُنا گیا، انہیں اہل اللہ میں سے حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو اپنے دور کے عارفِ باللہ، قطب الارشاد اور شیخ العلماء و المشائخ تھے، ”فناء الفناء“ جن کا خاص وصف تھا اور ”بقا باللہ“ جن کا خاص مقام تھا۔ کثرتِ ذکر اللہ اور اپنی نفسی یہ دوا ہم چیزیں ہیں جو خانقاہ رائے پور کی پہچان ہیں۔ جید علماء و صلحاء حضرت اقدس رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ تھے، بعد میں جن کا اپنے اپنے دور میں بلند پایہ مشائخ میں شمار ہوا۔

آپ ہی کے جید خلفاء میں سے ایک عظیم نام ایک درخشندہ ستارہ، دُر تابندہ، گوہر نایاب حضرت اقدس مولانا محمد انوری لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہیں آپ کی مجلس میں نہایت خاص مقام حاصل تھا۔ حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی احقر کے لیے نیا نہیں کیونکہ یہ وہ نام ہے جس سے بچپن ہی سے کان آشنا ہیں اور قلبی محبت قائم ہے، احقر مؤلف کے نانا جان میاں عنسلام مصطفیٰ جالندھری رحمۃ اللہ علیہ بن میاں رحیم بخش جالندھری رحمۃ اللہ علیہ جب کانگنا نزد ملسیاں ضلع جالندھر سے ہجرت کر کے فیصل آباد آئے تو حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ سے والہانہ تعلق قائم ہو گیا، جب حضرت نانا جی رحمۃ اللہ علیہ نے چک نمبر 213 سوساں روڈ میں مسجد بنوائی تو حضرت

مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی انجمن کا نام ”انوار الاسلام“ رکھا جو آج بھی اسی نام سے موسوم ہے۔ ناناجی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت اقدس رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت بھی حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ ہی نے کروایا تھا، میرے والدین کا نکاح بھی آپ ہی نے پڑھایا تھا، جب ناناجی رحمۃ اللہ علیہ حج پر روانہ ہونے لگے تو حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ذاتی نسخہ قرآن مجید کا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ والا عنایت فرمایا تھا۔

آپ کے داماد حضرت مولانا انیس الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ناناجی کا بہت تعلق تھا۔ ناناجی رحمۃ اللہ علیہ کی مدرسہ والی مسجد کے قریب ہی چک نمبر 213 میں رہائش تھی، احقر کی پیدائش بھی اسی چک میں ہوئی اور نماز جمعہ و عیدین کے لیے مدرسہ والی مسجد خالصہ کالج جانا احقر کو اچھی طرح یاد ہے، ناناجی رحمۃ اللہ علیہ کے برادر اصغر میاں منظور الحق، انوری مسجد کی انتظامیہ میں شامل تھے۔ غرض یہ کہ حضرت اقدس رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا فیض اولاً حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کی بدولت ہی ہمارے خاندان تک پہنچا، اس ناکارہ ناچیز کو حضرت مولانا انوری رحمۃ اللہ علیہ کی چند بار خواب میں بھی زیارت اور گفتگو نصیب ہوئی، جس میں سب سے پہلی زیارت میرے لیے وصیت و مبشرات کی حیثیت رکھتی ہے، یہ آپ کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد ایوب الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ اور تلقین کردہ وظیفہ کی برکت تھی۔ خواب میں دیکھا کہ میں قبر کے سامنے بیٹھا ہوں، حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر مبارک میں سے نیچے سے اوپر تشریف لائے، آپ خود بھی تشریف فرما ہیں، نہایت خوبصورت اور نور سے منور چہرہ..... مجھ سے دونوں ہاتھوں سے سلام لیا، ہاتھ نرم و لطیف..... فرمایا ”ذکر نہ چھوڑنا اور تمہاری موت درویشوں کی طرح آئے گی“ تقریباً یہی الفاظ تھے باقی یاد نہیں۔ حضرت مولانا محمد ایوب الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے احقر کو بتایا کہ والد صاحب کا کشفی پیغام ہے کہ ”میں

مجلس رائے پوری والوں سے خوش ہوں، آپ ان کی سرپرستی کریں وہ اور جگہ کم اور ڈھڈیاں شریف زیادہ جایا کریں، مجالس ذکر سے میں بہت خوش ہوں۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے مجلس رائے پوری کے زیر اہتمام حضرت اقدس رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کے حالات جمع و طبع کروانے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے جس کے تحت فیوضاتِ رائے پوری مع حیات درویش، تذکرۃ الجلیل اور تذکرہ ہیڈ ماسٹر میاں منظور محمد طبع ہو کر منظر عام پر آنے کے بعد الحمد للہ دادِ تحسین پانچسکی ہیں۔ یہ تالیف بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

فنائیت کے نتیجہ میں انخفاء احوال جو رائے پوری مشائخ کا خاص وصف ہے جس کی وجہ سے ان حضرات کے حالات جمع کرنے میں وقت پیش آتی ہے۔

حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مختلف تصانیف میں اپنے چیدہ چیدہ حالات کا ذکر فرمایا ہے لیکن آپ کی مکمل سوانح، ارشادات و واقعات یکجا صورت میں ابھی تک منظر عام پر نہیں آسکے، احقر کی خود بھی بہت خواہش تھی اور حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے صاحبزادہ محمد راشد انوری سلمہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک عرصہ سے اس سلسلہ میں پُر زور اصرار جاری تھا کہ آپ دادا جان رحمۃ اللہ علیہ اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح پر کام کریں، شخصیت بہت بڑی اور ان کے حالات و واقعات بھی وسیع و رفیع..... ہر بار بس سوچ کر ہی رہ جاتا، آخر کار صاحبزادہ صاحب احقر کے ہاں تشریف لے آئے کہ اب لکھو کر ہی جاؤں گا، اللہ کا نام لے کر ابتداء کر دی، چنانچہ اس سلسلہ میں سب سے پہلے ایک مختصر مضمون مرتب کیا گیا جو ماہنامہ ”صلو علیہ وآلہ“ میں سات اقساط میں چھپا، جسے پڑھ کر متعدد حضرات نے بھی حضرت مولانا انوری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح مرتب کرنے کا مطالبہ کیا، جس سے ارادہ مزید قوی اور حوصلہ بلند ہوا۔ چنانچہ یادگار اسلاف حضرت مولانا مجاہد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ سے مشاورت کی اور مقدمہ تحریر

کرنے کی درخواست کی۔ حضرت نے اپنی مصروفیات کے باوجود ہماری درخواست بخوشی قبول فرمائی، نیز حضرت اقدس صوفی محمد دین صاحب مدظلہ گوجرہ اور حضرت حاجی احمد یعقوب صاحب مدظلہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس مقصد کی تکمیل کے لیے دُعا کی درخواست کی۔

2003ء میں احقر کی پہلی مرتب کردہ کتاب ”فیوضات رائے پوری“ کی ڈھڈیاں شریف اجتماع میں رونمائی ہوئی تھی، یہی کتاب حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا محمد ایوب الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ کی احقر کے گھر تشریف آوری کا ذریعہ بنی، حضرت نے احقر کے ہاں قیام بھی فرمایا اور پھر 2004ء میں بھی یہ سعادت نصیب ہوئی، آخری بار 2006ء میں تشریف لائے، یہ میرے لیے باعث سعادت ہے۔ صاحبزادہ محمد راشد انوری بھی ساتھ ہوتے، بہت مستعد ہمہ وقت خدمت کے لیے تیار رہتے تھے۔ ماشاء اللہ

اس عرصہ میں حضرت سے رابطہ رہا اور خط و کتابت بھی جاری رہی، 29 دسمبر 2014ء کو احقر اور بھائی شیراز صاحب حضرت کی زیارت و ملاقات کے لیے کراچی حاضر ہوئے جو آخری ملاقات ثابت ہوئی، حضرت چونکہ اپنے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ اور احقر کے نانا جی رحمۃ اللہ علیہ کے باہمی تعلق سے بخوبی واقف تھے، نیز احقر کی سلسلہ خانقاہ رائے پور سے ہی نسبت تھی، اس کی برکت سے حضرت نے خوب محبت و عنایات سے نوازا۔ اس عرصہ قیام میں احقر نے حضرت کی زبانی ان کے خاندانی و ذاتی احوال متعدد کیسٹوں میں ریکارڈ کر لیے تھے، چنانچہ ان کیسٹوں کو سن کر تحریری شکل دی گئی، حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ کی دستیاب کتب اور قلمی تحریروں سے بھی استفادہ کیا گیا۔ صاحبزادہ صاحب نے نہایت لگن اور محنت سے اپنے دادا

جان عَلَيْهِ السَّلَام اور والد محترم عَلَيْهِ السَّلَام کے متعلق معلومات جمع کیں، دوسرے شہروں کے سفر کیے اور متعلقہ لوگوں سے ملے۔ جن میں سے چند اسفار میں احقر بھی ہمراہ تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہت جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنے اجداد کی نسبتوں کا امین بنائے۔ نیز احقر اپنے اہل و عیال اور رفیق طریقت حافظ غیور الاسلام صاحب کا نہایت ممنون و مشکور ہے جن کے تعاون سے اس کام کے لیے فرصت نصیب ہوئی۔

تقریباً ڈیڑھ ماہ میں مسودہ تیار کر کے کمپوزنگ اور پروف ریڈنگ کر کے صاحبزادہ صاحب کے حوالہ کیا، دریں اثنا رمضان المبارک میں احقر مع اہل و عیال حرمین شریفین کی حاضری کے مبارک سفر کے لیے روانہ ہو گیا، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی پُر انوار فضاؤں میں صیام و قیام اور جواری رسول حبیب کبریٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ میں عید الفطر کی سعادت نصیب ہوئی۔ گنبد خضراء کا پُر نور نظارہ کر کے صحن مسجد نبوی شریف میں اپنی عرض کو قصیدہ بردہ شریف کے ان اشعار پر مکمل کر رہا ہوں۔

مولاى صلِّ وسلِّم دائماً ابداً
على حبيبك خير الخلق كلهم
هو الحبيب الذى تُرجى شفاعته
لكلِّ هولٍ من الأحوال مُقتحِم

خاکپائے بزرگاں

ابوحذیفہ عمران فاروق بن روشن علی محمود

غَفَرَ اللهُ ذُنُوبَهُ وَسَتَرَ عُيُوبَهُ

حال موجود مسجد نبوی شریف مدینہ منورہ

بعد از نماز جمعہ، شوال ۱۴۳۸ھ بمطابق 30 جون 2017ء

مقدمہ

حضرت مولانا مجاہد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ

بیعت کردہ: حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ

شاگردِ رشید: حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ

فاضل: دارالعلوم ڈابھیل 1944ء

اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے جس طرح بعض مقامات کو فوقیت دی ہے، اسی طرح بعض شخصیات کو اعلیٰ اعزاز و اکرام سے سرفراز کیا ہے، ان میں سب سے ممتاز اور اعلیٰ شان کی ذاتِ اقدس خاتم الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین، مفسرین کرام، سیرت نگاران، آئمہ و مجتہدین و علماء کرام و اولیاء عظام رضی اللہ عنہم کی ہے، اسی طرح درجہ بدرجہ جن عظیم شخصیات کو عزت و عظمت سے نوازا گیا ہے وہ ہمارے لیے رُشد و ہدایت کا مینار ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی انہی برگزیدہ شخصیات میں سے ہمارے جن اسلاف نے برصغیر پاک و ہند میں اسلام کے صحیح افکار و نظریات کی شمعیں روشن کیں اور لوگوں کے ظلمت کدہ قلب و دماغ میں قرآن و سنت کی حلاوت ایمانی جاگزیں کی ان میں حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی آل و اولاد اور شاگردانِ رشید کے اسماء گرامی خصوصاً قابل ذکر ہیں، ان عظیم شخصیات کی دینی، علمی اور ملی خدمات کے ایمان منسروز

تذکروں سے ہماری تاریخ کے اوراق تابناک ہیں، اس عنوان کی معلومات افزا ضخیم کتابوں سے خصوصاً برصغیر پاک و ہند کے کتب خانے بھر چکے ہیں۔ اس کے باوجود لوگوں کی ان بزرگوں کے ساتھ محبت و عقیدت و احترام کا یہ عالم ہے کہ ہمہ وقت ایک تشنگی دامنگیر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جن نفوسِ قدسیہ کو علم و ادراک، زہد و تقویٰ، تصوف و سلوک اور حُب و اطاعت رسول ﷺ کی نعمتِ عظمیٰ سے سرفراز کیا ہے ان میں حضرت شیخ المشائخ جلیل القدر عالم باعمل حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی خصوصاً قابل ذکر ہے۔

چنانچہ اسی جذبہٴ عقیدت و احترام کے تحت برادر ابو حذیفہ عمران فاروق صاحب نے کتاب کی تصنیف و تالیف کی سعادت حاصل کی اور عزیزم مولوی محمد راشد انوری سلمہ نے اپنے دادا جان شیخ المشائخ مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات کے نام سے ایسی معلومات یکجا کی ہیں جو متوسلین شیخ کے لیے روحانی تسکین کا موجب اور جن کے مطالعہ سے اہل علم و قلم باسانی مستفید ہو سکیں گے۔

حضرت شیخ مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت گرامی میں اس فقیر کو متعدد مرتبہ حاضری کی سعادت ملی اور ان کی شخصیت سے روحانی اور علمی تشنگی رفع کرنے کی حتی المقدور کوشش کی ہے لیکن ان کے سفرِ آخرت کے بعد اپنی محرومی کا احساس شدید تر ہو گیا، راقم الحروف کو حضرت شیخ انوری رحمۃ اللہ علیہ کا پہلی مرتبہ زیارت کا شرف مدرسہ خیر المدارس جالندھر کے سالانہ جلسے کے موقع پر ہوا تھا۔ وہ جلسہ متحدہ ہندوستان کے جلیل القدر علماء و خطباء کا ایک مثالی اور منفرد اجتماع کا آئینہ دار ہوتا تھا۔ میں اس مجمعِ علم و فضل میں حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا وہ جس قدر ظاہری حسن و جمال کے پیکر تھے اسی قدر وہ روحانی طور پر بھی

اپنے اسلاف کے نفوسِ قدسیہ سے صحیح طور پر خوشہ چیں تھے۔

مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ ضلع جالندھر کی تحصیل نکودر کے مشہور قصبے ”اُوگی چٹی“ کے باشندہ تھے، آپ کے والد ماجد مولانا فتح الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے ممتاز عالم دین اور پیر طریقت کے حیثیت سے نامور تھے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط اور ان کی تحریروں کو محفوظ رکھنے کا اہتمام ان کی دلچسپی اور مساعیٰ حسنہ کا حصہ تھا، مولانا فتح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کے جلسہ دستار بندی ۱۳۲۸ھ میں شرکت کی تھی۔

حضرت مولانا فتح الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کی عظیم علمی و دینی شخصیت تھے ان کے فضل و کمال کا اندازہ ان مکتوبات گرامی سے لگایا جاسکتا ہے جو حضرت شیخ المشائخ شاہ عبدالرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی فقیر اللہ رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے عظیم دینی و علمی شخصیات کے نام تحریر کیے تھے۔

حضرت مولانا فتح الدین رحمۃ اللہ علیہ کے لخت جگر حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی، بعد ازاں دارالعلوم دیوبند میں اکتساب فیض کیا اور دنیائے اسلام کے ایک منفرد محدث کبیر حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص تلامذہ میں ممتاز حیثیت سے سرفراز ہوئے، فراغت کے کافی عرصہ بعد حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مشورہ سے ضلع لدھیانہ کے مشہور

قصبہ رائے کوٹ میں سلسلہ تعلیم و تدریس کا آغاز کیا۔ اس ضلع کی شخصیات میں رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مفتی محمد نعیم لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ مشہور تھیں۔

اول الذکر دونوں شخصیات میں سے مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ تو برصغیر کی بڑی دینی جماعت مجلس احرار الاسلام کے بانیوں میں شامل تھے، اور آل انڈیا مجلس احرار اسلام کے صدر بھی رہے، لیکن مولانا مفتی محمد نعیم رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء ہند کے ایک رہنما کی حیثیت سے ہی متعارف ہو سکے تھے۔

شیخ المشائخ مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شرف و اعزاز حاصل ہے کہ ان کی پہلی بیعت حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی دوسری شیخ الحدیث مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے اور تیسری بیعت حضرت شیخ المشائخ مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی؛ لیکن انوری کی نسبت حضرت شیخ الحدیث مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی سے بیعت اور خلافت کے باعث ہے، مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شرف و اعزاز قابل ذکر ہے کہ آپ نے اورینٹل کالج لاہور سے مولوی فاضل، منشی فاضل اور ادیب عالم کے امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کر کے شاندار مثال قائم کی تھی؛ اسی لیے آپ کا انداز استدلال منفرد اسنہ ہوتا تھا۔

حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ علماء کے حلقے میں اپنے علمی تفوق اور زہد و تقویٰ کے اعتبار سے ممتاز شمار ہوتے تھے، اس مختصر مضمون میں ان کی حیات علمی و ملی کا احاطہ مشکل ہے البتہ ان کی زندگی کے ناقابل فراموش واقعات میں سے قادیانی مسئلے کی بابت مقدمہ بہاول پور کا حوالہ زبردست اہمیت رکھتا ہے۔

1926ء میں احمد پور شرقیہ ریاست بہاول پور کی ایک مسلمان عورت کا

نکاح غلط فہمی کی وجہ سے ایک مرزائی عبدالرزاق سے ہو گیا تھا بعد ازاں جب خاوند نے اپنے رشتہ دار مولوی الہی بخش سے اپنی زوجہ غلام عائشہ بی بی کی رخصتی چاہی تو عبدالرزاق کے مرزائی ہو جانے کا معلوم کر کے غلام عائشہ بی بی کی رخصتی کے بجائے جناب محمد اکبر خاں ڈسٹرکٹ جج بہاولپور کی عدالت میں تین بیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر دیا گیا تھا، یہ مقدمہ کئی سال تک چلتا رہا، مرزائی چونکہ حکومت برطانیہ کی سرپرستی اور مالی تعاون کے باعث سرگرم عمل تھے وہ برطانوی سرکار کا بے دریغ روپیہ خرچ کر کے مقدمہ اپنے حق میں کرانے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے، ان کے بالمقابل مسلمان اگرچہ مالی اعتبار سے کمزور تھے مگر حمیتِ اسلامی اور غیرتِ دینی کے ایمان افروز سرمائے سے خوب مالا مال تھے۔

اسی مقدمے کی پیروی کے سلسلے میں مجلس احرار اسلام، انجمن مؤید الاسلام اور حزب اللہ کے علاوہ بہاول پور کے نواب حساندان کے افسراد اور اسلامیان ریاست بہاول پور نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ اس مقدمے کی اہمیت کے پیش نظر برصغیر پاک و ہند کی عظیم دینی و علمی شخصیات نے خاص دلچسپی اور حمیتِ اسلامی کا مظاہرہ کر کے تاریخ ساز کارنامہ سرانجام دیا تھا۔ ان عظیم شخصیات میں سے شیخ الحدیث مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالوفاء شاہجہا پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام محمد شیخ الجامعہ بہاول پور رحمۃ اللہ علیہ، مولانا پروفیسر نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ نیشنل کالج لاہور اور مولانا محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ بہاول پور کے اسماء گرامی خصوصاً قابل ذکر ہیں، اس مقدمے کی تیاری اور کتب کے حوالہ جات پیش کرنے کے سلسلے میں شیخ الحدیث مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بطور خاص اپنے ساتھ حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات حاصل کی تھیں،

اس تاریخی مقدمے کا فیصلہ 7 فروری 1935ء بمطابق ۳ ذیقعدہ ۱۳۵۳ھ کو مسماة غلام عائشہ دختر مولوی الہی بخش کے حق میں ہو کر مرزائی مرتد کے ساتھ مسلمان عورت کا نکاح کی عدالتی تہنیت ہو گئی تھی۔

جن دنوں شیخ الحدیث مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہاول پور میں مقدمے کی سماعت اور مسلمانوں کا موقف بیان کرنے کے سلسلے میں بہاول پور تشریف لاتے تھے حضرت مولانا محمد انور رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمراہ ہوتے تھے، آپ نے اپنے استاذ محترم حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پر اپنے تحریر کردہ ایک مضمون میں بہاول پور کے سفر کا حال بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت مولانا محمد انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی گہری محبت اور تعلق خاطر تھا، جب دیوبند سے لاہور پہنچے تو حضرت نے فرمایا کہ مفتی صاحب ملتان جیل میں پس دیوار زنداں ہیں اس مرتبہ ان سے مل کر جانے کو جی چاہتا ہے۔“

چنانچہ ملتان پہنچے تو وہاں کے ممتاز علماء کرام آپ کے خدام اور عقیدت مندوں کا بڑا مجمع اسٹیشن پر استقبال کے لیے حاضر تھا، حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ملتان جیل کے قیدیوں سے ملاقات کا ارادہ ظاہر کیا تو مجلس احرار اسلام کے مقامی رہنماؤں نے جیل خانے کی انتظامیہ سے اجازت حاصل کر لی۔ مولانا محمد انور رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دوسرے قیدیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جیل خانے کے قیدیوں کو جب شیخ الحدیث مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری کی اچانک خبر ملی تو وہاں عید کا سماں ظاہر ہو گیا۔ جب حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کوٹھڑی سے ملاقات کو تشریف لائے تو وہ

منظر بڑا رقت آمیز تھا دونوں حضرات معانقہ کے دوران اشکبار تھے اسی دوران حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ (والد ماجد مولانا شاہ احمد نورانی)، مولانا سید محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، چوہدری افضل حق رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاری عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مظہر علی اظہر رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو آگئے تھے۔ مولانا محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی وساطت سے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ وہ علامہ راغب احسن کی معرکہ آراء کتاب مفردات القرآن کا اردو ترجمہ کرنا چاہتے ہیں، اسی پر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے چند کتابوں کے نام بھی لکھوائے کہ ان سے استفادہ ضروری ہے، پھر جیل کے اندر مختلف شخصیات کی تصانیف اور تحقیقی کام کی بابت حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیر تک گفتگو کرتے رہے۔

قریباً ڈیڑھ گھنٹے کی اس ملاقات میں بعض تاریخی معلومات بھی منراہم ہوئیں تھیں، چنانچہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ:

”حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب حکومت نے جیل خانے میں بھیجا تھا کہ آپ کے شاگردوں میں سے آپ کا زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ نے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا، اس پر حکومت نے انہیں بھی گرفتار کر کے آپ کے ساتھ کر دیا تھا، پھر دریافت کیا گیا کہ یہاں پر کسی چیز کی ضرورت ہو تو فرمائیے۔ امام حافظ بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کاغذ، دوات اور قلم کا تقاضا کیا یہ چیزیں انہیں فراہم کر دی گئیں، جب کاغذ وغیرہ ختم ہو گئے تو انہوں نے جیل کی دیواروں پر لکھنا شروع کر دیا حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ

نے مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب اشارہ بتایا کہ مفتی صاحب کی خدمت میں ان کے محبوب شاگرد مولانا احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہیں، اب یہاں سے کوئی تاریخ ساز دستاویز تیار کر کے ہی باہر جانا چاہیے۔“

بہر حال حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ اکابر علماء دیوبند کے بہت سے تاریخی واقعات کے عینی شاہد تھے اور سفر و حضر میں جس قدر سعادت آپ کو نصیب ہوئی ہے بہت کم حضرات کو ملی ہے۔

قیام پاکستان کے بعد مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد تشریف لے آئے اور اس شہر کے محلہ سنت پورہ میں آپ کی رہائش تھی، آپ کی شخصی عظمت کی مقدس یادگار جامع مسجد انوری موجود ہے، جہاں پر برصغیر کی عظیم دینی و علمی شخصیات رونق افروز ہوتی رہی ہیں۔

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ تشریف لائے ہیں، مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلانے کے سلسلے میں تاریخ ساز کارنامے انجام دیئے ہیں۔ ایسی باکمال شخصیت کی دینی، علمی اور ملی خدمات پر مشتمل کتاب کی اشاعت ایک لائق تحسین و تقلید کارنامہ ہے۔

برادر مکرم عمران فاروق صاحب اور عزیزم محمد راشد انوری مستحق تبریک ہیں کہ انہوں نے کافی محنت اور سعی مسلسل کے بعد مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم شخصیت کی زندگی اور آپ کی دینی و علمی خدمات سے امت مسلمہ کو روشناس کرانے کی خاطر مدلل اور مصدقہ معلومات کا ایک گلدستہ تیار کیا ہے جس کی مہک دیر تک

ماحول کو معطر رکھے گی۔

مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کی چند علمی و تحقیقی کتب طبع ہو چکی ہیں ان میں سے مکتوبات بزرگاں ایک تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتی ہیں نیز مکرم حکیم عمر ان فاروق صاحب اور عزیز محمد راشد انوری نے ”کلیاتِ انوری“ کے نام سے دستیاب کتب کی از سر نو کتابت اور دیگر تمام قلمی مسودات کی طباعت و اشاعت کا اہتمام کیا ہے۔ یہ ایک علمی خدمت کے ساتھ تاریخی معلومات سے امت مسلمہ کی نظری و فکری رہنمائی کی بھی لائق تحقیق کوشش ہوگی۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معلوماتی پیشکش کو شرف قبولیت سے نوازے اور ایسی مزید کتب شائع کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین

دعا گو فقیر
عبدالحمن

۲۱ ذیقعدہ ۱۴۳۸ھ 14 اگست 2017ء

قطب الاقطاب عالم ربانی شیخ الحدیث

حضرت مولانا محمد انوری قادری لائل پوری نور اللہ مرقدہ

بے شمار اہل علم و فضل اور ارباب صدق و وفا ایسے گزر چکے ہیں جن کے نام سے آج کوئی واقف ہونہ ہو مگر ان کے علم و تقویٰ اور جہد و عمل کا فیضان تاقیامت جاری و ساری رہے گا، انہیں اصحاب عزیمت، عالمان قرآن و سنت اور بزرگان زہد و اتقاء میں مرشدِ دوراں عالم حدیث و قرآن معدن صدق و عرفان حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔

خاندانی پس منظر:

آپ کے آباؤ اجداد مشرقی پنجاب کے ضلع جالندھر تحصیل نکودر کے گاؤں موضع ”اُوگی بہادر کے“ سے تعلق رکھتے تھے، یہ بہت بڑا گاؤں تھا۔ آپ کے والد مولانا فتح الدین رشیدی اپنے وقت کے رئیس لوگوں میں سے تھے، آپ کی جالندھر کے علاوہ ٹوبہ ٹیک سنگھ اور چشتیاں میں بھی زرعی اراضی تھی۔

نمبرداری:

مولانا فتح الدین زمینوں کی دیکھ بھال کے سلسلے میں ”اُوگی بہادر کے“ ضلع جالندھر اور اُوگی چک ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کے سفر کرتے رہتے تھے، دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں جگہ کی نمبرداری آپ کے پاس تھی۔

مولانا فتح الدین نے ابتدائی کتب کا درس مولانا بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے لیا اور تکمیل حضرت مولانا محمد فاروقی کوٹوی رحمۃ اللہ علیہ سے کی۔ آپ مذاہب آئمہ اربعہ پر ناقدانہ وسیع نظر رکھتے تھے۔ بڑی بڑی ضخیم کتب فقہ، فتاویٰ شامی عالمگیری، بحر الرائق وغیرہ کا متعدد بار مطالعہ فرمایا۔ مبسوط، کتب تفسیر مثل تفسیر کبیر وغیرہ از بر

تھیں۔ مسائل علم کلام اور جزئیات فقہیہ مع ان کے ادلہ کے محفوظ تھے۔ دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم سہارنپور کے ساتھ والہانہ عقیدت تھی، ان مدارس کی مدت العمر مالی خدمت فرماتے رہے۔ تمام عمر احیاء سنت اور اہانت شرک و بدعت میں گزار دی۔ ۱۳۰۳ھ میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور منازل سلوک طے کرتے رہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ مراسلت جاری رہتا تھا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کیا۔ دارالعلوم دیوبند کے ۱۳۲۸ھ جلسہ دستار بندی کے موقع پر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی دعوت پر شریک ہوئے۔ جاتے ہوئے بوریوں میں بند کر کے مسواکیں لے گئے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بہت پسند فرمایا کہ آپ یہ بہت کام کی چیز لائے ہیں۔ غالباً چار بوریاں تھیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے ایک ایک مسواک مہمانوں میں تقسیم فرمائیں۔

مولانا فتح الدین رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد:

آپ کے تین نکاح تھے جن سے آپ کے تین صاحبزادے: (1) مولانا اللہ بخش رحمۃ اللہ علیہ (۱) (2) مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ (3) عبداللہ (جن کا ہندوستان میں ہی میں انتقال ہو گیا تھا) اور تین بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی کی شادی مولانا محمد سلیم لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، دوسری بیٹی کی شادی اوگی چک ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ایک بڑے زمیندار گھرانے میں چوہدری جان محمد کے ساتھ ہوئی جبکہ تیسری کی شادی مولانا محمد خلیل اللہ لدھیانوی سے ہوئی جو مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعۃ الرشید کراچی والوں کے بڑے بھائی تھے۔

(۱) مولانا اللہ بخش رحمۃ اللہ علیہ قیام پاکستان کے بعد حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ حج کے روز میدان عرفات میں انتقال ہوا۔ مکہ مکرمہ کے مقدس قبرستان جنت المعلیٰ میں مدفون ہیں۔

پہلی اہلیہ کا قیام پاکستان سے کافی عرصہ پہلے ہندوستان میں انتقال ہو گیا تھا جس کے بعد مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری شادی کر لی تھی، دوسری اہلیہ سرگروہ گھی ملز کے مالک حاجی محمد شفیع کی پھوپھی تھیں۔ حاجی محمد شفیع کا حساندان جالندھر کا رہنے والا تھا۔ یہ لوگ قیام پاکستان سے قبل بھی خوش حال تھے اور ان کا شمار سرکردہ کاروباری افراد میں ہوتا تھا، اور ان اہلیہ محترمہ کا انتقال بھی قیام پاکستان سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ خاندانی شجرہ نسب اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں۔

آپ نے بہت سے افراد کو دین کی طرف متوجہ فرمایا جیسا کہ حضرت مولانا محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ سابق شیخ الحدیث خیر المدارس ملتان نے 1944ء میں مڈل پاس کیا تو آپ ہی نے انہیں رائے پور گجراں مدرسہ میں داخل کروایا۔

آخر میں تمام اوقات ذکر الہی میں گزارتے تھے اور اپنے بیٹے مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قیام فرمایا تھا۔ کبھی اپنے آپ کو مولوی نہیں کہلایا، فرماتے ”بھئی میں علمائے حقانی کا خادم ہوں مولوی نہیں ہوں“۔

آپ کی تصانیف میں: (۱) النظر فی القری، الجمعۃ فی القسری کارڈ (۲) تنبیہ الغافلین۔ بدعات و رسوم کارڈ (۳) گاؤں اور نماز جمعہ اور نماز عید (۴) ختم مرسومتہ الہند (۵) حقیقی حنفیت (۶) ایک کتاب سجدہ تعظیمی کے رد میں (۷) عشرہ محرم اور تعزیہ (غیر مطبوعہ) خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

آپ اپنی چھوٹی بیٹی (زوجہ مولانا محمد خلیل اللہ رحمۃ اللہ علیہ برادر مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ) سے ملنے ٹنڈوالہ یار گئے ہوئے تھے، وہاں ایک ہفتہ ٹھہرے، اسی دوران بخار اور پیٹ درد کی شکایت ہو گئی اور پھر تین دن کے بعد ۲۲ ذوالحجہ ۱۳۷۰ھ / 24 ستمبر 1951ء بروز پیر 95 سال کی عمر میں واصلِ بحق ہوئے۔ اور ٹنڈوالہ یار ہی میں دفن ہیں۔

شجرہ نسب مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ

محمد ناظر
↓
محمد بہلول
↓
محمد دائم
↓
محمد عالم
↓
محمد محکم
↓
پیر بخش
↓
مولانا فتح الدین

مولانا اللہ بخش بیٹی (زوجہ مولانا محمد سلیم لدھیانوی)
عائشہ بی بی (زوجہ مولانا محمد خلیل لدھیانوی)
محمد عبداللہ مولانا محمد انوری
فاطمہ بی بی (زوجہ جان محمد)

مولانا عبدالرحمن حبیب الرحمن	مولانا عزیز الرحمن	مولانا سعید الرحمن	مولانا مسعود الرحمن	مولانا مقبول الرحمن	مولانا ایوب الرحمن
1 حبیب الرحمن	1 رشید الرحمن	1 محفوظ الرحمن	1 ضیاء الرحمن	1 محمد قاسم	
2 خلیل الرحمن	2 عتیق الرحمن	2 محبوب الرحمن	2 احسان الرحمن	2 محمد طیب	
3 چھ بیٹیاں	3 جلیل الرحمن	3 عطاء الرحمن	3 چار بیٹیاں	3 محمد راشد	
	4 اسد الرحمن	4 ایک بیٹی	4 اہلیہ ثانی	4 دو بیٹیاں	
	5 تین بیٹیاں	4 تین بیٹیاں			

خدیجہ زوجہ مولانا انیس الرحمن لدھیانوی صدیقہ زوجہ مولانا عبدالجلیل صالحہ زوجہ حافظ عزیز الرحمن

1 عبد الرحمن	1 قاری محمد شفیق	1 حبیب الرحمن
2 حفظ الرحمن	2 قاری احمد سعید	2 حبیب الرحمن
3 حبیب الرحمن	3 دو بیٹیاں	3 منیب الرحمن
4 ایک بیٹی		4 پانچ بیٹیاں

عبدالغنی
↓
مولانا عبدالغنی
1 عبدالباقی
2 عبدالقدوس

محمد عباس	محمد الیاس	مولانا محمد فیاض	محمد عبداللہ
1 حافظ نعمان	1 ابو بکر	1 محمد احمد	1 محمد اولیس
2 مفتی محمد عثمان زاہد	2 عمیر	2 محمد اسامہ	
3 محمد رضوان			

قوم آرائیں:

آبائی وطن کو در ضلع: جالندھر 1930 کے اوائل میں رائے کوٹ ضلع لدھیانہ منتقل ہوئے 1947ء میں ہجرت کی لائل پور (فیصل آباد) سکونت اختیار کی

مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت:

آپ ۶ صفر ۱۳۱۹ھ بمطابق 25 مئی 1901ء بروز ہفتہ کو پیدا ہوئے۔
اسم گرامی کی وجہ تسمیہ:

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے اجلہ خلفاء میں سے حضرت مولانا محمد صاحب قدس سرہ کوٹ بادل خان ضلع جالندھر (جو حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ اور مولانا شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ مصنف تفسیر حقانی کے ہم سبق تھے) مولانا فتح الدین رشیدی رحمۃ اللہ علیہ پر بے حد مہربان تھے۔

حضرت مولانا محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے صاحبزادہ حضرت مولانا محمد عبداللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ (خلیفہ ارشد حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ) اور حضرت حافظ محمد صالح رحمۃ اللہ علیہ (خلیفہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور والد ماجد حضرت مولانا عبدالعزیز رائپوری رحمۃ اللہ علیہ و پیر جی مولانا عبداللطیف رائپوری رحمۃ اللہ علیہ چچہ وطنی) اور مولانا مفتی فقیر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ (والد ماجد حضرت مولانا عبداللہ رائپوری رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ رشیدیہ ساہیوال) یہ سب حضرات مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کے عقیقہ پر تشریف لائے تھے، حضرت مولانا محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے نام پر ”محمد“ نام میں نے رکھ دیا ہے اور برکت کی دعا فرمائی۔ حضرت مولانا محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال اسی سال ہوا اس وقت مولانا فتح الدین رحمۃ اللہ علیہ ریل گاڑی میں بیٹھ چکے تھے تو مولانا محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کی اطلاع ملی۔

آپ کو چک 251 گرب ضلع لائل پور (موجودہ فیصل آباد) میں زمین ملی اور اسی چک میں مقیم ہو گئے۔ مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا انتقال بھی اسی گاؤں میں ہوا تھا۔ حضرت مولانا فتح الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے اپنے داماد مولانا محمد خلیل اللہ لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ (برادر اکبر حضرت

مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ (کراچی) کے گھر ٹنڈوالہ یار سندھ تشریف لے گئے۔ اور 1950ء میں وہیں وصال ہوا۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے پاکیزہ ماحول میں آنکھ کھولی جو خالصتاً دینی و علمی خوشبوؤں سے معطر تھا۔

حصولِ علم:

مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کا اولین مکتب ان کا گھر ہی تھا۔ پانچ سال کی عمر میں حافظ حکیم محمد عمر جالندھری رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن مجید ناظرہ پڑھا۔ غالباً چھٹی جماعت میں داخل ہو گئے تھے کہ آپ کے والد صاحب نے فارسی شروع کرا دی اور بوستان تک گھر ہی میں پڑھا کتابیں حفظ ہو گئیں تھیں۔ پھر آپ کے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نورِ نظر کو دریائے ستلج کے کنارے مدرسہ راپور گوجراں میں حصولِ علم کے لیے داخل کروا دیا۔ یہ صرف درس گاہ ہی نہ تھی بلکہ ارباب زہد و تقویٰ کا مرکز اور خانقاہ رشد و ہدایت تھی۔ عارف حق حضرت حافظ محمد صالح خلیفہ اعظم حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ کے سرپرست اعلیٰ تھے اور ماہرِ علوم عقلیہ و نقلیہ حضرت مفتی فقیر اللہ راپوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا فضل احمد راپوری رحمۃ اللہ علیہ مدرسین اعلیٰ تھے۔ آپ کے والد مولانا فتح الدین رشیدی رحمۃ اللہ علیہ خود اس درس گاہ کے بانیوں میں سے تھے۔ مدرسہ کی مالی سرپرستی بھی فرماتے تھے۔ بیٹے کو حصولِ تعلیم کے لیے بھیجا تو اس کے لیے خورد و نوش کا انتظام الگ سے اپنے طور پر کیا۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کا قیام و طعام حضرت حافظ محمد صالح رحمۃ اللہ علیہ کے گھر رہا، پھر حضرت مفتی فقیر اللہ صاحب کے نکاح کے بعد ان کے گھر انتظام ہو گیا۔ آپ کے والد مرحوم ماہانہ خرچ مولانا کی خدمت میں ارسال کر دیتے تھے۔ مولانا انوری رحمۃ اللہ علیہ دورانِ تعلیم مدرسہ پر کبھی بوجھ نہیں بنے۔ دورانِ تعلیم ناسازی طبیعت کے باعث دو سال پڑھنا چھوڑ دیا۔ پھر تیسرے سال کتابوں کو دہرایا اور اگلے اسباق پڑھے۔ اس عرصہ میں آپ نے

اپنے اساتذہ سے جو کتب پڑھیں ان میں:

(1) حضرت مولانا مفتی فقیر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ (۱) سے سکندر نامہ، یوسف زلیخا، جامع قواعد، احسن القواعد، نیرنگ عشق، نفتحہ الیمن، قلبیوبی، سببہ تعلقات اور مشکوٰۃ شریف پڑھیں۔

(2) حضرت مولانا فضل احمد راپوری رحمۃ اللہ علیہ سے میزان منشعب، ابواب الصرف، صرف میر، نحو میر، شرح مائتہ عامل، ہدایۃ النحو، ایسا غوجی، میزان منطق، مرقات، تہذیب، منیۃ المصلی، کافیہ اور قدوری۔

(3) حضرت مولانا کریم بخش رحمۃ اللہ علیہ نے امتحان لیا بہت خوش ہوئے اور گلاؤٹھی ضلع بلند شہر ساتھ لے گئے وہاں کچھ حصہ کنز الدقائق، شرح تہذیب، مقامات حریری (تیرہ مقامات) اور شرح جامی پڑھیں۔

طبیعت کی ناسازی کے باعث واپس رائے پور گوجراں تشریف لے آئے اور باقی کنز الدقائق شرح جامی، شرح وقایہ، قطبی وغیرہ ختم کیں اس کے بعد مشکوٰۃ شریف حضرت مفتی فقیر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھیں۔

مولوی فاضل، منشی فاضل اور ادیب عالم کے امتحانات میں کامیابی:

بعض مرتبہ اکابر علمائے کرام قادیانیوں کو مناظرے کا چیلنج کرتے تو قادیانیوں کی طرف سے یہ جواب ہوتا کہ ہم ایسے شخص سے مناظرہ کریں گے جو دنیاوی تعلیم یافتہ بھی ہو۔ چنانچہ اکابر حضرات، مولانا انوری کا انتخاب کرتے کیونکہ آپ نے اورینٹل کالج لاہور سے مولوی فاضل، منشی فاضل اور ادیب عالم کے امتحانات بھی نمایاں پوزیشنز میں پاس کئے تھے۔ حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانیوں سے کئی مناظرے کیے اور شکست فاش دی۔

(۱) ۲۱ رمضان ۱۳۸۲ھ 85 سال کی عمر میں انتقال ہوا اور ساہیوال میں مدفون ہوئے۔

بیعت و خلافت

1 شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ:

جون 1920ء میں سالار کاروانِ جہاد آزادی شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ یورپ کے جزیرہ مالٹا کی قید سے رہائی پا کر واپس تشریف لائے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت مولانا فتح الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ والہانہ مراسم تھے، چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی آمدن کر آپ کے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیس سالہ جوان بیٹے کے ہمراہ دیوبند پہنچے اور حضرت نے بہت ہی شفقت کا معاملہ فرمایا۔

چنانچہ حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ انوارِ انوری میں خود تحریر فرماتے ہیں؛

ہائے افسوس کہ وہ بھی مجلسیں تھیں کہ جب حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ مالٹا سے تشریف لائے تو بعد عصر سہ دری کے پاس صحن میں چارپائی بچھائی جاتی تھی، اس پر گائے کا سالم چمڑا بچھایا جاتا تھا، اس پر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہوتے تھے اور چارپائی کے ارد گرد کرسیاں بچھائی جاتی تھیں جن پر حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عزیز الرحمن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا تاج محمود امروٹی سندھی رحمۃ اللہ علیہ اور خود حضرت مولانا محمد انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہوتے تھے۔ پھر کوئی کہنے والا یہ کہتا تھا کہ حضرت مہتمم صاحبان تشریف لا رہے ہیں، یعنی حضرت مولانا محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند، پھر آواز آتی کہ حضرت مولانا کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے ہیں، اور حضرت مولانا عاشق الہی رحمۃ اللہ علیہ بھی میرٹھ سے تشریف لائے ہیں۔ ان سب کیلئے بھی کرسیاں بچھائی جاتی تھیں، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ برابر خدمت میں کھڑے رہتے تھے، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارد گرد علماء و صلحاء کا مجمع اتنا کثیر رہتا تھا کہ تل دھرنے کو جگہ نہ ہوتی تھی اور خود اپنا مقدمۃ القرآن سنایا

کرتے تھے اور لوگ ہمہ تن گوش ہو کر سنتے تھے۔ (انوار انوری جدید ص 15)

جب حضرت شیخ الہند قدس سرہ مالٹا سے تشریف لائے تو حضرت کو فکر تھی کہ یہاں کے علماء اختلاف نہ کریں۔ اس لئے سب سے پہلے حضرت شاہ صاحب سے انگریزی مولات ترک کرنے اور ان کی ملازمت چھوڑنے پر فتویٰ حاصل کیا۔ احقر کے والد حضرت مولانا مفتی الدین رحمہ اللہ زیارت کے لئے لائل پور سے دیوبند حاضر ہوئے تھے۔ اور حضرت شیخ الہند محمود حسن رحمہ اللہ کے کئی روز مہمان رہے تھے۔ ان ہی ایام میں مسئلہ تحریر فرما کر حضرت انور شاہ صاحب رحمہ اللہ شیخ الہند رحمہ اللہ کی خدمت میں لائے۔ کوئی دس بجے کا وقت ہوگا گرمی کا موسم تھا، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی خدمت میں مولانا احمد اللہ پانی پتی رحمہ اللہ بھی حاضر تھے اور بھی بہت مہمان تھے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے نہایت ادب سے بیٹھ کر مسئلہ سنایا حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا چہرہ مبارک خوشی اور مسرت سے کھل گیا، احقر مع والد صاحب بھی حاضر تھے۔ درس میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ وہ حبان بازی جو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے دکھائی ہے وہ تو کوئی کیا دکھائے گا ہاں حق ضرور واضح کر دینا چاہئے۔ (انوار انوری جدید ص 59)

آپ کے استاذ محترم مفتی فقیر اللہ رحمہ اللہ نے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ سے درخواست کی کہ اسے بیعت فرمائیں حضرت نے فوراً قبول فرما کر بیعت کر لیا، آپ حضرت شیخ الہند کی خدمت میں شب و روز رہنے لگے۔^(۱) اس سے پہلے مدرسہ

(۱) حضرت انوری رحمہ اللہ ایک مرتبہ کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا باورچی خانہ گر گیا۔ بارشیں بہت ہوئیں۔ ساتھیوں نے رات کو جب حضرت سو گئے تول کر باورچی خانہ بنا دیا، چھت ڈال کر فارغ ہوئے تو حضرت تہجد کے لیے اٹھے، تو دیکھا خدام باورچی خانہ بنا رہے تھے، حضرت اس وقت چارپائی پر بیٹھے تھے، حضرت کا بستر گائے کے چمڑے کا تھا، ہم خدام حضرت کی چارپائی کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ حضرت نے فرمایا آپ کے لیے چائے بناتے ہیں۔ تو خدام نے عرض کی کہ حضرت چائے نہیں، ہمارے لیے دُعا فرمائے۔ حضرت نے دُعا فرمائی۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا انتقال ۱۸ ربیع الاول ۱۳۳۹ھ کو ہوا اور دیوبند میں مدفون ہیں۔

رائپور گجراں میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے اجلہ خلفاء سے کسب فیض و علم کر چکے تھے، جس کی برکت سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی سعادت مندی کو محسوس فرماتے ہوئے آپ کو خلافت سے نواز دیا؛ چنانچہ حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ میں بھی بیعت فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں کہ ہماری مسجد انوری کے مؤذن صوفی محمد زکریا نے مجھے یہ بات بتائی کہ جب حضرت انوری نے مجھے بیعت کیا تو آخر میں یہ الفاظ کہلائے ”بیعت کی میں نے حضرت شیخ الہند سے محمد کے ہاتھ پر“۔

(بروایت مولانا ایوب الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ، 1947ء میں لدھیانہ کے مسلمانوں پر کیا گزری، ص 350)

آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار حضرت شیخ الہند کے خاص خدام میں ہوتا تھا، اس زمانہ میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان جو اکثر جید علماء اور تحریک آزادی کے رہنما و رفقاء ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سرگرم رہے۔ اس متبرک مجمع کو شام کو کھانا کھلانا اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خدمت کرنا ہمیں (محمد انوری کو) بھی نصیب ہوتا تھا۔ (انوار انوری جدید ص 18)

حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جس روز احقر دیوبند حاضر ہوا تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت مع خدام زائرین، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تھی، بعد نماز مغرب تین صد سے زائد مہمان حضرت کی معیت میں نودرہ کی چھت پر تشریف فرما ہوئے، عجیب انوار و برکات کا نزول ہو رہا تھا، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وجد کے عالم میں تھے، کھانے سے فراغت کے بعد حضرت دیر تک تشریف فرما رہے۔

ایک دفعہ احقر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا، دن کے دس

بجے ہوں گے، بارش ہو رہی تھی، فرمانے لگے، بھائی مولوی محمد حسن صاحب! شاہ صاحب کے ہاں چلنا ہے، آج انہوں نے ہمیں مہمانوں سمیت مدعو کیا ہے، حکیم صاحب فرمانے لگے، حضرت بارش تو ہو رہی ہے، کھانا یہیں منگا لیا جائے گا، فرمایا نہیں بھائی، میرے ایک مخلص نے دعوت کی ہے، وہیں جاؤں گا، چنانچہ بارش ہی میں چل دیئے، راستے میں سامنے سے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لارہے تھے، عرض بھی کی کہ کھانا، درِ دولت پر پہنچایا دیا جائے گا۔ فرمایا، کچھ تکلیف نہیں، آپ کے گھر پر کھانا کھائیں گے۔ (حیات انور ص 309)

شوال ۱۳۳۸ھ میں نئے تعلیمی سال کے آغاز پر دورہ حدیث کے لئے مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے عہد کے عظیم استاذ التفسیر والحدیث حضرت شیخ الہند کے تلامذہ کی صف میں بیٹھ گئے۔ لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنی کبر سنی ناسازی طبیعت اور مسلسل اسفار کے باعث اسباق نہ پڑھا سکے تو آپ کے مایہ ناز شاگرد فخر الحدیثین امام العصر حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تشنگان علوم نبوت کو سیراب کیا جن میں حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ سرفہرست تھے۔ آپ نے دورہ حدیث رجب ۱۳۳۹ھ بمطابق 1921ء میں مکمل کیا۔

② امام العصر حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ:

جب دارالعلوم دیوبند اپنے والد مرحوم کے ہمراہ تعلیم کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت شیخ الہند کے مکان پر فوراً حاضری دی۔ گرمی کا زمانہ دوپہر کا وقت حضرت مرحوم کے اردگرد معتقدین کا ہجوم جن میں ایک صاحب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو دستی پنکھا جھل رہے تھے اور حضرت کے آرام و راحت کے خیال سے بڑھتے ہوئے ہجوم سے بہ آواز نرم کہتے، بھائی ذرا دور رہئے۔ حضرت کو تکلیف ہوگی۔ یہ پنکھا کرنیوالے دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس رئیس العلماء حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ

تھے۔ بقول مولانا انوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ حضرت شاہ صاحب کی سب سے پہلی زیارت تھی اور معصومیت کی گھڑی گھڑھائی تصویر پہلے ہی لمحہ میں مولانا انوری رحمۃ اللہ علیہ کے قلب مشتاق میں جاگزیں ہوگئی۔ (نقش دوام ص 63)

حضرت شیخ الہند کے وصال کے بعد آپ نے حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم فرمایا۔ حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ تین سال مسلسل حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں رہے، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو جو روحانی اور علمی نسبت تامہ حاصل تھی اسی بنا پر اپنے نام کے ساتھ انوری لکھتے تھے۔ اور مولانا محمد انوری مشہور ہوئے اور یہ نسبت دیگر نسبتوں پر غالب تھی۔

یہ آپ کا تبحر علمی، ولولہ دینی اور مشائخ حق سے روحانی کسب فیض کی تکمیل ہی تھی کہ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کو اپنی پُرانوار خلافت سے نوازا۔ حضرت شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو مندرجہ ذیل بزرگوں سے اجازت و خلافت حاصل تھی:

- (1) اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا سید محمد معظم شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے سہروردی سلسلہ میں۔ (نقش دوام ص 142، انوار انوری جدید ص 44)
- (2) امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے جب ۱۳۱۹ھ میں آپ اپنے وطن کشمیر مراجعت فرما رہے تھے۔ (نقش دوام ص 142، انوار انوری جدید ص 44)
- (3) حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے جس کا تذکرہ ”نفحة العنبر“ (جدید) میں تفصیل سے موجود ہے۔ (نقش دوام ص 143)

چنانچہ حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ خود تحریر فرماتے ہیں:

حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کچھ دنوں میں نے بھی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہے، ابھی میں سنہری مسجد

میں، مدرسہ امینیہ دہلی میں داخل نہ ہوا تھا، دوسری درسگاہوں میں پڑھتا تھا، پتہ چلا کہ حضرت مولانا کریم بخش صاحب مرحوم لدھیانوی (جو مدرسہ عربیہ گلاؤٹھی ضلع بلندشہر میں تیس سال مدرس اول رہے، ہرن میں کمال تھا، خصوصاً علم ہیئت اور ریاضی کے تو امام تھے) گلاؤٹھی سے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے ہوئے ہیں، میں ملاقات کے لیے سنہری مسجد میں گیا، دیکھا ایک حجرے میں دروازہ بند کر کے اندھیرے میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر و ضربی جہر کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ اللہ، دیر تک اسم ذات کا ذکر کرتے رہے، اس وقت عمر شریف اکیس بائیس سال کی ہوگی، فرمایا، جب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بازار نکلتے تو سر پر رومال ڈال کر آنکھوں کے سامنے پردہ کر کے نکلتے، مبادا کسی عورت پر نظر پڑ جائے۔ (حیات انور ص 310)

حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن ایام میں حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں مدرسہ امینیہ میں پڑھتا تھا حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈیڑھ پیسہ کی روٹی منگا کر کھایا کرتے تھے، سارا دن درس متعدد علوم و فنون کا دیتے، دوپہر کو شدت گرمی اور جولائی کے مہینے میں کتب بینی فرماتے جبکہ ہر شخص دوپہر کی نیند کے مزے لیتا ہوتا تھا، موسم سرما میں دیکھا گیا ہے کہ بعد نماز عشاء صبح صادق تک مطالعہ فرما رہے ہیں اور اوپر کی رضائی کہیں سے کہیں پڑی ہوئی ہے، مغرب سے عشاء تک ذکر و مراقبہ میں مشغول رہتے۔ (حیات انور ص 303)

مقدمہ بہاولپور کے سفر کے دوران لاہور میں دو روز قیام فرمایا تھا، آسٹریلیا بلڈنگ کی مسجد میں بعد نماز فجر وعظ فرمایا، علماء و فضلاء عوام و خواص بالخصوص ڈاکٹر محمد اقبال اور ان کے ساتھی اہتمام سے حاضر ہوتے تھے، بیان ہوتا تھا: ”اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، مالک تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو۔“ (حیات انور ص 327)

بہاولپور کے سفر میں تشریف لے جاتے وقت یہ فرمایا کہ یہاں پر علماء سنٹرل جیل ملتان میں مقید ہیں ان سے ملاقات کر کے آگے جانا ہے اس لئے ملتان چھاؤنی کے سٹیشن پر اتر گئے۔

صبح صادق ہو چکی تھی جب گاڑی ملتان چھاؤنی پہنچی اترتے ہی پلیٹ فارم پر مجمع کے ساتھ نماز باجماعت ادا کی، پھر مجلس احرار کے دفتر میں تشریف لائے، ان لوگوں نے وہاں چائے کا انتظام کر رکھا تھا، بہت مجمع ہو گیا بعض لوگ بیعت بھی ہوئے ان کو بیعت فرمایا، بعد نماز فجر کلمہ تو حید سو بار اور بعد نماز عصر کلمہ تمجید سو بار بعد نماز عشاء درود شریف سو بار۔ نماز والا درود تو بہت فضیلت رکھتا ہے، یا یہ درود شریف پڑھیں:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَ اَصْحٰبِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ وَسَلِّمْ۔

اس کو درود مشہور کہتے ہیں، پھر فرمایا کہ یہ سہروردی طریقہ ہے، اس کو اور اد کہتے ہیں، جب تخلیہ ہوتا تو بیعت کرتے وقت دوازدہ (بارہ) تسبیح چشتیہ ہی تلقین فرماتے اور اس کا طریق بھی خود کر کے دکھاتے، خوب شد و مد سے اللہ اور آلا الہ الا اللہ فرماتے کہ متوسط جہر کے ساتھ ذکر کرتے اس کو اذکار کہتے ہیں۔

(انوار انوری جدید ص 195)

حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا محمد ایوب الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ

بیان کرتے ہیں کہ:

”ایک مرتبہ حکیم شریف صاحب پتوکی سے آئے ہوئے تھے سردیوں کے دن تھے عشاء کے بعد مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کے حضرت والد صاحب نے کوئی اربعین بھی لکھی ہے

کیونکہ انوار الباری میں اور کتابوں کے ساتھ اربعین کا بھی ذکر ہے چنانچہ میں اسی وقت والد صاحب کی خدمت میں گیا وہ لیٹ چکے تھے ان دنوں میں حضرت والد صاحب کی خدمت پر مامور تھا۔ میں نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے کوئی اربعین لکھی تھی؟ فرمایا، ہاں! لکھی تھی کوئی چالیس سال پہلے۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ کو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت و خلافت ہے؟ فرمایا، ہاں! لیکن میں لوگوں کو بتاتا نہیں۔“

چنانچہ حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ انوار انوری میں خود تحریر فرماتے ہیں؛

ایک دفعہ غالباً ۱۳۲۸ھ بیرون کا موسم تھا، اور احقر دیوبند حاضر ہوا حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ڈابھیل سے تشریف لائے ہوئے تھے۔ حضرت صحن میں چار پائی پر تشریف فرما تھے، مولانا مشیت اللہ بجنوری رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے مہمان بیٹھے تھے۔ کمال مہربانی فرمائی، ہمیں دیکھتے ہی چار پائی سے اٹھ کر ننگے ہی پاؤں ہماری طرف تشریف لائے اور مصافحہ فرمایا، پھر مولانا مشیت اللہ بجنوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف فرما ہوئے اور ان کو بیر کا چھلکا اتار کر عنایت فرما رہے تھے، ایک طبق ہماری طرف بھی رکھ دیا اور ایک طالب علم کو فرمایا کہ ان کو چھیل کر کھلاؤ اور دوسرے طالب علم کو جیب مبارک سے ایک روپیہ نکال کر دیا اور فرمایا کہ بکری کا عمدہ گوشت بازار سے لاؤ پھر گھر کے اندر تشریف لے گئے۔

مولوی محفوظ علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گھر میں حضرت فرما رہے تھے کہ بہت معزز مہمان آئے ہیں کھانا عمدہ پکائیو، پھر باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ دو ٹوکریں باقر خانیوں کے لے آئے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی، اگر کوئی شے لانا ہی

ہو تو یسیرسی (تھوڑی) چیز لے آیا کرو، میرے ہاں محبت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بہت تھوڑی چیز لانا چاہئے۔

پھر فرمایا آپ ذرا لیٹ جائیے یہ کمبل ہیں ان کو نیچے بچھا لیجئے، خود اپنے دست مبارک سے عنایت فرمائے ہم نے متبرک سمجھ کر تکیہ کے نیچے رکھ لئے پھر دوپہر کو کھانا پر تکلف بھیجا، مولانا محفوظ علی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد ادریس سکروڈوی رحمۃ اللہ علیہ اور کئی ایک مہمانوں نے مل کر کھانا کھایا۔ پھر بعد ظہر میں نے عرض کیا کہ ساتھی کو بیعت فرمائیں نہایت شفقت سے قبول فرمایا، اور دوازدہ تسبیح چشتیہ کا ذکر تلقین فرمایا۔

جب شام کی گاڑی سے ہم واپس ہونے لگے تو فرمانے لگے اگر کوئی اور گنجائش ہو تو اور ٹھہر جاؤ، احقر نے عرض کیا کل کو رخصت لے لیں گے، پھر اگلے دن صبح کو مجلس ہوئی، جب رخصت ہونے لگے تو فرمایا کہ آپ کی مہمانی کا تفقہ نہیں ہو سکا۔ کچھ خیال نہ کرنا میں بھی علیل ہوں مجھے بہت رقت ہوئی کہ اتنی شفقت پر بھی یہ عذر۔ (انوار انوری جدید ص 87، 88، 89)

جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ آپ پر ”انوری“ نسبت غالب آگئی تھی چنانچہ رائے کوٹ ضلع لدھیانہ میں مدرسہ تعلیم الاسلام قائم فرمایا تو مسجد کا نام ”مسجد انوری“ رکھا۔ قیام پاکستان کے موقع پر جب ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے تو لائل پور (حالیہ فیصل آباد) کو اپنا مسکن بنایا۔ وسط شہر کے محلہ سنت پورہ میں مسجد بنائی تو اس کا نام بھی ”مسجد انوری“ رکھا۔ جھنگ شہر میں حضرت صوفی شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ (خليفة مجاز حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ) نے مدرسہ قائم کیا تو اس کا نام آپ نے انوار الاسلام رکھوایا۔ غلام محمد آباد میں ”مدرسہ انوار الاسلام“ اور ”مسجد انوری“ تعمیر کروائی۔

متعدد مدارس ”انوار القرآن“ اور ”انوار الاسلام“ کے نام سے شہر و ضلع

فیصل آباد میں تعمیر کروائے۔ احقر مؤلف کے نانا جان میاں غلام مصطفیٰ جالندھری رحمۃ اللہ علیہ جب کانگنا نزد ملسیاں ضلع جالندھر سے ہجرت کر کے فیصل آباد آئے تو حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ سے والہانہ تعلق قائم ہو گیا۔ جب حضرت ناناجی رحمۃ اللہ علیہ نے چک نمبر 213 سوساں روڈ میں مسجد بنوائی تو حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی انجمن کا نام ”انوار الاسلام“ رکھا جو آج بھی اسی نام سے موسوم ہے اور جس کے زیر نگرانی مدرسہ انوار الاسلام اور جامع مسجد عثمان غنی قائم ہے الحمد للہ۔ جڑانوالہ میں بھی ایک ”مسجد انوری“ اور ”مدرسہ انوار القرآن“ موجود ہے اپنے استاد اور شیخ کے ساتھ تعلق کو ایسے احسن طریقے سے نبھایا کہ حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد آپ نے اُن کے خاندان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کو حج کرایا۔ شادیاں کرائیں، مکانات بنا کر دیئے۔ حتیٰ کہ حضرت مولانا انظر شاہ صاحب کے خالو حکیم محمد اختر دو خانہ حکیم اجمل خان (گھنٹہ گھر پشاور) کو بھی حج کروایا۔

چنانچہ حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:

”خانوادہ انوری سے تعلق اور قلبی روابط کا یہ عالم تھا کہ برادر اکبر نے جب دیوبند سے انور نامی ہفتہ وار جریدہ شائع کیا تو مرحوم اس کے سب سے بڑے معاون تھے اور خاکسار کی ادارت میں شائع ہونے والا رسالہ ”نقش“ حضرت مرحوم کے الطاف و عنایات سے تین سال تک شائع ہوتا رہا اور خود خریدار بہم پہنچاتے۔ پاکستان سے ترسیل رقم کے ذرائع مہیا کرتے۔ والدہ مرحومہ کے لیے حج کا انتظام فرمایا اور خاکسار کے رہائشی مکان کی تعمیر میں مدد فرمائی۔ تقسیم ہند کے بعد لاہور پاکستان

منتقل ہو گئے اور مدرسہ انوریہ کا افتتاح کیا۔ 1964ء میں یہ ظلم و جہول ایک ہفتہ کے قریب لائل پور میں ان کا مہمان رہا، اعلیٰ میزبانی و ضیافت کے ساتھ کل پاکستان میں مسافرت کے اخراجات مرحوم ہی نے ادا کئے۔ کھانے پر بیٹھتے تو شروع سے آخر تک اپنے استاذ کا ذکر فرماتے خود بھی روتے اور دوسروں کو بھی رلاتے۔ لائل پور کا بڑا حلقہ ان کے سلسلہ بیعت و ارشاد میں شریک تھا..... ولی صورت و سیرت نیک طبیعت و نیک نہاد و علم دوست فضل پرور شخصیت کے مالک تھے۔“ (نقش دوام ص 63)

”چندر روز پاکستان میں“ کے عنوان سے اپنے سفر نامے میں تحریر کرتے ہیں کہ:

”مولانا محمد صاحب انوری رحمۃ اللہ علیہ غالباً ہند و پاک میں منفرد شخصیت ہیں جن کو اپنے استاذ امام العصر مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے عشق کا معاملہ ہے اگرچہ شاہ صاحب مرحوم کے تمام ہی تلامذہ کو مرحوم سے ایک خاص تعلق اور وابستگی ہے۔ ایسا تعلق اور خلوص جس کی مثال عصر حاضر کے اساتذہ و تلامذہ میں کیوں ملنے لگی۔ قدیم تاریخ میں اس کی مثال خال خال ہی مل سکے گی۔ لیکن پھر بھی مولانا انوری رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ڈھونڈھ نکالنا بہت ہی مشکل ہے۔ استاذ مرحوم سے عزیز تعلق کی بنا پر مشہور بھی انوری ہی کے نام سے ہیں..... اللہ تعالیٰ کی وہ وہ عنایات مولانا پر ہیں جن کا ذکر بھی مشکل ہے،

خاکسار اور ظہور الباری صاحب کیساتھ جس میزبانی کا معاملہ مولانا اور ان کے بچوں نے کیا، سوچتا ہوں تو گردن شرم کی وجہ سے جھک جاتی ہے، دیوبند میں دو پٹی ٹوپی سر پر رکھنے کا رواج ہے، خاکسار پاکستان پہنچا تو سر پر یہی ٹوپی تھی پاکستان میں مولوی حضرات سر پر رومال باندھتے ہیں مولانا چپکے سے گھر میں تشریف لے گئے اور خاکسار کے لیے ایک رومال لے آئے ارشاد فرمایا حضرت رائی پوری کے یہاں چلنا ہے۔ اس کو سر پر باندھ لیجیے..... اور اسی طرح کی سیکڑوں عنایات لائل پور کے قیام میں مولانا کی فقیر پر رہیں۔ جی چاہتا ہے ان سب کا ذکر کروں لیکن جانتا ہوں کہ خود مولانا اس کو پسند نہیں فرمائیں گے اس لیے مولانا کے احترام میں قلم کو روکنا پڑتا ہے۔ تاہم جو کچھ قلم سے نکل جائے اس کے لیے معذرت طلب ہوں۔“ (ماہنامہ ”دقیقہ“ مئی 1960ء، ص 17-18)

دارالعلوم دیوبند میں حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کرام:

- (1) حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ (ابن حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ)
بانی دارالعلوم دیوبند)
- (2) حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ
- (3) حضرت مولانا میاں سید اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ
- (4) حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ
- (5) حضرت مولانا اعزاز علی رحمۃ اللہ علیہ
- (6) حضرت مولانا رسول خان رحمۃ اللہ علیہ

ہمعصر مشاہیر:

- (1) حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ (سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند)
- (2) محدث کبیر مولانا محمد بدر عالم میرٹھی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ (مصنف ترجمان السنۃ)
- (3) مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ (والد ماجد حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی و حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہما)
- (4) حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ (مصنف معارف الحدیث و خلیفہ مجاز حضرت مولانا شاہ عبدالقادر راپوری رحمۃ اللہ علیہ)
- (5) مولانا غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ (برادر اصغر حضرت مولانا خیر محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ)
- (6) مولانا احمد علی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ

3 قطب الارشاد حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ:

حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت صدمہ محسوس کیا۔ فراق شیخ انور میں جینا محال ہو گیا تا آنکہ خواب میں بار بار اپنے مرشد علمی و روحانی کی زیارت ہوئی تو حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو فرمایا کہ مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے رفیق ہیں، آپ ان کی خدمت میں تشریف لے جائیں، ادھر حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھ کر خود بلو الیا اور اپنے سلسلہ میں داخل فرمایا۔ یہ 1938ء کا واقعہ ہے۔ اور تھوڑے ہی عرصہ بعد اجازت و خلافت عنایت فرمائی۔ چنانچہ پھر حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ ثالث حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم شمار ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد لاکھپور (حالیہ فیصل آباد) میں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی تشریف لاتے تو انوری مسجد اور مولانا انوری رحمۃ اللہ علیہ کا گھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ ہوتا۔ اجازت و خلافت کے بعد حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بار بار اصرار فرماتے رہے کہ آپ بیعت

کر لیا کریں۔ آپ نے عرض کیا کہ شرم آتی ہے تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں لوگوں کو لکھ دیا کروں گا کہ تیری طرف متوجہ ہوں۔ پھر ہر سفر میں بھی یہی فرماتے رہے جب ملک بدل گیا پھر تو بہت مرتبہ منرمایا اور خطوط بھی بھیجتے رہے۔ ایک مرتبہ آپ رائے پور حاضر تھے کہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تخلیہ میں بعد مغرب آپ کو بلوایا اور احوال ذکر و کیفیات قلبی دریافت فرمائے..... (سننے کے بعد) بہت ہی خوش ہوئے فرمایا:

”الحمد لله الحمد لله، آپ کو احساس بھی ہے اور یہ سب آثار ذکر ہیں اور اس کو تجلی کہتے ہیں کیونکہ ذات بحت نظر آنے سے بلند و بالا ہے کسی محبوب ترین شکل میں جلوہ گری فرماتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں یا بیداری میں زیارت ہو جانا بہت ہی مبارک ہے آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ نسبت محمدیہ حاصل ہونے والی ہے میں بشارت دیتا ہوں۔“

آپ کے صاحبزادے مولانا محمد ایوب الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ:

”نسبت محمدیہ کی کیفیت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی وعظ، تقریر، درس کے دوران آتا تو لوگ اپنی گردنیں اٹھا کر دیکھتے تھے کہ آپ خاموش کیوں ہو گئے۔ اسی طرح خطبہ کے دوران آپ پر رقت طاری ہو جاتی تھی۔ اور جب اس کیفیت کا غلبہ ہوتا تو معلوم ہوتا تھا کہ جیسے بہت زیادہ رو کر خاموش ہوئے ہیں اور اب بول رہے ہیں۔ فنا فی الرسول کا مقام جو ہم سنتے اور کتابوں میں پڑھتے

ہیں وہ اس کے صحیح مصداق تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری زندگی میں نام مبارک لیتے ہی رقت طاری ہو جاتی تھی۔“

حضرت رائے پوری 1944ء میں لدھیانہ تشریف لائے تو رات دو بجے حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا فرمایا کہ میں آپ سے بہت خوش ہوں۔ ”ضیاء القلوب“ کا مطالعہ کر لیں اس کی بھی اجازت دیتا ہوں اس کے مطابق بیعت کر لیا کریں اور ملازمت سکول سے سبکدوش ہو جائیں، بس تو گل کر کے بیٹھ جائیں ان شاء اللہ روپوں میں کھیلو گے، کسی کے محتاج نہ ہو گے۔ رات کے واقعہ نے تو مجھے یقین دلا دیا کہ آپ سب کچھ ماشاء اللہ برداشت کر سکتے ہیں..... حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے پر اگلے روز ہی استعفیٰ دے دیا اور اپنے آپ کو دین کی خدمت اور بندگان خدا کی اصلاح کے لیے وقف کر دیا۔ اس دور میں سرکاری ملازمت بہت مشکل سے ملتی تھی لیکن حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا حکم سننے کے بعد آپ نے ملازمت کو بالکل اہمیت نہ دی۔

آپ کے شیخ حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ پر بہت اعتماد و ناز تھا۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ مجلس میں جب بھی کوئی علمی مسئلہ درپیش ہوتا تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فوراً آپ کی طرف ہی متوجہ ہوتے اور فرماتے کہ اس کا جواب دیں تو حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ فوراً اس کا جواب پیش فرما دیتے۔

حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے:

”مولانا موصوف کو ہمارے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا اختصاص حاصل تھا اور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں علمی مسائل میں اکثر ان ہی سے مراجعت کی جاتی تھی۔“

(ملفوظات حضرت رائے پوری، ص 4)

صاحبزادہ مولانا محمد ایوب الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ:

1962ء میں مولانا محمد صاحب انوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب عمرہ پر جانا تھا تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا قیام اس وقت حاجی متین احمد کی کوٹھی بالمقابل ریڈیو پاکستان لاہور میں تھا۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کا وہاں قیام کتنا ہوگا۔ عرض کیا کہ حضرت ایک ماہ کا ویزہ ہے۔ فرمایا۔ بہت اچھا۔ پھر عرض کیا کہ حضرت کچھ بڑھانے کا بھی ارادہ ہے۔ اس پر حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے سکوت فرمایا۔ چنانچہ حضرت کا وصال انہی 15 دنوں میں ہوا جو ایک ماہ سے زائد تھے۔ ایک ماہ بعد ہی واپس آجاتے تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو جاتی۔ یکم جولائی کو جا کر یکم ستمبر کو واپسی ہوئی تھی۔ (حضرت اقدس رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ۱۲ ربیع الاول ۱۳۸۲ھ بمطابق 16 اگست 1962ء بروز جمعرات 11 بجکر 25 منٹ پر ہوا۔) پھر حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت! ہمارے اکابر کا یہ معمول ہے کہ جب وہ حرمین شریفین کا سفر کرتے ہیں تو روزہ پاک کی زیارت کی نیت سے کرتے ہیں، عمرہ تو ہو ہی جائے گا۔ آپ بھی یہی نیت کر لیں۔ عرض کیا، میں نے یہ نیت کر لی ہے۔ وہاں مولانا عبدالعزیز صاحب سرگودھا والے سامنے آئے تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، مولانا محمد صاحب مدینے جا رہے ہیں اور بلند آواز سے رونے لگے۔ ظہر کے بعد بابو عبدالعزیز سامنے آئے تو حضرت نے فرمایا مولانا محمد صاحب مدینے جا رہے ہیں اور پھر بلند آواز سے رونے لگے۔ عصر کے بعد مجلس ہوتی تھی۔ مولانا مسعود علی آزاد رحمۃ اللہ علیہ کرسی پر بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے حضرت نے کتاب بند کروادی اور فرمایا کہ مولانا محمد صاحب بیٹھے ہیں؟ تو خدام نے عرض کیا، بیٹھے ہیں۔ فرمایا ان کو اوپر بٹھا دو۔ کتاب پھر شروع ہو گئی حضرت نے بابو عبدالعزیز صاحب کو بہت اہتمام

سے تاکیداً فرمایا کہ کراچی میں اپنے بیٹوں کو اطلاع کریں کہ مولانا محمد صاحب آرہے ہیں ان کی رہائش کا انتظام کریں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے بابو عبدالمجید کو اطلاع کر دی اور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بذاتِ خود تسلی فرمائی کہ سب انتظامات ہو گئے ہیں۔ پھر جب سفر شروع کرنا تھا تو حضرت نے اپنے خاص متعلقین کو فرمایا کہ وہ مولانا محمد صاحب کو رخصت کرنے کے لیے لائل پور پہنچیں۔ اس طرح حضرت کے ارشاد پر کثیر تعداد میں لوگ ریلوے اسٹیشن پر آئے۔

چنانچہ مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ سفرِ حرمین پر روانہ ہو گئے۔ مولانا سعید الرحمن انوری جو الوداع کہنے کراچی تک ساتھ ہی گئے تھے، کراچی سے واپس لاہور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت لیٹے ہوئے تھے، جب اطلاع دی تو فرمایا مجھے اٹھا کر بٹھا دو اور حضرت نے بڑے اہتمام سے سب حالات سنے۔ اسی طرح مولانا محمد انوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خط مکہ مکرمہ سے حضرت کے پاس پہنچے۔ جب حضرت کو معلوم ہوا تو فرمایا مجھے بٹھاؤ، پھر خط سنے۔ دونوں خط ایک ہفتہ کے وقفہ سے پہنچے جب تیسرا خط پہنچا تو اس وقت حضرت کیفیتِ استغراق میں تھے اور یہ کیفیت آخردم تک رہی۔

شیخ و مرید کی یہ محبت قلبی بالآخر قرابت داری میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی صاحبزادی کا رشتہ اپنے بھتیجے و خلیفہ حضرت مولانا عبدالحلیل رحمۃ اللہ علیہ کیلئے بہت زور دے کر طلب فرمایا۔ آپ نے بلا تکلف خوشی کا اظہار فرما کر رشتہ منظور فرمایا چنانچہ آپ کی صاحبزادی حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بہو کہلائی۔^(۱) اس

(۱) اس رشتے پر تمام خاندان حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ سے عرصہ دراز تک ناراض رہا کہ آپ نے بیٹی کی شادی غیروں میں کیوں کی اور میل ملاپ ختم کر دیا لیکن حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کی پرواہ نہیں کی، اسے کہتے ہیں فنا فی الشیخ۔ حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان آرائیں ہے اور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان راجپوت اعوان ہے۔

تعلق قلبی کے متعلق صاحبزادہ حضرت مولانا محمد ایوب الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا قیام ہمارے گھر 1948ء تا 1958ء دس سال تک رہا، جب مہمانوں کی کثرت ہوگئی اور جگہ کم پڑگئی تو خالصہ کالج مولانا انیس الرحمن لدھیانوی کے ہاں قیام کا انتظام کروا دیا۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہمیشہ یہی خواہش اور کوشش ہوتی کہ مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قیام میرے قریب ترین ہو۔ یہ 59-1960ء کی بات ہے۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ یہ چاہتے تھے کہ فیصل آباد میں میری ایک مستقل خانقاہ بن جائے؛ اس مقصد کے لیے خالصہ کالج کے قریب ہی فاروق آباد برب نہر جگہ خریدی گئی جس کے لیے والد صاحب نے بھرپور مالی تعاون کیا۔ اس جگہ جامع مسجد حبیبیہ حنفیہ قائم ہے جس کے متولی مولانا منیب الرحمن لدھیانوی صاحب بن مولانا انیس الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔

اسی قیام کے دوران والد صاحب کو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ حضرت میراجی یہ چاہتا ہے کہ جہاں آپ کی قبر ہو میری قبر بھی وہیں ہو۔ خالصہ کالج کے قیام کے دوران بھی یہی فرمایا؛ والد صاحب متفکر ہو گئے کہ شیخ نے فرمادیا ہے شاید میرا انتقال پہلے ہے۔ چنانچہ گھر میں اکثر امور کے بارے وصیت وغیرہ بھی کردی اور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت میرا جنازہ آپ پڑھائیں گے یہ میری خواہش ہے۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بات کو واضح فرمایا کہ نہیں حضرت میری بات کا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس شہر میں میری قبر ہو۔

دسمبر 1961ء میں والد صاحب کو فاجح کا شدید حملہ ہوا۔ نماز فجر کے لیے تکبیر تحریمہ کہی تو حملہ ہوا۔ سورۃ التکاثر اور سورۃ الکوثر پڑھا کر نماز مکمل کر دی تھی۔ سب لوگ حیران تھے کہ آج حضرت کی زبان میں رکاوٹ کیوں آرہی ہے۔ نماز کے بعد گھر آگئے اور لیٹ گئے پھر شدید حملہ ہوا۔ حضرت مولانا

عبدالوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو رائے پور میں اس مرض کی اطلاع دی تو حضرت نے رات کھانا نہ کھایا اور فرمایا دعا کرو اور کافی متفکر رہے۔ پھر حضرت کو اطلاع دی گئی کہ طبیعت بہتر ہو رہی ہے۔ حضرت نے رائے پور سے ایک گرم کرتا سلوا کر پہلے خود پہنا پھر مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو اتفاقاً رائے پور گئے ہوئے تھے ان کے ہاتھ والد صاحب کو بھیجا۔ والد صاحب نے اس کرتہ کو کئی سال پہنا۔ لیکن جب بیت الخلاء جاتے تو اس کرتہ کو اتار کر جاتے اور عید کے موقع پر بھی یہ کرتہ پہنتے۔ اس سے پہلے ایک کرتہ تھتا جو حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ وہ صرف عید کے روز پہنتے تھے۔

حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کی نیت سے پاکستان کے سفر کا ارادہ فرمالیا۔ انہی دنوں میں مولانا محمد خلیل صاحب جو حضرت کے چھوٹے بھائی تھے وہ بھی کافی عرصہ سے علیل تھے اس لیے ارادہ اور زور پکڑ گیا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ضعف کی وجہ سے روکنے کی کوشش کی مگر حضرت کا ارادہ بدستور رہا، مولانا عبدالمنان صاحب نے اس ارادہ سفر کے بارے کچھ کہہ دیا۔ جس پر حضرت خفا سے ہو گئے۔ انہیں معلوم نہ ہوا۔ وہ کھانا لے کر آئے تو حضرت نے معذرت کر لی۔ ظہر کے بعد حضرت دودھ نوش فرماتے تھے۔ ایک تام چینی کا پیالہ تھا جس میں دودھ نوش کرتے تھے۔ (اس وقت جب کبھی میں (ایوب الرحمن) حاضر خدمت ہوتا تو حضرت اسی پیالے میں تھوڑا بچا کر مجھے عنایت فرماتے تھے) چنانچہ حضرت نے دودھ بھی نہ پیاتب انہیں حضرت کی ناراضگی کا علم ہوا، پھر انہوں نے حضرت سے معذرت کی۔

جب حضرت کی پاکستان لاہور آمد ہوئی، تو مجھے مولانا عبدالمنان رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی متین احمد صاحب کی کوٹھی پر یہ بات کہی کہ پتہ نہیں حضرت کا پاکستان کا سفر کیوں ہے؟ حضرت کی ایسی حالت ہے بعض دفعہ رات میں حضرت کو پیشاب کا

مسئلہ ہو جاتا ہے، حضرت کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہم پاک کرتے ہیں۔ اس سفر میں مولانا مسعود علی آزاد رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے نماز کے امام بھی تھے۔ عصر کے بعد ابھی حضرت کی چارپائی باہر نہیں آئی تھی۔ میں بھی موجود تھا۔ انہوں نے اپنا ایک خواب بیان کیا کہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے ہیں منیٰ، عرفات، مزدلفہ وغیرہ جس مقام پر جاتے ہیں ساتھ بہت مجمع ہے۔ یہ سن کر سارے متفکر ہوئے کہ حضرت کی تو طبیعت حج کی متحمل ہی نہیں۔ اس کی تعبیر پھر حضرت کے وصال پر نکلی جب متعدد جگہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔

حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہاں تشریف لاتے تو ان کے عقیدت مندوں کی بھیڑ لگ جاتی، ایک بار ایسے ہی ایک موقع پر حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگے۔ میرے آنے کی وجہ سے آپ پر مہمانوں کا بہت بوجھ پڑ جاتا ہے اور اخراجات بھی ہوتے ہیں۔ اس پر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میری زمینوں سے جب ٹھیکے یا وٹائی کی رقم آتی ہے تو میں اسے گنتا نہیں۔ گنے بغیر الماری میں ایک طرف رکھ دیتا ہوں۔ جب ضرورت پڑتی ہے اس میں سے نکال کر خرچ کرتا رہتا ہوں۔ رقم کبھی ختم نہیں ہوتی اور محتاجی کی نوبت نہیں آتی۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا حضرت! یہ سب آپ کی برکت سے ہے۔

واقعی یہ والد صاحب کا حسنِ اعتقاد تھا کہ عقیدت مند سینکڑوں کی تعداد میں ان سے ملنے آتے تھے اور ان سب کی خاطر مدارت کرنا، میزبانی کے تقاضے پورے کرنا معمولی بات نہ تھی یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق اور حضرت کی توجہ سے ہی ممکن ہوتا تھا۔

نکاح:

دیوبند سے فراغت کے بعد آپ لدھیانہ تشریف لے آئے اور مدرسہ

عزیز یہ میں تدریس شروع فرمائی، حریت پسند علماء لدھیانہ نے نوجوان مدرس عالم دین کی روحانی و علمی نسبت و مرتبہ کو دیکھا تو انہیں اپنی فرزندگی میں لے لیا اور آپ کا نکاح مشہور علمی و سیاسی خاندان میں حضرت مولانا داؤد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی سے ہوا جو مشہور عالم دین مفتی محمد نعیم لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی رشتہ میں بھتیجی تھیں، محترمہ عالمہ فاضلہ تھیں اور طب میں بھی کافی عبور حاصل تھا۔^(۱)

حج کی سعادت:

حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ نے 1935ء میں پہلی بار حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ اس وقت حج کے سفر اور حجاز مقدس میں قیام کی وہ سہولتیں میسر نہیں تھیں جو آج کل ہیں۔ آپ نے حجاز کا سفر بذریعہ بحری جہاز کیا تھا۔ اس وقت ان کی عمر چونتیس برس تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1957ء میں اپنی زندگی کا دوسرا حج کیا وہ بذریعہ بحری جہاز سفر حج پر گئے۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خاص عقیدت مند ریاض الدین میواتی بھی حج پر جا رہے تھے، میواتی صاحب حضرت سے الوداع ہونے لگے تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ریاض الدین! ہمارے حضرت مولانا محمد انوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی حج کو گئے ہوئے ہیں۔ ان کی خدمت کرنا اپنا فرض سمجھنا حتیٰ کہ نفلی طواف بھی چھوڑ دینا اور خدمت کرنا۔ ان شاء اللہ تم کو نفلی طواف کا ثواب ملے گا۔ ریاض الدین میواتی مکہ پہنچ کر والد صاحب سے ملے اور حجاز میں قیام کے عرصے میں ان کا ہر طرح سے خیال رکھا۔

(۱) قرآن پاک میں جو پردے کے متعلق آیات نازل ہوئی ہیں، اس کے عین مطابق ہمارے گھر میں پردہ تھا، ہم اپنی بھابیوں کے سامنے نہیں جاسکتے تھے نہ ہم ان کو دیکھ سکتے تھے نہ وہ ہمیں دیکھ سکتی تھیں۔ خواتین کو کہیں بھیجنا ہوتا تو تانگے کے پیچھے بٹھا کر بڑا کپڑا باندھ دیتے تھے، کچھ معلوم نہ ہوتا تھا کہ اندر کون ہے یا خالی تانگہ ہے، ہمیشہ ہمارے خاندان میں ٹوپی والا برقع پہنا گیا جو کہ آج کل پٹھانوں کی خواتین پہنتی ہیں۔ (بروایت مولانا ایوب الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ)

صاحبزادہ مولانا مقبول الرحمن انوری تقسیم ہند قیام پاکستان اور لائل پور ہجرت کے حالات بیان فرماتے ہیں کہ:

1947ء میں فسادات کا آغاز:

1947ء میں جب قیام پاکستان کا مرحلہ آیا تو مشرقی پنجاب کے ہر شہر اور قصبے کی طرح لدھیانہ اور رائے کوٹ کے حالات بھی خراب ہو گئے اور سکھوں اور ہندوؤں نے مسلمانوں، ان کے گھروں اور دکانوں پر حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ہمارے گھر پر حملے اور مریدوں کی وفاداری:

مشرقی پنجاب کے ہر مسلمان کی جان، مال اور آبرو خطرے میں تھی لیکن سیاسی اور مذہبی شعبوں میں سرگرم مسلمانوں کو زیادہ خطرہ تھا کیونکہ غیر مسلم حملہ آوروں نے ان شخصیات کو اپنا خصوصی ہدف بنا رکھا تھا۔ میرے والد بھی ان شخصیات میں شامل تھے چنانچہ ہندوؤں اور سکھوں نے رائے کوٹ میں ہمارے گھر پر سات مرتبہ حملہ کیا۔ ہندو اور سکھ ہر بار اسی ارادے سے آتے تھے کہ مولانا محمد اور ان کے خاندان کا خاتمہ کر کے جائیں گے لیکن جسے اللہ بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ ہمارے گھر کے ارد گرد رہنے والے لوگوں میں سے اکثر والد صاحب کے مرید تھے۔ ہمارے گھر پر جب بھی حملہ ہوتا یہ مرید ہمارے دفاع کے لیے حملہ آوروں کے سامنے سیسہ پلائی دیوار بن جاتے اور لٹھیوں، تلواروں اور چھریوں سے مسلح غیر مسلموں کو بالآخر پسپا ہونا پڑتا۔ والد صاحب کے مریدوں کا کہنا تھا کہ ہماری موجودگی میں ہمارے مرشد اور ان کے خاندان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

غیر مسلموں کے انتقامی جذبات:

قیام پاکستان کے موقع پر مشرقی پنجاب میں غیر مسلم ہر مسلمان کو اپنا دشمن سمجھ رہے تھے اور پاکستان بننے کا انتقام لینے کی دھن میں بالکل اندھے ہو گئے

تھے، مجلسِ احرار، کانگریس کی حامی جماعت تھی اور احراریوں نے مطالبہ پاکستان کی حمایت نہیں کی تھی بلکہ ان کے امیدواروں نے مسلم لیگی امیدواروں کے مقابلے میں الیکشن میں بھرپور حصہ لیا تھا۔ ان حقائق کے باوجود احراری رہنماؤں کے گھروں پر بھی غیر مسلموں کے حملے جاری تھے۔ رائے کوٹ میں ہمارے گھر پر حملے ہوئے۔ لدھیانہ شہر میں مسلمان اس درجہ غیر محفوظ ہو گئے کہ مفتی نعیم اور مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے قوم پرست رہنماؤں کو بھی ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا تھا۔

رائے کوٹ کیمپ میں قیام:

سکھوں اور ہندوؤں کی اشتعال انگیزیاں حد سے بڑھیں تو ابا جان نے گھر کو خیر باد کہا اور رائے کوٹ کیمپ میں منتقل ہو گئے۔ اس وقت ہمارا گھر اسہ ہمارے والدین، ہم چھ بھائیوں عبدالرحمن، عزیز الرحمن، سعید الرحمن، مسعود الرحمن، ایوب الرحمن اور مقبول الرحمن اور تین بہنوں پر مشتمل تھا۔ میرے دادا جان مولانا فتح الدین اور تایا جان مولانا اللہ بخش چشتیاں میں اپنی زمینوں پر گئے ہوئے تھے۔ اس طرح ہمارے یہ دونوں بزرگ کیمپ میں قیام کے صعوبت سے بچ گئے۔ پھوپھی فاطمہ بھی اپنے سسرال چک اُگی ٹوبہ ٹیک سنگھ میں تھیں جبکہ پھوپھی عائشہ کی رہائش لدھیانہ شہر میں تھیں اور ان کے سسرال کے خاندان نے اس وقت تک ہجرت نہیں کی تھی۔

ٹرک پر سفر ہجرت:

کیمپ میں مسلمانوں کی بڑی تعداد موجود تھی اور لوگ پاکستان جانے کا انتظار کر رہے تھے جن لوگوں کا کوئی رشتہ دار یا دوست فوج میں ہتھیار پھر سرکاری افسر تھا ان کے لیے ٹرک آجاتے تھے اور وہ ہجرت کر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی

ذات بڑی کارساز ہے۔ ہمارے خاندان کے سفر ہجرت کا سبب کسی خاص کوشش کے بغیر پیدا ہو گیا۔ ایک روز والد محترم مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ رائے کوٹ کیمپ میں ایک طرف چپ کھڑے تھے کہ اچانک چند فوجی ٹرک آئے ایک فوجی نے ابا جان کو دور سے دیکھا اور ان کے قریب آ کر محبت بھرے لہجے میں سوال کیا ”آپ نے پاکستان جانا ہے“ والد صاحب نے اثبات میں جواب دیا۔ وہ بولا آپ اپنے خاندان کو ساتھ لے کر فوراً ٹرک میں سوار جائیں۔ اس طرح میرے والدین، ہم چھ بھائی اور تین بہنیں ٹرک میں سوار ہو گئے۔

ٹرک کی حفاظت کے لیے دو فوجی جوان ساتھ سفر کر رہے تھے۔ راستے میں کئی جگہ سکھوں نے فائرنگ کی لیکن مسلح فوجی جوانوں نے بروقت جوابی کارروائی کر کے سکھوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ یہ بہادر جوان ٹرک کے ساتھ نہ ہوتے تو ہمارا بخیریت پاکستان پہنچنا مشکل تھا۔

والٹن کیمپ میں قیام:

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بخیر و عافیت والٹن کیمپ لاہور پہنچ گئے۔ ہم نے کیمپ میں چند روز قیام کیا۔

مولانا عبداللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں قیام:

ابا جان کے دیرینہ دوست مولانا عبداللہ فاروقی لاہور میں رہائش پذیر تھے اور ان کی رہائش گاہ انارکلی سے میکلوڈ روڈ کی طرف آتے ہوئے گنپت روڈ پر تھی۔ ہم والٹن کیمپ سے مولانا عبداللہ فاروقی کی رہائش گاہ پر منتقل ہو گئے اور چند ہفتے ان کے ہاں گزارے۔

مولانا خلیل احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کا سفر ہجرت:

میری پھوپھی اور پھوپھا جان مولانا محمد خلیل اللہ لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم

سے الگ ہجرت کا سفر کیا تھا۔ اس خاندان کے سربراہ محمد خلیل اللہ کے والد بزرگوار مولانا سلیم احمد لدھیانوی تھے، یہ لوگ آرائیں برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ خاندان ہجرت کے بعد پہلے لاہور آیا اور پھر ٹوبہ ٹیک سنگھ کے چک اُگی میں کچھ وقت گزارا، مولانا سلیم اور ان کی اولاد کا مستقل ٹھکانہ صوبہ سندھ کا شہر خیر پور بنا۔ یہ لوگ زمین کی آبادکاری کے سلسلہ میں خیر پور گئے تھے۔

بچوں کی تعلیم کی فکر:

مولانا فتح الدین قیام پاکستان کے موقع پر چک ”اُگی“ ہی میں موجود تھے۔ ابا جان نے ہجرت کے بعد اپنی خیریت کی اطلاع دینے کے لیے دادا جان کو پیغام بھیجا کہ ہم لاہور پہنچ گئے ہیں۔ دادا جان نے جوانی پیغام میں ان سے کہا کہ فوراً گاؤں آ جاؤ۔ والد محترم مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے چک اُگی کوئی اجنبی جگہ نہ تھی اور وہ قیام پاکستان سے پہلے کئی بار ٹوبہ ٹیک سنگھ آچکے تھے؛ لیکن گاؤں میں مستقل قیام کی تجویز انہیں پسند نہ آئی اور انہوں نے دادا جان سے کہا کہ میں گاؤں آ گیا تو میری اولاد تعلیم سے محروم رہ جائے گی۔ بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے مجھے گاؤں میں نہیں بلکہ شہر میں رہنا ہوگا۔

ہمارے خاندان کی لائل پور آمد:

ہمارا خاندان لاہور سے بذریعہ ٹرین لائل پور آ گیا۔ ابا جان نے محلہ عبداللہ پور میں کرائے پر مکان لے لیا۔ اس مکان میں ہمارے خاندان نے تقریباً چھ ماہ گزارے۔ 1947ء میں لائل پور میں چند مساجد تھی۔ مشہور مساجد میں جامع مسجد کچھری بازار، جامع مسجد دھوبی گھاٹ اور تحصیل والی مسجد شامل تھی۔ سنت پورہ میں قادری مسجد بھی تھی جس کی 1970ء میں تعمیر نو اور توسیع ہوئی، والد صاحب اور ہم وہاں نماز پڑھتے تھے۔

رہائشی مکان اور زرعی اراضی کی الاٹمنٹ:

والد صاحب کو لائل پور کے مشہور جھنگ بازار سے ملحق محلہ سنت پورہ کے مین بازار میں پانچ مرلے کا رہائشی مکان الاٹ ہوا۔ یہ دو منزلہ مکان تھا۔ ابا جان نے اس گھر میں مدرسہ قائم کر دیا اور اس کا نام ”تعلیم الاسلام“ رکھا۔ اوپر ہماری رہائش تھی نیچے مدرسہ کے لئے چار کمرے اور صحن مخصوص کر دیئے گئے۔ جالندھر کی زرعی زمین کے کلیم میں ہمیں گوجرہ کے گاؤں ”کالیکی“ میں نصف مربع اراضی الاٹ ہوئی۔ اس طرح نئے وطن میں ہماری رہائش اور روزمرہ اخراجات کا معقول بندوبست ہو گیا اور زندگی ایک بار پھر رواں دواں ہو گئی۔ (اسی ”کالیسی“ گاؤں کے پاس ”جامارا“ گاؤں ہے۔ یہاں حضرت ماسٹر محمد منظور رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے موصوف بہت رقیق القلب تھے اور بہت رویا کرتے تھے۔ بعد میں ابا جان نے ان کو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کروا دیا۔)

اہل محلہ کی مسجد بنانے کی خواہش:

والد محترم مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ نمازیں سنت پورہ کی قادری مسجد میں پڑھتے تھے اور ہم بھی ان کے ساتھ مسجد جایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اہل محلہ ابا جان کا بہت احترام کرتے تھے ڈگلس پورہ میں اس وقت کوئی مسجد نہیں تھی اور لوگوں کا اصرار تھا کہ یہاں مسجد ضرور بننی چاہیے۔ آج جس جگہ پر انوری مسجد قائم ہے وہاں پر تقریباً ایک کنال کا گراسی پلاٹ تھا۔

عیسائی چرچ بنانا چاہتے تھے:

سنت پورہ میں عیسائیوں کی کافی آبادی تھی وہ یہاں چرچ بنانا چاہتے تھے۔ والد صاحب نے محلے کے مسلمانوں کا اصرار دیکھا تو سائبان لگا کر نماز جمعہ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ محلے میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان کشیدگی پیدا

ہوگئی۔ مقامی انتظامیہ نے حالات کی سنگینی کے پیش نظر جمعہ کا سلسلہ بند کروادیا۔
انوری مسجد کی تعمیر:

اباجان نے یہ حالات دیکھے تو مسجد بنانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ گراسی پلاٹ کی نیلامی کا مرحلہ آیا تو اباجان نے آٹھ ہزار روپے میں یہ جگہ خرید لی۔ یہ آٹھ ہزار روپے میرے دادا مولانا فتح الدین نے دیئے تھے۔ دادا جان اپنی رقم بینک میں جمع نہیں کروایا کرتے تھے۔

انوری مسجد کی تعمیر بھی والد صاحب اور دادا جان نے اپنے پیسوں سے کروائی، مسجد کی تعمیر 1948ء میں مکمل ہوئی یوں سنت پورہ اور ڈگلز پورہ کے عوام کی خواہش پوری ہوگئی۔ حضرت والد صاحب اور دادا جان نے اپنے لیے بہترین صدقہ جاریہ کا انتظام کر لیا، انوری مسجد کا پلاٹ حضرت والد صاحب مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر تھا۔ (”1947ء میں لدھیانہ کے مسلمانوں پر کیا گزری“، ص 351)

دینی و ملی خدمات:

حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ نے تدریسی، تحریری، تقریری میدانوں میں خوب کام کیا۔ تدریس میں آپ نے دورہ حدیث تک کے اسباق کئی سال پڑھائے اور تحریری سلسلہ میں مختلف موضوعات پر رسائل لکھے اور تقریری سلسلہ میں آپ نے کئی مناظروں میں قادیانی، شیعہ اور باطل فرقوں کے مبلغین کو عبرتناک شکست دی۔ عقیدہ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کی تحریک میں جید علماء و مشائخ کی صف میں شمار کیے گئے۔

دیوبند سے فراغت کے بعد آپ واپس تشریف لائے اور لدھیانہ کے مشہور علمی مرکز مدرسہ عزیز یہ میں تدریس شروع فرمائی اور عرصہ دراز تک اسی مدرسہ سے منسلک رہے پھر رائے کوٹ کے مسلمانوں کے بے حد اصرار پر رائے کوٹ

چلے گئے اور وہاں ”مدرسہ تعلیم الاسلام“ قائم کیا۔ اس مدرسے کے لیے آپ نے کئی کنال جگہ خریدی۔ مدرسہ تعلیم الاسلام میں ناظرہ اور حفظ قرآن کے علاوہ کتب بھی پڑھائی جاتی تھی۔

رائے کوٹ میں ہی گورنمنٹ ہائی سکول میں نائب ہیڈ ماسٹر کی پوسٹ پر تقرری ہوگئی بعد میں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد پر استعفیٰ دے دیا تھا یہ وہ دور تھا کہ انگریزی استعمار کے اقتدار کا سورج نصف النہار پر چمک رہا تھا اسے چیلنج کرنا اور اس سے لڑنا ہر کسی کا کام نہ تھا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو مٹانے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کی جعلی نبوت کا ڈھونگ رچایا۔ علمائے حق قادیانی فتنے سے مسلمانوں کے ایمان بچانے اور مرزا قادیانی لعین و مردود اور اس کے کارندوں کی فریب کاری کو بے نقاب کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔

حضرت مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا سید عبدالرحیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ فیروز پوری، مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ فاتح قادیان مولانا محمد حیات رحمۃ اللہ علیہ نے مرزائیوں کے خلاف بے شمار مناظروں میں حصہ لیا۔ ان مناظروں میں عملی استدلال اور ادبی نکات پیش کرنے میں والد حضرت مولانا محمد رحمۃ اللہ علیہ نے خوب شہرت حاصل کی۔
(بروایت مولانا سعید الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ)

مقدمہ بہاولپور میں حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کا اہم کردار:

آپ کے استاذ حضرت علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانیوں کے خلاف مشہور مقدمہ بہاولپور میں آپ کو معاون خاص کے طور پر منتخب فرمایا اور مسلمان لڑکی کی جانب سے انہی کو وکیل بنایا تھا۔

حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ

”بہاولپور کے تاریخی مقدمہ میں شہادت کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے جانبدار ہو کر جب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، احقر حضرت کے ہمراہ تھا، مولانا اسعد اللہ سہارنپوری (رحمۃ اللہ علیہ) اور احقر دونوں کو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مختار مقدمہ بنوایا، چنانچہ احقر کو 19 یوم سعادت رفاقت نصیب ہوئی۔“

(حیات انور ص 319)

سابق ریاست بہاولپور کی عدالت میں اس تاریخی مقدمہ کی کارروائی 1932ء میں 19 دن جاری رہی۔ اس میں دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام اور عالم اسلام کی ترجمانی کا حق ادا کر دیا اور باطل کو شکست فاش دی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کو مقدمہ کا مختار مقدمہ بنا دیا تو پورا مقدمہ ان کی قیادت میں طے پایا۔ دوران مقدمہ حضرت شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی کسی مسئلے پر قرآن و حدیث یا قرون اولیٰ کے محدثین یا فقہاء کے موقف کا تذکرہ فرماتے تو مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کتاب سے وہ حوالہ نکال کر فوراً پیش کر دیتے اس تاریخی مقدمہ میں قادیانیت کے مقابلہ کیلئے حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہمراہ جن معتمد تلامذہ کی جماعت لائے تھے ان میں مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد زکریا لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالمنان ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بھی شامل تھے ان واقعات کو ”محدث کشمیر“ اور ”انوار الباری“ کے مصنف مولانا سید احمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے لکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ

”حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہاولپور کے مشہور تاریخی مقدمہ میں شہادت کے لئے 19 اگست 1932ء کو بھاولپور تشریف لے گئے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لئے نیز آپ کا بیان سننے کے

لئے نہ صرف ریاست بھاولپور اور ملحقہ علاقہ کے علماء و عوام و امیرانِ ریاست بلکہ کراچی، بلوچستان، پنجاب اور دیگر دور دراز علاقوں کے علماء، فضلاء و رؤساء پہنچ گئے تھے۔ 25 اگست کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بیان شروع ہوا تو کمرہ عدالت امراء، رؤساء اور علماء سے پُر ہو گیا تھا۔ اور عدالت کے باہر میدان میں بھی دور دور تک زائرین کا اجتماع تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان متواتر پانچ دن تک رہا جس میں روزانہ تقریباً 5/6 گھنٹے علم و عرفان کے دریا بہاتے رہے۔ مرزائیت کے کفر و ارتداد اور دجل و فریب کے تمام پہلو آفتاب نصف النہار کی طرح روشن فرما دیئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ خاص مخدوم و محترم حضرت مولانا محمد صاحب انوری لائل پوری عم فیضہم اس سفر میں شب و روز 19 یوم تک حضرت کے ساتھ رہے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مختار مقدمہ بنا دیا تھا۔ نیز حضرت کے عدالتی بیان میں جس قدر حوالہ جات کتب کی ضرورت پیش آتی تھی وہ بھی مولانا موصوف ہی نکال کر پیش کرتے تھے۔ جن کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود پڑھ کر حج صاحب کو سناتے تھے۔“ (رسالہ نقش ص 7، اکتوبر 1959ء)

پانچویں دن عدالت کا وقت شروع ہونے سے ایک گھنٹہ بعد تک رہی، پھر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اطلاع دی گئی، کار سے تشریف لائے، زائرین کا ہجوم تھا، ڈسٹرکٹ جج (اکبر خان) مرحوم نے نہایت اعلیٰ انتظام فرمایا تھا، تاکہ کارروائی سننے والوں کو دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے، جب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کمرہ عدالت میں قدم مبارک رکھا، تمام حاضرین اٹھ کھڑے

ہوئے تا آنکہ مرزائی بھی کھڑے ہو گئے، احقر نے حضرت کے ضعف و نقاہت کے باعث حج صاحب سے عرض کر کے آرام دہ کرسی کا انتظام کروایا تھا کہ حضرت بیٹھ کر بیان دیں گے، ہم دونوں کے لیے بھی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، لیکن ہمیں تو ادباً کھڑے ہی رہنا تھا اور کام بھی کرنا تھا، اس لیے دونوں کرسیاں اٹھوا دی تھیں، کمال یہ کہ مرزائی ہر دو مختاران مدعا علیہ بھی اپنی اپنی کرسیاں اٹھا کر زمین پر بیٹھ گئے، حضرت کے حکم سے حوالہ جات کتب نکال کر پیش کرنا بھی احقر کے سپرد تھا اور حضرت کی بین کرامت تھی جس عبارت کے متعلق ارشاد فرماتے احقر فوراً نکال کر پیش کرتا تھا اور حضرت پڑھ کر حج صاحب کو سناتے تھے، بیان شروع ہوتے ہی تمام کچھری میں سناٹا چھا گیا تھا، حاضرین ہمہ تن گوش تھے، حضرت کا بیان نہایت سکون و اطمینان سے سن رہے تھے، باوجود ضعف کے آواز اتنی بلند تھی کہ عدالت کے اندر باہر سب کو پورا بیان سنائی دیتا تھا، مرزائی لوگ مولانا مرتضیٰ حسن کے بیان میں شور مچاتے تھے لیکن حضرت کے بیان میں سب کی زبانیں گنگ ہو گئی تھیں، ایسا منضبط اور اصولی بیان لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ۔ حج صاحب کی آرزو تھی کہ بیان ایسا ہونا چاہیے جس سے مجھے نتیجہ تک پہنچنا آسان ہو جائے کہ کن وجوہ کی بناء پر کسی کی تکفیر کی جاسکتی ہے، سو حضرت کا بیان ماشاء اللہ ایسا ہی تھا، حج صاحب نہایت محظوظ ہو رہے تھے کہ اُن کی مراد برآئی۔ (حیات انور ص 319)

حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ اس وقت قابل دید و شنید تھا جب حوالہ دینے کتاب کھولتے ہی فوراً انگلی مبارک عبارت پر ہوتی، حج صاحب لکھئے! عبارت یہ ہے، بعض دفعہ احقر کو فرماتے کہ عبارت نکال کر دے تاکہ دکھاؤں، بعض دفعہ صفحہ بھی ارشاد فرماتے، بیان بیٹھ کر فرماتے لیکن حوالجات پیش فرماتے وقت کھڑے ہو جاتے، توراہ شریف کی بعض آیات عبری الفاظ میں سنائیں اور اپنے دست مبارک

سے لکھ کر نج صاحب کو دیں۔

چنانچہ ایک آیت احقر کو یاد ہے: ”نَابِيْ مُقْرَبٌ مِّمَّيْحِخَ كَامُوْخِ يَاقِيْمِ
لَحِ الْوَهْخِ الْاَوْتَشْمَاعُوْنَ، نَبِيْ مِنْ قُرْبِكَ مِنْ اَخِيْكَ كَاخِيْكَ يُقِيْمُ لَكَ الْهَيْكِ الْاَبِيْهِ
تَسْمَعُوْنَ“ ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے لکھ کر اس
آیت کا بنی اسرائیل میں اعلان فرمایا۔ (حیات انور ص 322)

چنانچہ حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ انوار انوری میں خود تحریر فرماتے ہیں:
”پھر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہاول پور تشریف لائے، تو
حضرت مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الجامعہ بھی جو اس وقت
بہاول پور میں تھے تشریف لائے، حضرت مولانا محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ
دوم مدرس جامعہ عباسیہ بھی وہیں تشریف رکھتے تھے۔ خود حضرت
مولانا مرتضیٰ حسن رحمۃ اللہ علیہ بھی اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ
بھی دیوبند سے تشریف لائے اور سہارنپور سے حضرت ناظم
عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ مع مولانا اسد اللہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور
بہاولپور کے بڑے بڑے علماء تشریف رکھتے تھے، اور حضرت
شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی مسئلہ بیان فرما رہے تھے، سب ہمہ تن
گوش ہو رہے تھے، کوئی نہیں بولتا تھا۔ جس کوٹھی میں حضرت
شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قیام فرماتے تھے وہ کوٹھی بڑی وسیع تھی۔ اور صحن
بڑا فراخ تھا، مگر بعد عصر اس میں تل دھرنے کو جگہ نہ رہتی تھی۔
کیسی کیسی صحبتیں آنکھوں کے آگے سے گئیں، دیکھتے ہی دیکھتے کیا
ہو گیا، یک بارگی؟ (انوار انوری جدید ص 16)

حضرت کی قیامگاہ پر زائرین کا ہجوم رہتا تھا، ہر وقت کسی نہ کسی موضوع

پر تقریر فرماتے رہتے تھے، بہت سے لوگ حضرت سے بیعت بھی ہوئے، رات دن یہی مشغول تھا، رات کے ایک بجے تک بیٹھے رہتے، قرآن و حدیث و فقہ، تصوف وغیرہ علوم و فنون کے دقیق دقیق مسائل علماء کرام و صوفیاء عظام دریافت کرتے رہتے، ہر ایک کے جواب میں ایسی محقق اور مبسوط تقریر فرماتے گویا ساری عمر اسی میں لگائی ہے، ایک عالم دین نے مسئلہ وحدۃ الوجود، اور وحدت شہود کے متعلق سوال کیا، بس پھر کیا تھا تین دن عصر سے مغرب تک اور مغرب سے عشاء تک اسی پر بیان فرماتے رہے، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات زبانی سنارہے ہیں، معارف لدنیہ میں یہ فرماتے ہیں، مکتوبات شریفہ میں یہ فرماتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تحقیق ہے، عمبقات میں شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا، حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات میں یہ فرمایا ہے، فصوص الحکم میں یہ ارشاد ہوتا ہے، حضرت مولانا حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظموں پہ نظمیں وحدۃ الوجود پر طویل طویل پڑھ کر سنارہے ہیں۔ (حیات انور ص 324)

ایک بجے شب تک تو جیسے اوپر گزرا وعظ و تلقین و ارشاد و بیان مسائل ہوتا رہتا، صرف ایک گھنٹہ آرام فرماتے۔ دو بجے تہجد کے لیے اٹھتے، فجر کی نماز تک مراقب رہتے، پاس انفاس میں مشغول رہتے، اول وقت نماز فجر کی امامت خود کرتے پھر سورج نکلنے تک کچھ پڑھتے رہتے، چائے پی کر گاڑی سے کچھری تشریف لے جاتے، سات بجے سے ایک بجے تک بیان ہوتا رہتا، ضعف و نقاہت بغایت تھا لیکن تھکان مطلقاً محسوس نہ فرماتے، تمام رفقاء سفر و دیگر علماء کا خوب اہتمام سے تفقد فرماتے رہتے، مجلس مشاورت میں خاص خاص علماء کو شامل فرماتے۔ احقر پر اتنی نوازشات و عنایات کی بارش ہوتی رہتی تھی کہ بیان سے باہر ہے۔ احقر نے قادیانیوں کی کتب سے بعض نئی باتیں نکال کر پیش کیں، بہت خوش ہوئے اور بار بار

علماء کو بلا کر دکھاتے۔ جب تک احقر مجلس مشاورت میں حاضر نہ ہوتا، بات شروع نہ فرماتے، تخلیہ میں بھی مشورہ فرماتے اور باصرار فرماتے کہ تیری اس میں کیا رائے ہے۔ بہاولپور شہر میں جامع مسجد ودیگر مقامات پر قادیانیت کے خلاف تقریر کرنے کے لیے علماء کو بھیجتے رہتے تھے، دو دفعہ احقر کو بھی بھیجا، ان ایام میں اس قدر حضرت کے چہرہ مبارک پر انوارات کی بارش ہوتی رہتی تھی، ہر شخص اس کو محسوس کرتا تھا، احقر نے بارہا دیکھا کہ اندھیرے کمرے میں مراقبہ فرما رہے ہیں، لیکن روشنی ایسی جیسے بجلی کے قمقمے روشن ہوں، حالانکہ اس وقت بجلی گل ہوتی تھی، بہاولپور جامع مسجد میں جمعہ کی نماز حضرت اقدس پڑھایا کرتے تھے، بعد نماز کچھ بیان بھی ہوتا تھا، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا۔ (حیات انور ص 325)

1953ء کی تحریک ختم نبوت میں شمولیت:

1953ء کی تحریک ختم نبوت میں شمولیت کے بارے میں مولانا محمد ایوب الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ”ختم نبوت کی تحریک میں والد صاحب حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے نکلے۔ 1953ء میں تحریک ختم نبوت میں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جس جگہ خود جانا تھا لیکن اپنے ضعف اور بیماری کی وجہ سے نہیں جاسکے، وہاں اپنی جگہ مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کیا۔ تحریک ختم نبوت بہت زبردست انداز میں چل پڑی، چنانچہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مشرقی پاکستان مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ آپ پاکستان واپس آجائیں، چنانچہ آپ واپس آگئے ان دنوں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا قیام ڈھڈیاں میں تھا وہاں حاضر ہوئے حضرت نے فرمایا کہ میں نے تو آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ میری طرف سے اس تحریک میں حصہ لیں۔ مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب تحریک میں حصہ لیا تو لوگ حیران ہو گئے۔ میں نے خود دیکھا کہ ہمارے گھر کے آگے

ہزار ہا کا مجمع تھا۔ مین بازار ہر طرف سے لوگوں سے کچھا کچھ بھرا ہوا تھا۔ مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس دن تحریک میں نکلنا تھا، چنانچہ آپ گھر سے باہر تشریف لائے۔ لوگوں نے ہار ڈال کر لا دیا۔ دیواریں چمک اٹھیں۔ زبردست نعرہ بازی ہوئی۔ آپ کی تحریک میں شمولیت سے تحریک نے زور پکڑ لیا۔

جامع مسجد کچھری بازار میں بہت بڑے جلوس کی صورت میں لے جایا گیا اور جلسہ ہوا۔ ڈی سی نے ایک بڑے تاجر جو گورنمنٹ کا ٹاؤٹ تھا کو کہا کہ کسی طریقہ سے مولانا کو روکیں بہت زبردست تحریک چل رہی ہے۔ اس کا تعلق دوسرے مسلک سے تھا جب وہ آیا تو اس نے آکر حالات کو بھانپ لیا اور سمجھ گیا کہ اگر میں نے یہاں کوئی بات کہی تو میری خیر نہیں۔ اس نے یہ ظاہر کیا کہ میں بھی تحریک میں حصہ لینے آیا ہوں؛ پھر گرفتاریاں ہوئیں۔ مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کا گرفتاری دیتے ہوئے بیان یہ تھا کہ

”جب انہوں نے مجھے ہتھکڑی لگائی تو میں نے اللہ کو مخاطب کر کے یہ کہا آج تک مجھے کبھی بھی ہتھکڑی نہیں لگی تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر آج مجھے ہتھکڑی لگائی جا رہی ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے مجھ پر رقت طاری ہوئی میں نے کہا یا اللہ! تو میری اس نسبت کو قبول فرمالے میں تیرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جیل جا رہا ہوں۔ چنانچہ جیل بھیج دیا گیا اور آپ پر کیس چلا۔“

جج نے کہا کہ اس تحریک میں کچھ اوباش لوگ بھی شامل ہو گئے تھے اس وجہ سے تحریک خراب ہوئی اور غلط رخ اختیار کر گئی، آپ نے فرمایا کیا! غلط رخ اختیار کر گئی؟ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی اور ترجمہ کیا:

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔

(سورۃ الزمر: ۳۳)

”جو سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ تمام لوگ متقی ہیں۔“

یہاں نہ نماز کا ذکر، نہ روزے کا ذکر، نہ حج کا ذکر نہ زکوٰۃ کا ذکر صرف اس کی تصدیق کی تو وہ پرہیزگار ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ اوباش لوگ ہیں اچھی طرح حج سے جرح کی حج گنگ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت وجاہت اور رعب عطا فرمایا تھا۔ آپ کو چھ ماہ قید تنہائی بامشقت ہوئی اور جیل بھیج دیا گیا۔ مولانا محمد یحییٰ لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ مہتمم اشرف المدارس فیصل آباد (برادر رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ) وہ بھی جیل میں تھے۔ جیل والوں سے لڑے کہ مولانا کو قید تنہائی دی ہے کیونکہ ڈی سی نے لکھا تھا کہ مولانا محمد انوری صاحب گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں۔

خود والد صاحب فرماتے ہیں کہ پہلی رات ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جارہے ہیں اور میں ساتھ جارہا ہوں اور میرے کندھے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ یہ نشانی تھی کہ آپ راہ حق پر جارہے ہیں۔ پھر مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا اور تجلیات ربانی کی زیارت ہوئی جب میں جاگا تو جیل کو ٹھٹری میں تھا۔ تیمم سے نماز پڑھی مجھے پانی مہیا نہیں کیا گیا تھا۔

اکاؤنٹنٹ جنرل مشرقی پاکستان سید محمد جمیل صاحب ^(۱) نے حضرت

(۱) سید جمیل صاحب حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے آپ نے عیسائیوں کے خلاف خوب کام کیا اور عیسائیوں کے اسکولوں کے مقابلہ پر کراچی میں اسکول بنائے تاکہ مسلمانوں کے بچے مسلمانوں کے اسکولوں میں داخل ہوں اور ان اسکولوں کی تعلیم کا معیار بلند ہو، آپ نے انجمن اشاعت قرآن عظیم کے بانی تھے، اسی انجمن کا تحت درجنوں مساجد قائم ہوئی نیوٹاؤن مسجد اور مدرسہ (موجودہ بنوری ٹاؤن) بھی اسی انجمن کے تحت قائم ہوا تھا۔

رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میں آپ کو تبلیغ اور بیعت و ارشاد کے لیے ڈھا کہ لے جانا چاہتا ہوں حضرت نے فرمایا مولانا محمد انوری اگر راضی ہو جائیں تو انہیں لے جاؤ، لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ آپ کے وعظ سے کتنا ہی کوئی سخت دل ہو اس پر رقت طاری ہو جاتی تھی وہ نرم دل ہو جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جگہ آپ کو ڈھا کہ روانہ کر دیا۔ پورے مشرقی پاکستان میں جہاں جہاں سید جمیل صاحب لے کر گئے وہاں اس طرح تبلیغی کام ہوا، جو عرصہ دراز سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ جماعت والے عیش عیش کراٹھے۔ ایک بیان پر ہی ہزاروں لوگوں نے وقت لکھائے اور دعوت و تبلیغ کے لیے نکل کھڑے ہوئے، مجھے حاجی بشیر صاحب (والد محترم مولانا احسان الحق تبلیغی مرکز راؤنڈ) نے خود بتایا کہ مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ یہ الفاظ تھے ہزار ہا لوگ توبہ کر گئے، بیعت ہوئے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ مشرقی پاکستان میں مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کی وساطت سے خوب پھیلا، ڈھا کہ میں آپ نے تین ہفتے قیام فرمایا۔

سید محمد جمیل صاحب نے ڈھا کہ میں اپنی کٹھی پر جلسہ کیا جس میں وزیر اعلیٰ مشرقی پاکستان نور الامین، کئی وزراء، سرکاری افسران اور مشرقی پاکستان کی بڑی بڑی شخصیات نے شرکت کی۔ ابا جان نے اس موقع پر دو گھنٹے خطاب کیا۔ بیان ختم ہونے پر وزیر اعلیٰ مشرقی پاکستان نور الامین نے برسز مجلس اقرار کیا کہ ایسی مؤثر تقریر ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی۔

مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کی مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات:

مشرق پاکستان سے واپسی پر مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ نے رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے دہلی چند روز قیام فرمایا، دہلی کے مشہور ڈاکٹر شکر داس ایک روز رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن سے

ملنے آئے۔ حضرت مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اس بزرگ کا چہرہ اتنا منور اور روشن ہے ان کا دل کتنا روشن ہوگا۔

اسی طرح حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو لکھنؤ لے جانا چاہتے تھے کہ کچھ دن حضرت کا وہاں قیام ہو، تاکہ حضرت کا فیض جاری ہو۔ حضرت نے مولانا علی میاں کو فرمایا میری طرف سے مولانا محمد انوری کو لے جائیں چنانچہ مولانا علی میاں بڑے اہتمام کے ساتھ مولانا محمد کو لے کر گئے۔ اس سفر میں مولانا محمد منظور نعمانی اور دیگر خلفاء بھی شامل تھے باقاعدہ ایک قافلہ کی صورت میں لکھنؤ پہنچے، کافی دن قیام رہا۔

درس قرآن کی مقبولیت:

حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر فالج کا حملہ ہوا مگر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور فالج کے اس حملے کے بعد اباجان کی صحت کافی حد تک بحال ہو گئی۔ 1961ء میں اباجان کی عمر ساٹھ برس ہو چکی تھی اور بڑھاپا آ گیا تھا اس کے باوجود ان کے روزانہ معمولات کا سلسلہ قائم تھا۔ اباجان تہجد کے وقت طلباء کو حدیث کا سبق پڑھایا کرتے تھے۔ تدریس کے بعد چائے کا کپ پیتے اور پھر نماز فجر کی امامت کراتے۔ نماز کے بعد آپ درس قرآن ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اس درس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مقبولیت عطا فرمائی۔ والد صاحب کے انداز بیان کو عوام اور خواص سبھی پسند کرتے تھے۔ درس میں لائل پور شہر کے کئی مشاہیر تشریف لاتے تھے۔ جامع مسجد کچھری بازار لائل پور کے خطیب مفتی محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم اور صاحب مطالعہ شخصیت تھے لیکن اباجان کے درس قرآن میں باقاعدگی سے حاضر ہوتے تھے۔ مفتی محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہندوستان کے شہر مراد آباد سے تھا۔ مفتی زین العابدین بھی والد صاحب سے فتویٰ کی اصلاح

کرایا کرتے تھے۔

فیصل آباد میں دورہ حدیث کی ابتداء:

لائل پور (فیصل آباد) میں آپ نے سب سے پہلے دورہ حدیث کی ابتداء اپنے قائم کردہ مدرسہ تعلیم الاسلام میں کی اور بذاتِ خود 1966ء تک دورہ حدیث پڑھاتے رہے۔ تقسیم ہند کے موقع پر ہجرت کے بعد جب لائل پور (فیصل آباد) سکونت اختیار فرمائی تو شہر اور مضافات میں مساجد اور مدارس کا جال بچھا دیا جس کا ذکر پہلے عرض کر دیا ہے۔

دارالعلوم دیوبند کی معاونت:

رسالہ ”دارالعلوم“ پورے پاکستان میں جاری کروایا اور رسالہ ”نقش“ کے سب سے بڑے خریدار بھی خود تھے۔ مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے سفیر رہے۔ جملہ چندہ آپ کی ہی وساطت سے دارالعلوم جاتا تھا۔ مدرسہ کی رسید بک آپ کے پاس رہتی تھی۔ 1967ء تک ماہنامہ دارالعلوم کے سرورق کے اندرونی طرف ناظم چندہ مدرسہ و رسالہ کے لیے آپ کا نام گرامی درج رہا۔

جب 1952-53ء میں دیوبند کے دارالعلوم کو مالی بحران کا سامنا ہوا تو حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط لے کر مولانا عبدالرحمن صاحب لائل پور (فیصل آباد) مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ چنانچہ اس وقت سب سے زیادہ چندہ آپ کی وساطت سے ہوا، اور دیوبند بھیج دیا گیا، وہ رقم آج کے حساب سے تقریباً دس کروڑ بنتی ہے۔ اس پر دارالعلوم کے ارباب اہتمام نے فیصلہ کیا کہ آئندہ پاکستان سے جو چندہ بھی آئے وہ مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت آئے گا۔

جلد نمبر ۱۱
شمارہ نمبر ۶
دارالعلوم دیوبند کا علمی دینی ماہنامہ
دارالعلوم
ستمبر ۱۹۵۶ء

ختم خریداری کی اطلاع

یہاں () اگر سرخ نشان لگا ہوا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اس پرچہ پر آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔ ہندوستانی خریداری آرڈر سے اپنا چندہ روانہ کریں۔ چونکہ فیس رجسٹری میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس لئے دی بی میں صرف زائد ہو گا۔
پاکستانی حضرات!

مولانا محمد انوری معتمد مدرسہ تعلیم الاسلام محلہ سنت پورہ

لاہل پور

کو چندہ روانہ کریں اور رسید ہمیں بھیج دیں۔ ہندوستان اور پاکستان کے سب خریداروں کو نمبر خریداری کا حوالہ دینا ضروری ہے۔

«ناظم»

1967ء تک ماہنامہ دارالعلوم کے سرورق کے اندرونی طرف ناظم چندہ مدرسہ و رسالہ کے لیے آپ کا نام درج رہا۔

مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کا سیاسی مسلک:

سیاسی طور پر مسلک حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک رہے اور احرار کے پلیٹ فارم سے گراں قدر سیاسی خدمات بھی سرانجام دیں قیام پاکستان کے بعد انہوں نے عملی سیاست سے لاتعلقی اختیار کر لی تھی پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے اکثر دعائیں کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ ملک بن گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ 1965ء کی جنگ کے دوران انہوں نے خاص طور پر پاکستان کی فتح کے لیے بہت دعائیں کیں۔

مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کا عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم:

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے بے انتہا عشق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیتے ہوئے اکثر آبدیدہ ہوتے تھے، جس کا ذکر نسبت محمدیہ کی وضاحت میں گزر چکا ہے۔ خواب اور حالت بیداری میں اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتے تھے۔ 1953ء کی تحریک ختم نبوت میں جب گرفتار ہو کر جیل گئے تو حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ پاکستان تشریف لائے تو لائل پور (فیصل آباد) آپ کے ہاں ہی قیام فرمایا، جیل میں آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے جب حال و احوال دریافت فرمایا تو آپ نے عرض کیا کہ حضرت! کیا پوچھتے ہیں؟ اللہ کا اتنا کرم ہے کہ روزانہ رات نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزرتی ہے اور رقت طاری ہوگئی۔

1955ء میں سخت بیمار ہو گئے۔ لائل پور کے اچھے ڈاکٹروں سے علاج کرایا مگر افاقہ نہ ہوا۔ اسی عالم میں 35 روز گزر گئے۔ جب بالکل مایوسی ہو گئی تو ایک رات خواب میں امیدوں کا دروازہ کھلا، آپ کو سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے اترے ہیں اور

آپ کے ساتھ بہت سے پتنگے ہیں جو سنہری رنگ کے ہیں۔ آپ ﷺ میرے سرہانے کی طرف تشریف فرما ہوئے اور یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

قُلْ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔

(سورۃ الشوریٰ: ۲۳)

آپ صبح نماز فجر کے وقت بیدار ہوئے تو بخارا تر گیا اور شفا یاب ہو گئے۔ آپ نے یہ سارا واقعہ حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لکھ کر ارسال کر دیا۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا بہت مبارک ہے۔ اور اسکا اثر یہ ہے کہ توکل پیدا ہوگا۔ یہ تجلی ہے آپ کی ترقی ہوگی۔ سچ یہ ہے کہ دنیا میں جو انسان جس سے محبت کرتا ہے، اسے دیکھ کر اپنے سارے دکھ درد، غم، مصائب اور تکالیف بھول جاتا ہے۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد عشق تھا۔

رائے پور کے قیام ہی کا واقعہ ہے کہ آپ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا کئی ساتھی اور بھی ساتھ ہیں۔ سب نے سات پارے بخاری شریف کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھے۔

حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب سن کر فرمایا بہت مبارک ہو اور آپ بخاری شریف پڑھایا کرو گے بلکہ تمام کتب احادیث کا درس دو گے پھر اللہ تعالیٰ نے سالہا سال تک آپ کو یہ دولت و سعادت نصیب فرمائی۔ آپ کو ہر رات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی اور اکثر و بیشتر زیارت بیداری کی کیفیت میں ہوتی تھی لیکن وہ اظہار نہیں کرتے تھے۔ مولانا سعید الرحمن نے مجھے یہ بتایا کہ ”میں اس وقت کم عمر تھا ایک ہی بڑا کمرہ ہوتا تھا والد صاحب رات کو تہجد سے فارغ ہو کر اپنے اذکار و اوراد کے دوران یا مکمل کرنے کے بعد کھڑے ہو جاتے اور الصلوٰۃ والسلام پڑھتے تھے اور زار و قطار روتے تھے کافی دیر تک یہ کیفیت

رہتی تھی۔ یہ بات سالہا سال میں دیکھتا رہا۔“ بالکل یہی بات مولانا مسعود الرحمن انوری نے مجھے بتائی۔ (بروایت مولانا محمد ایوب الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ)

1957ء میں مولانا محمد انوری حج پر گئے تو مکہ مسکرمہ میں چند روز گزارنے کے بعد مدینہ منورہ چلے گئے۔ مدینہ منورہ میں سارا دن روضہ اطہر کی عمارت کے دروازہ پر بیٹھے روتے رہتے (جو ”روضۃ من ریاض الجنۃ“ کی طرف ہے) اور پنجابی کی یہ رباعی پڑھتے:

اٹھ شہر مدینے نوں چل جنڈڑی
بوا پاک رسول دا من جنڈڑی
جے تو راہاں وچ رُل کے مر جائیں گی
تے دوہیں جہانیں تر جائیں گی

شاعر اپنی جان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ

”اے جان اٹھ اور شہر مدینہ کی طرف چل، اے جان پاک رسول کے در پر جا کر حاضر ہو، اگر راستہ میں تیری موت آئیگی، تو دونوں جہانوں میں کامیاب ہوگا۔“

اور یہ نعتیہ اشعار بھی وردِ زباں رہتے:

رسولِ پاک دا روضہ ، ڈسے جنت کنوں برتر
ایہو مسکن محمد دا ، ڈسے مائی عائشہ دا گھر
اسے روضے اُتے ، رحمت خدا دی لایاں برساتاں
فلک توں ساوے روضے تے ، ڈسیون نور دیاں لاٹاں
جتھے نوری ملک ہر وقت ، پڑھدے آ کے صلوتاں
نبی دی ذات تے بھیجے ، صلوتاں آپ رب اکبر

ترجمہ: ”رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ جو جنت سے اعلیٰ ہے۔
حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہے۔
اسی روضہ پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ آسمان سے سبز گنبد
تک نور کی شعاعیں نظر آتی ہیں۔ جہاں نورانی فرشتے حاضر ہو
کر ہر وقت درود شریف پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
پر اللہ تعالیٰ بذات خود درود بھیجتے ہیں۔“ (دیوان مکتبہ ص 134)

حضرت مولانا محمد ایوب الرحمن انوری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ”آپ
جب بھی مدینہ منورہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر سلام کے لیے حاضر ہوتے تو
روضہ اطہر سے براہ راست سلام کا جواب آتا، ایک مرتبہ سلام پیش کرنے کے بعد
واپس تشریف لارہے تھے کہ راستہ میں دو شخص تکرار کر رہے تھے۔ جن میں ایک
مصری تھا اور دوسرا نجدی۔ مصری کہتا تھا ”رسول اللہ ہنا موجود یسمع
صلاتنا وسلامنا“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں ہمارا صلوة و سلام سنتے
ہیں۔ نجدی کہتا تھا کہ ”رسول اللہ فوق السماء ماہنا رسول اللہ“ رسول اللہ
آسمان پر ہیں یہاں زمین پر نہیں ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ تشریف
لارہے ہیں (یعنی والد صاحب رحمہ اللہ) تو انہوں نے طے کیا کہ اس مسئلہ کا فیصلہ ان
بزرگوں سے کرواتے ہیں؛ چنانچہ جب آپ قریب آئے تو انہوں نے مسئلہ پیش
کیا۔ حضرت انوری رحمہ اللہ نے ان سے ایک سوال کیا، روضہ اطہر کے اوپر سائن
بورڈ لگا ہوا تھا (۱) جس پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے:

(۱) (اب یہ سائن بورڈ ہٹا کر تین تختیوں پر سنہری حروف سے یہ آیات لکھی ہوئی ہیں یہ تختیاں حضرت
مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے بھتیجے سید حبیب بن سید احمد فیض آبادی مہاجر مدنی رحمہ اللہ نے لگوائیں تھیں
جو گورنر مدینہ تھے، مسجد نبوی کی تزئین و آرائش میں ان کی گرانقدر خدمات ہیں۔)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ
النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ
تَحْبِطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. (سورة الحجرات: ۲)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند
مت کیا کرو اور نہ ان سے بات کرتے ہوئے اس طرح
زور سے بولا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو،
کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ
بھی نہ چلے۔“

پھر حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بورڈ یہاں کیوں لگا ہوا ہے؟ یہ تو
پھر آسمانوں پر لگا ہونا چاہیے تھا۔ یہ گورنمنٹ سعودیہ نے لگایا ہوا ہے جس سے
معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں۔ پھر
فرمایا، میں کس طرح کہہ دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود نہیں ہیں، میں تو جب
بھی ”صلوٰۃ وسلام“ عرض کرتا ہوں جواب پاتا ہوں؛ لہذا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے روضہ اطہر میں موجود ہیں“ اور فرمایا کہ روضہ اطہر کی جو عمارت ہے مجسم نور
ہے اسی سفر میں فرمایا کہ روضہ اطہر پر جب سلام پیش ہوتا ہے تو انوارات کی بارش
بڑے زور سے ہوتی ہے جس کو میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔

ایک مرتبہ آپ مدینہ منورہ حاضر تھے۔ عمومی قانون کے مطابق حاجی کو
آٹھ دن مدینہ منورہ قیام کرواتے ہیں آٹھ دن کے بعد انہوں نے کہا کہ فی دن
دس ریال یا کچھ زیادہ جمع کروائیں گے تو اجازت ہے۔ چنانچہ والد صاحب نے
قبول کیا اور چالیس دن قیام کیا ساتھ میں (ایوب الرحمن) اور مولانا سعید الرحمن
اور ہماری والدہ تھی۔ جب مدینہ منورہ سے واپس ہوئے تو جیب میں صرف دس

ریال تھے یہ قیام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہوا۔

ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں چالیس روز قیام رہا والد صاحب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگ چلہ کشی کرتے ہیں اور ہماری روضہ رسول پر چلہ کشی ہوگئی اس سے بڑی اور کیا چلہ کشی ہوگی۔ اس سال بارش بھی خوب ہوئی۔ والد صاحب نے مولانا سعید الرحمن کو فرمایا کہ باب جبرئیل کی طرف جو پرنا لہ ہے اس کا پانی بالٹی میں جمع کر کے لاؤ۔ مولانا سعید الرحمن وہاں خوب نہائے اور دو بالٹیاں بھر کر لائے۔ وہ پانی ہم دوکین میں بھر کر پاکستان لائے۔ یہ بات عشق و محبت کی ہے۔ وہ پانی بھی یہاں لوگوں کو تقسیم کیا۔ مدینہ منورہ میں اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے لگے ہوئے کھجور کے دو درخت موجود تھے۔ ان درختوں کی ہم نے زیارت بھی کی اور ان کی کھجوریں پاکستان لے کر بھی آئے اور لوگوں میں بانٹیں تھیں۔ بعد میں سعودی حکومت نے درخت اکھاڑ کر جلا دیئے اور باقی تنے سے پھر پودا نکلنے لگا اسے بھی ختم کر دیا گیا یہ 1957ء کی بات ہے اور 1962ء تک کچھ آثار رہے۔

یہ 1962ء کا واقعہ ہے کہ ہماری رہائش باب السلام کے بالکل ساتھ تھی، والد صاحب نہانے کے لیے غسل خانہ میں گئے۔ بعد عشاء کا وقت تھا۔ والد صاحب نے ابھی گرتا ہی اتارا تھا کہ میرے گھر آنے کی آہٹ پا کر فرمایا کہ تیری والدہ نہیں آئی۔ میں نے عرض کیا نہیں آئی؟ فرمایا پتہ کرو۔ میں والدہ کو ڈھونڈ کر لے آیا تو فرمایا میں بھی تمہارے پیچھے کرتہ پہن کر ڈھونڈنے نکلا تھا جلدی میں سر پر ٹوپی بھی نہ لے سکا۔ باب جبرئیل پر پہنچا تو خادم دروازہ بند کر رہے تھے انہوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی لیکن میں اندر داخل ہو گیا اور روضہ پاک کے سامنے حاضر ہو کر سلام کیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ! ایوب الرحمن کی والدہ گم

ہوگئی ہے آپ دعا فرمادیں۔ پھر صلوٰۃ و سلام عرض کر کے ریاض الجنۃ کی طرف سے باہر نکلا تو تم والدہ کو لے کر آ رہے تھے۔

اسی طرح ایک بار آپ ریاض الجنۃ میں بیٹھے تھے، فجر کی اذان ہونے والی تھی۔ والد صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے ویزہ کی مدت ختم ہوگئی ہے اور کوئی اطلاع نہیں آ رہی۔ فجر کی اذان ہوئی پھر جماعت ہوئی نماز کے بعد دو زانو بیٹھے تھے کہ کسی نے پیچھے سے ایک رقعہ گود میں رکھ دیا کھول کر پڑھا تو لکھا تھا ”آپ کا ویزا بڑھ چکا ہے اطمینان سے رہیں“ نہ والد صاحب نے پیچھے دیکھا نہ میں نے۔

بریلوی مسلک کے مولوی محمد سردار جو آپ کے قریب ہی جھنگ بازار کی جامع مسجد کے امام و خطیب تھے علماء دیوبند کے بارے میں متعصب و متشدد تھے لیکن کبھی بھی آپ کے خلاف نہ تقریراً نہ تحریراً کام کیا بلکہ بہت سے عینی شاہدین جنہوں نے ان کے پیچھے جمعہ پڑھا بتایا کہ جمعہ کے بیان میں کہا کرتے تھے کہ ”جو لوگ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہم ان کے خادم ہیں (پھر حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کی طرف اشارہ کر کے کہتے) مجھے ادھر سے خوشبو آتی ہے“ بلکہ اس حد تک احترام تھا کہ اس محلہ سے کوئی شخص ختم یا فاتحہ کے لیے آتا تو جانے سے انکار کر دیتے اور کہتے اس طرف مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی والہانہ محبت تھی کہ ”قصیدہ محمدیہ“ مصنفہ حضرت امام بوصری رحمۃ اللہ علیہ خوشخط لکھ کر اپنی خاص نشست گاہ کے ساتھ دیوار پر مستقل لگایا ہوا تھا خود بھی عربی، اردو، پنجابی میں نعتیہ کلام کہا اور حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے عربی نعتیہ کلام کا ترجمہ بھی فرمایا۔



نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

از حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ

ہُن ہند اندر نہیں لگدا جی	طیبہ جاون دی تا نگھ لگی
اب میرا دل ہند میں نہیں لگتا ،مدینہ طیبہ جانے کی خواہش ہے	
کدی جاواں مدینے سرور دے	محبوب خدا مکی عربی
کبھی میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں مکی ہیں عربی ہیں	
جو ہیں سرور کل جہاناں دے	جس جیہا نہ ہو یا کوئی نبی
جو تمام جہانوں کے سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شان والا کوئی اور نبی نہیں ہوا	
اوہ ہیں فخر عرب تے فخر عجم	مکی، مدنی، عربی، قرشی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم کا فخر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی مدنی عربی قریشی ہیں	
کدی بہر خدا، مدینے ول توں	اٹھ چل اے بادِ صبا جلدی
کبھی اللہ کے واسطے شہر مدینہ کی طرف تو، اے صبح کی ٹھنڈی ہوا اب جلدی چل	
آکھیں حضرت نوں پیغام میرا	روضے پہنچ کے سیس نوا جلدی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا پیغام دینا، روضہ پاک پہنچ کر جلدی سر جھکا	
اوہ ہیں دُرّ یتیم نبی اُمّی	محبوبِ خدا سردار جہاں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت قیمتی موتی ہیں، نبی ہیں اور اُمّی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب اور دنیا کے سردار ہیں	
جو ہیں رحمت کل جہاناں دے	اتے باعث خلق کون و مکاں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لئے باعث رحمت ہیں، اور کون و مکاں کی تخلیق کا باعث ہیں	
اوہ ہیں شمس الضحیٰ اتے بدر الدجی	اوہ ہیں ساتی کوثر روز جزا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم روشن سورج اور چودھویں کے چمکتے چاند کی مانند ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آب کوثر پلانے والے ہیں۔	

اوہ ہیں سید و سرور نبیاں دے	اوہ ہیں افضل و اعلیٰ صدرِ علی
-----------------------------	-------------------------------

آپ ﷺ تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ ﷺ افضل و اعلیٰ اور بلندیوں کی انتہا ہیں

اوہ ہیں مخزنِ نورِ یزدانی	اوہ ہیں منبعِ بحرِ عرفانی
---------------------------	---------------------------

آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے انوارات کا خزانہ ہیں، آپ ﷺ اللہ کی معرفت کے سمندر کا سرچشمہ ہیں۔

اوہ ہیں مظہرِ رحمتِ ربانی	اوہ ہیں خلقِ خدا و بچِ لاثانی
---------------------------	-------------------------------

آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہیں، آپ ﷺ جیسا اللہ کی مخلوق میں اور کوئی نہیں

ہے احقرِ افقرِ دیوانہ	اتے عشقِ نبی و بچِ مستانہ
-----------------------	---------------------------

یہ حقیر فقیر تیرا دیوانہ ہے اور نبی ﷺ کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے

تیرے پاک جمال دا ہے خواہاں	کدی خوابے جلوہ جانانہ
----------------------------	-----------------------

تیرے (یعنی نبی ﷺ کے) پاک حُسن و جمال دیکھنے کا خواہشمند ہے، اے محبوب کبھی خواب میں آ کر اپنا جلوہ دکھائیے۔

ترجمہ از

ابو حذیفہ عمران فاروق عفا اللہ عنہ



ارشادات و واقعات

حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا جائے تو دفتر کے دفتر درکار ہیں چند چیدہ چیدہ خصائل، ارشادات و واقعات پیش خدمت ہیں:

(1)..... اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں فرماتے تھے لیکن دین کے معاملہ میں شمشیر برہنہ تھے۔

(2)..... باوجود یہ کہ مخلوق خدا کا رجحان تھا، حکام اور صنعت کار آپ کی خدمت میں حاضر باش رہتے تھے مگر اللہ نے کمال استغناء کی دولت سے آپ کو مالا مال فرمایا تھا کبھی کوئی لالچ نہیں فرمایا جب کہ پیش کش بھی بہت ہوتی تھیں، اپنی ساری اولاد کو دین پڑھایا اور اسی پر قائم رہنے کی تاکید فرماتے رہے اور نصیحت فرماتے کہ دین کو ذریعہ معاش نہ بنائیں۔ اس ضمن میں چند واقعات درج ذیل ہیں؛

(3)..... ایک صاحب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے 34 مربے ہیں ان میں سے چند مربے آپ کے مدرسہ کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے جلال میں آکر فرمایا کہ تم مجھے دنیا کا لالچ دینے آئے ہو۔ اور خدام کو تنبیہ کر دی کہ دوبارہ یہ شخص یہاں نہ آئے۔ بعد میں ان صاحب نے مختلف طریقوں سے حضرت سے ملاقات کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہے۔

(4)..... فیصل آباد کی بعض بااثر شخصیات نے حضرت کو بہت بڑا مدرسہ، مسجد، خانقاہ، ہسپتال وغیرہ بنا کر دینے کی پیشکش کی اور اس مقصد کے لئے حضرت سے بارہا عرض کرتے رہے تقریباً عرصہ بیس سال کے بعد بمشکل تمام اس بات پر راضی کیا کہ آپ جگہ تو ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ حضرت کو وہ جگہ دکھانے کے لئے لے گئے اور موقع پر سارے منصوبے کی تفصیل بتائی۔ حضرت خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر فرمایا: ”بھائی میرا ارادہ نہیں، میں بہت بڑے دارالعلوم بنانے کا مکلف نہیں، اپنا

چھپر ڈال کر بیٹھوں گا اور جتنی دین کی خدمت ہو سکی کروں گا۔“

(5)..... ایک صاحب جو حضرت سے بیعت تھے اور دریوں اور کھیسوں کا کاروبار کرتے تھے بیعت ہونے کے چند دن بعد ملاقات کے لئے آئے اور عرض کیا کہ حضرت! مدرسہ کے لئے دریوں وغیرہ کی ضرورت ہو تو بتائیں۔ حضرت نے کمال استغنا سے فرمایا: ”مجھے دریوں کی کوئی ضرورت نہیں اللہ نے مجھے بہت نوازا ہوا ہے میرے پاس اعلیٰ قسم کی دریاں اور کھیس موجود ہیں“ اس پر وہ صاحب شرمندہ ہوئے اور حیرانی سے عرض کی کہ میرے پاس تو مولوی حضرات اس کام کے لئے درخواستیں لے کر آتے ہیں۔ (بروایت حضرت مولانا محمد ایوب الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ)

(6)..... فیصل آباد کے مشہور ماہر آنکھ ڈاکٹر غلام نصیر الدین احمد نے احقر کو اپنا ایک واقعہ سنایا کہ: ایک مرتبہ حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کے ہمراہ نظر کے معائنہ کے لئے میرے کلینک پر تشریف لائے۔ بزرگ شخصیت ہونے کی وجہ سے میں نے اچھی طرح معائنہ کیا۔ معائنہ کے بعد حضرت نے فیس کے بارے میں دریافت فرمایا۔ تو میں نے عرض کی کہ آپ سے فیس نہیں لوں گا۔ حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈال کر فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب! یہ آپ کا حق ہے، آپ نے اپنی مہارت اور اپنا وقت خرچ کیا ہے۔ آپ کو فیس تو ضرور لینا ہوگی، اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بہت فضل ہے۔ اور فیس دے کر گئے۔ ڈاکٹر صاحب حیران ہوئے کہ میرے پاس تو صاحب حیثیت لوگ بھی مفت معائنہ کے لئے سفارشیں لے کر آتے ہیں۔

(7)..... فرمایا کرتے تھے کہ جو مسلمان بھی ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے اس کی مغفرت یقینی ہے۔

(8)..... سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا بہت اہتمام فرماتے اور اس پر عمل و مداومت کی تلقین فرماتے، منکرات سے سخت نفرت تھی۔

(9) فرقہ واریت سے ہمیشہ دور رہے دوسرے مسالک کے لوگ بھی آپ کا بہت احترام کرتے تھے شہر میں جب بھی فرقہ واریت کا خطرہ ہوتا تو انتظامیہ کا فوراً آپ سے رابطہ ہوتا تا کہ شہر کی فضا پر امن رہے۔

(10)..... آپ کے مرید حافظ محمد حسن صاحب کمالیہ بیان کرتے ہیں:

”مستری حافظ محمد دین صاحب مجھے کہتے کہ آپ کے پیرومرشد کے پاس سورۃ یوسف کا ایک عمل ہے جس کی برکت سے ان کا گھر بار بھی اچھا ہے اور اولاد بھی اچھا کھاتے ہیں اور اچھا پہنتے ہیں کوئی جلسہ بھی نہیں کرتے۔ کبھی چندے کی اپیل نہیں کی۔ وہ صبح مصلیٰ کا کونا اٹھاتے ہیں اور جتنی رقم کی ضرورت ہوتی ہے مل جاتی ہے۔ ان کے پاس سورۃ یوسف کے مؤکلات ہیں وہ عمل خود بھی پوچھو اور مجھے بھی بتاؤ۔ میں اس وقت غیر شادی شدہ تھا میرا نام بھی حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ نے ہی رکھا تھا۔ مجھ سے بہت پیار فرماتے تھے۔ اپنی اولاد کو وصیت فرماتے کہ میں نے انہیں کہا ہے کہ دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا، دین کا کام کرو، میں نے کونسا دنیا کا کام کیا ہے تم لوگوں کو روٹی نہیں ملتی رہی، کیا نہیں ملا تمہیں۔ بڑے مربیعہ کارخانوں والوں سے بہتر زندگی گزار رہے ہو۔ فرماتے تھے:

مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ.

”جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔“

آپ فرماتے:

فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ.

(سورۃ البقرۃ: ۱۵۲)

بس قرآن پڑھو اور پڑھاؤ اللہ تعالیٰ خود عطا کریں گے۔ میں حضرت ﷺ کا بدن دبا رہا تھا تو میں نے عرض کیا حضرت جی! کوئی پیسے بنانے والا عمل بتائیں۔ فرمانے لگے کہ بیٹا! اس قرآن مجید سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ جسے رب نے قرآن کی دولت دی اسے سب کچھ دے دیا۔ اس پر عمل کرو اسی میں ہے سب کچھ۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو میرے بارے میں کچھ بتایا ہے کہ ان کے پاس پیسے بنانے والا عمل ہے میں نے عرض کی جی ہاں! وہ مستری محمد دین صاحب بوڑھے ہو گئے ہیں انہوں نے آپ کے عمل کے متعلق بتایا ہے۔ سن کر بہت ہی مسکرائے۔ بعد میں مولانا عزیز الرحمن مجھے کہنے لگے۔ کیا بات کر رہے تھے، آج تو اباجی بہت مسکرا رہے تھے۔ میں نے بات بتادی۔ تو پوچھنے لگے پھر اباجی نے کیا جواب دیا، میں نے کہا، انہوں نے فرمایا کہ ان حافظ صاحب سے کہنا وہ جو مؤکلات (جٹات) ہیں وہ مال لاتے ہیں تو کسی کا چوری کر کے ہی لاتے ہوں گے۔ میں تو اس کو حرام سمجھتا ہوں۔ نہ خود، کھاؤں نہ بچوں کو کھلاؤں۔ ان کو بھی کہتا ہوں اور آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ حافظ قرآن ہیں حرام کو حرام جانیں اور حلال کو حلال۔ کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ کسی دنیا دار سے صحبت نہیں رکھنی۔ کوئی اللہ والا آئے تو اس کی خدمت میں جاؤ یہ جو جلسوں میں مولوی تقریر کرنے آتے ہیں ان کی تقریروں سے پرہیز کرو۔ وہاں کوئی بزرگ آئے درس قرآن دے باعمل ہو اس کی بات سننی ہے۔ یہ جو مار دھاڑ پھٹے چُک مولوی ہیں نہ تو ان کی نجی مجلس میں بیٹھنا یہ باعمل بہت کم ہوتے ہیں۔ ان کی باتوں سے آدمی دین سے اکثر دور ہو جاتا ہے رات گئے تک وقت بھی جاتا ہے نیند بھی خراب ہوتی ہے اور فجر کی نماز کے قضاء ہونے کا ڈر رہتا ہے۔

فرمایا میں نے جو آپ کو عمل بتلایا ہے ذکر کا وہ پابندی سے کرو اور قرآن

کی تلاوت کرو، اسی میں ہے سب کچھ، اللہ تعالیٰ ضروریات پوری فرمائیں گے۔ لوگ خود پوچھیں گے کہ حافظ صاحب کسی چیز کی ضرورت ہے؟ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ صحیح ولی کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کے پاس جائیں تو دل کا دھیان اللہ کی طرف ہو جائے اللہ اللہ کرے اور دنیا کے فاسد خیالات نکل جائیں میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ میں یہ بات دیکھی، رات کو بعد عشاء ان کا درود ابراہیمی کا معمول تھا۔

میں جب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا تو میرا معمول تھا کہ اشراق تک کمالیہ سے فیصل آباد پہنچ جاتا ناشتہ ساتھ کرواتے دوپہر کا کھانا بھی ساتھ کھلاتے تھے۔ عصر کے بعد چند گھڑی بیٹھ کر میں رخصت لے کر واپس آجاتا کیوں کہ پیچھے بچوں کی تعلیم کا حرج نہ ہو۔ آخری دنوں میں جب میں حاضر ہوا تو عصر کے بعد میں نے اجازت چاہی تو فرمایا ٹھہر جاؤ رات رہو۔ اور رات عشاء کے بعد اپنے خادم سے انتظام کروایا۔ رات اپنی چارپائی کے ساتھ بستر لگوا یا اور بچوں کو پیغام پہنچایا کہ یہ میرے خاص مہمان ہیں انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو کسی چیز کی ضرورت ہو تو فوراً پہنچاؤ۔ پھر مجھے فرمانے لگے حافظ جی کتنے بچے جگاؤں دو بچے یا تین بچے۔ میں نے عرض کیا میں تو اذان سے ایک گھنٹہ پہلے جاگتا ہوں۔ دو بچے حضرت نے فرمایا حافظ جی دو بج گئے ہیں اگر اٹھنا ہے تو آپ کی مرضی ورنہ سو جاؤ۔ تین بچے پھر وہی فرمایا۔ میں نے کہا اچھا جی۔ جب چار بچے تو فرمایا اب اٹھ جائیں۔ خادم نے کہا اب آجائیں۔ وضو کر کے تہجد ادا کی۔ میں نے خادم سے پوچھا کہ حضرت اتنے عمر رسیدہ اور ضعیف ہو گئے ہیں یہ رات کو سوتے نہیں؟ کہنے لگا مجھے یہاں آئے عرصہ ہو گیا میں نے رات کو کبھی سوتے نہیں دیکھا۔ اشراق کے بعد دو یا اڑھائی گھنٹے اور دوپہر کو پون یا آدھ گھنٹہ قیلولہ کرتے ہیں مجھے بھی ایسے ہی اٹھاتے

ہیں اذان سے آدھ پون گھنٹہ پہلے فرماتے ہیں اب بستر چھوڑ دو۔

کسی مدرسے کا سفیر لالیاں ضلع جھنگ سے حاضر ہوا چندہ کے لیے۔ اس نے عرض کیا کہ مدرسہ پر پانچ ہزار روپے قرض ہے۔ میں چندہ کی اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کر لینا۔ اپیل کے بعد اسے تھوڑی ہی رقم بنی۔ بلا کر فرمایا کتنے پیسے ہوئے۔ کہنے لگا کہ کرایہ بھی نہیں بنا۔ فرمایا اگر میں تمہیں ایک بات کہوں تو ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اس نے کہا جی فرمائیں! اور دعا بھی فرمائیں۔ فرمایا مسجد میں بیٹھے ہو سچ بتانا کہ یہ جو مدرسہ بنایا ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بنایا ہے یا ”اللہ واسطے“ بنایا ہے؟ کیا دکانداری بنائی ہے؟ اگر دل میں ایسی بات ہے تو توبہ کرو۔ تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں ایک ہی تھوک کا گاہک آجائے گا۔ کہیں نہ جانا۔ گھر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ گناہوں سے معافی مانگنا اور جو کچھ پہلے قبضہ کیا اس سے توبہ کرو۔ اوپر سے آتا ہے اور اندر سے بنتا ہے۔ دل کو صاف کر لو۔ اور ارادہ کر لو کہ میرا کوئی بچہ اس قابل ہوگا تو اسے اپنی جگہ لاؤں گا ورنہ نہیں۔ اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں اور دل صاف کرتا ہوں۔ فرمایا بات سنو! جب بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق سے مانگنا شروع کرتا ہے تو پھر مانگتا ہی رہتا ہے۔ اس کی حاجات پوری نہیں ہوتیں۔ ایک پوری ہوتی ہے تو دو چار اور ہو جاتی ہیں۔ میں تمہیں ہمیشہ واسطے اس ذلت سے بچانا چاہتا ہوں۔ نبیوں، ولیوں، غوث، قطب کس نے اللہ سے نہیں مانگا۔ اللہ کا بندہ اللہ سے مانگتا ہے مخلوق سے مانگتا ہی نہیں ہے۔ بندہ تمہیں ایک بار دے دے گا۔ دو چار دفعہ دے گا پھر بھگا دے گا۔ پھر اسے عمل بتایا کہ مصلیٰ پر بیٹھ کر کسی سے بات کیے بغیر اتنی دفعہ پڑھنا ہے، توبہ تم نے کر لی ہے کہ یا اللہ! جو میں مخلوق سے مانگتا رہا میں توبہ کرتا ہوں اب مخلوق سے سوال نہیں کروں گا۔ وہاں جو محلہ دار نمازی ہیں جو کھاتے پیتے ہیں ان کے آگے بھی کوئی سوال نہیں کرنا۔

بعد میں اس نے خود مولانا عزیز الرحمن اور مولانا سعید الرحمن کو بتایا کہ حضرت کا بتایا ہوا عمل اسی طریقے کے مطابق شروع کیا اور جتنے دنوں کا وظیفہ بتایا تھا ابھی نصف وقت ہی گزرا تھا کہ ایک دن میں مصلیٰ پر بیٹھا تھا کہ کسی نے پیچھے سے میرا کندھا ہلایا، اور ایک کپڑے کی تھیلی گود میں پھینک کر فوراً چلا گیا۔ کھولا تو اتنی ہی رقم تھی جتنی درکار تھی۔ میں نے جب دیکھا کہ رسید نہیں لے کر گیا تو پیچھے گیا وہ اتنی دیر میں کافی دور جا چکا تھا۔ میں پیچھے سے چلایا کہ او بھائی مسافر سلام تو لے لو رسید بھی لیتے جاؤ۔ تو اس نے بے پروائی سے ہاتھ کا اشارہ کیا اور چلتا بنا۔ (نیز اس نے پانچ کیلہ زمین ہمارے مدرسہ کو دی ہے آج میں اس کا انتقال کرانے جھنگ جا رہا ہوں) اور مولوی صاحب نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں اپنے اللہ سے ہی مانگوں گا۔ فرمایا کہ میں نے ان سے کہا اگر انسان اللہ پر بھروسہ کرے اللہ مسبب الاسباب ہیں: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ (سورۃ الطلاق: ۳)

واقعات بیان کردہ حضرت مولانا ایوب الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ:

(11)..... حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں پاکستان کے سفر کے دوران بالخصوص حضرت کی توجہ کا مرکز مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے۔ کبھی دریافت فرماتے کہ مولانا محمد صاحب بیٹھے ہیں۔ خادم عرض کرتے، جی بیٹھے ہیں۔ فرماتے، انہیں اوپر بٹھا دو۔ کبھی کسی مسئلہ کے جواب کیلئے فرماتے۔ مولانا محمد صاحب جواب دیں۔ اس مجلس میں حضرت کے بڑے بڑے خلفاء موجود ہوتے تھے۔ مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ صبح فیصل آباد سے چلتے اور آٹھ یا ساڑھے آٹھ بجے لاہور پہنچ جاتے اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ میں نے زندگی میں ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جس کے لیے مجلس کے اندر اس جگہ حکم فرما کر ناشتہ منگوا یا ہو۔ حاجی متین احمد خود ناشتہ لے کر آتے اتنا مجمع موجود ہوتا پھر بھی حضرت خود اپنے پاس ناشتہ کرواتے اور یہ

ایک دفعہ کی بات نہیں ہم بھی والد صاحب کے ساتھ ہوتے تھے۔

حضرت جب اپنے کمرے میں چلے جاتے اور پھر ملنا یا کچھ فرمانا ہوتا تو اندر بلا لیتے اور اپنی چارپائی پر بٹھاتے۔ اخیر عمر کی ملاقاتوں میں میں بھی ساتھ ہوتا تھا۔ حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب کو اچھی طرح اس کا علم تھا۔ وہ حضرت کو کھانا کھلانے آئے، حضرت رائے پوری نے والد صاحب کو حکم فرمایا کہ اوپر چارپائی پر بیٹھ جائیں۔ کچھ لوگ بیعت کے لیے حاضر ہوئے دس بارہ آدمی تھے۔ حضرت ﷺ نے مولانا محمد صاحب کو فرمایا کہ حضرت آپ ان کو بیعت کریں۔

(12)..... مولانا محمد ضیاء القاسمی ﷺ نے انوری مسجد میں حضرت والد صاحب کے تعزیتی جلسہ میں یہ بات بتائی کہ مولانا محمد انوری ﷺ نے مدت العمر مودودی نظریات رکھنے والے سے مصافحہ نہیں کیا۔ مودودی کے سلسلہ میں جب کوئی بات ہوتی تو بہت جلال آجاتا تھا فرماتے تھے کہ مودودی نے آپ ﷺ کے ارشادات کی بہت بے ادبی کی ہے۔ اور دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ جس مسجد کا امام مودودی عقائد و نظریات سے تعلق رکھتا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، چنانچہ والد صاحب نے اپنے حالات میں خود تحریر فرمایا کہ:

”مودودی کے متعلق لوگ بار بار حضرت اقدس رائے پوری ﷺ کی خدمت میں شکایت کرتے تھے کہ محمد لائل پوری بڑی مخالفت کرتا ہے۔ مودودیوں کا الیکشن میں سے ایک امیدوار بھی کامیاب نہیں ہوا حضرت نے فرمایا میں ان کو کیا کہوں وہ عالم ہیں بصیرت رکھتے ہیں ویسے ہی تو مخالفت نہیں کرتے ہوں گے۔ میں الیکشن کے بعد جھساوریاں حاضر ہوا۔ میں گیا تو ڈھڈیاں ہی تھا مگر اس وقت حضرت اقدس تیار تھے فوراً

جھاوریوں روانہ ہو گئے اور گاڑی میں مجھے اپنے پاس بٹھالیا دوسرے دن جھاوریوں سے چلے تو بھی مجھے اپنے پاس بٹھا کر پوچھا کہ اس مودودی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ عرض کیا کہ یہ مودودی بڑا بے ادب واقع ہوا ہے اور بہت سے متواتر دین کا انکار کرتا ہے حضور اکرم ﷺ کی تجہیل کرتا ہے تنقید کرتا ہے پھر اس پر کوئی کیونکر تنقید نہ کرے۔“

ایک مرتبہ حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں والد صاحب حاضر تھے۔ اس مجلس میں مولانا محمد چراغ صاحب (گوجرانوالہ) بھی موجود تھے (جن کا جماعت اسلامی سے تعلق ہو گیا تھا)۔ انہوں نے حضرت رائے پوری سے عرض کیا کہ ”مولانا انوری نے ایک پمفلٹ شائع کیا ہے جس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا اور لیکشن میں ہمارا ایک بھی امیدوار کامیاب نہ ہو سکا“ اس کے جواب میں مولانا چراغ صاحب سے مخاطب ہو کر حضرت والد صاحب نے فرمایا ”اچھا! مجھے تو معلوم نہ تھا کہ میرا پمفلٹ آپ کے لئے بم کا گولہ ثابت ہوا ہے“ اور فرمایا کہ ”حضرت محمد انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہنے کے باوجود کیا کمی رہ گئی تھی جو آپ مودودی کے پاس لینے گئے“۔ (اس پمفلٹ کا عنوان یہ تھا ”مودودی صاحب اور انکی جماعت علمائے کرام کے ارشادات کی نظر میں“)

(13)..... حضرت والد صاحب حضرت عالی مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی جاتے رہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی پہچانتے تھے کہ ہمارے پیر بھائی مولانا فتح الدین رشیدی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ہے۔ مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کے ساتھ اسفار بھی کیے۔ کچھ اسفار ننگے پاؤں بھی کیے۔ دریا بھی پار کیے۔ حضرت عالی نے ایک بار فرمایا کہ ان کو چلنے میں تکلیف ہوتی ہوگی تو حضرت سے کسی نے

عرض کیا کہ حضرت یہ پنجابی لوگ ہیں مضبوط ہوتے ہیں یہ واقعہ والد صاحب کی کسی تحریر میں موجود تھا۔

(14)..... جب ہماری ہمشیرہ کی رخصتی حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ڈھڈیاں تشریف لے جانے کے ساتھ ہی ہو گئی تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرمایا اور تعریفی کلمات ارشاد فرمائے۔ ڈھڈیاں میں ہماری ہمشیرہ نے ایک بار چاول پکا کر حضرت کی خدمت میں بھیجے تو حضرت نے مولانا عبدالجلیل سے فرمایا کہ اب تو آپ لوگ بہت اچھے چاول پکانے لگے ہیں۔ میری والدہ نے ایک بار مٹی کی ہانڈی میں چاول پکانے کے لیے چولہے پر رکھی، آگ زیادہ جلا دی چنانچہ ہانڈی بھی ٹوٹ گئی اور چاول بھی چولہے میں گر گئے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری ہمشیرہ کے ہاتھ کے پکے ہوئے چاول بہت خوش ہو کر کھائے۔

(15)..... ایک بار والد محترم ڈی ٹائپ کالونی فیصل آباد میں نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ سنتیں ادا کیں اتنی دیر میں امام مسجد بھی آگئے دیکھا تو اس نے خضاب لگایا ہوا تھا والد صاحب اٹھے اور واپس آگئے۔

(16)..... مدرسہ تعلیم الاسلام میں ایک دفعہ بعد عصر کی بات ہے کہ والد صاحب استنجا کے لیے گئے ہوئے تھے۔ کچھ مہمان بھی آئے ہوئے تھے۔ وہاں ایک آدمی آیا لمبا قد آنکھ سے کاٹا آتے ہی کہنے لگا، مولانا کو ملنا ہے۔ دو تین بار اس نے کہا۔ اتنے میں والد صاحب آگئے میں وضو کروانے لگ گیا۔ والد صاحب کے چہرہ پر غصہ کے آثار نمودار ہوئے میں گھبرا گیا کہ شاید مجھ سے وضو کرواتے ہوئے کوئی خطا ہو گئی ہے میں مزید دھیان سے وضو کروانے لگ گیا۔ وضو مکمل کر کے اعضاء خشک کیے تو فرمایا جلدی سے مدرسہ کے دروازے بند کرو۔ اور نماز کے لیے چلو۔ حالانکہ ابھی نماز میں وقت تھا۔ وہ آدمی جو آیا تھا وہ باہر والے رستہ میں ایک طرف

بیٹھا تھا۔ جب لاٹھی لے کر مسجد کی طرف نکلنے لگے تو فوراً آگے بڑھ کر اس نے مصافحہ کی کوشش کی۔ والد صاحب نے غصہ سے زوردار جھٹکا دیکر فرمایا پرے ہٹ، میں مرزائیوں سے مصافحہ نہیں کرتا، وہ فوراً بھاگ گیا۔
 دراصل وہ قادیانی تھا۔ یہ حضرت کی ایمانی فراست تھی جیسا کہ حدیث شریف ہے:

إتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ.
 ”مؤمن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے۔“

حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ اس نے لیٹر بکس میں کچھ ڈالا ہے۔ بہر حال ہم انوری مسجد کی طرف چل پڑے اور وہ ہمیں دیکھ کر آگے آگے بھاگ گیا۔ نمازِ مغرب کے بعد والد صاحب نوافل پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ ہم بھائیوں میں سے کسی کو مسجد اکیلے جانے اور واپس آنے کی اجازت نہیں تھی۔ والد صاحب کے ساتھ ہی جانا اور ساتھ ہی آنا ہوتا۔ جب تک والد صاحب نوافل پڑھتے ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے۔ میں مغرب کا سلام پھیر کر والد صاحب سے چوری گھر کی طرف بھاگا کہ لیٹر بکس میں دیکھوں۔ میں نے لیٹر بکس کھولا تو مرزائیوں کا رسالہ ”الفضل“ تھا اس میں۔ میں نے رسالہ پھاڑ دیا اور والد صاحب کو بھی نہیں بتایا۔

(17)..... ملک واحد بخش صاحب جو انوری مسجد کے جنرل سیکرٹری تھے۔ سالہا سال حضرت والد صاحب کی خدمت میں رہے۔ حضرت والد صاحب کی تربیت کا یہ اثر تھا اتنی دنیا کی بے رغبتی تھی کہ قیام پاکستان کے بعد لائل پور میں اراضی و مکانات کی الاٹمنٹ کے ذمہ دار تھے سارے شہر میں لوگوں کو مکانات الاٹ

کر کے دیئے مگر اپنے لیے کوئی ذاتی الاٹمنٹ نہیں کروائی۔

(18)..... آج سے ٹھیک پچاس سال پہلے دارالعلوم کو مالی بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر کا خط لے کر عبدالرحمن نامی دارالعلوم کا سفیر ہمارے گھر پہنچا کہ اس خاندان کو تلاش کرو جو دارالعلوم دیوبند کا محسن رہا ہے۔ سوال یہ کہ انہوں نے کیوں مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کیا کسی اور کا کیوں نہیں کیا؟ اور بھی بڑے بڑے حضرات پاکستان میں تھے۔ حضرت والد صاحب کے پاس جب وہ سفیر پہنچے تو انہوں نے والد صاحب کا اپنے اکابرین کے ساتھ والہانہ تعلق محسوس کیا۔ والد صاحب ان کے ساتھ انوری مسجد نماز پڑھنے جا رہے تھے میں بھی ساتھ تھا۔ اور وہ دیوبند سے آیا ہوا سفیر ہمارے والد صاحب سے وہاں کے بزرگوں کے متعلق معلومات لے رہا تھا۔ جب کسی بزرگ کا نام لیتا تو ساتھ رحمہ اللہ کہتا۔ (میں نے پہلے یہ الفاظ سنے ہوئے نہیں تھے ہم اکثر رحمۃ اللہ علیہ ہی کہتے اور سنتے تھے۔)

حضرت والد صاحب نے نمازِ ظہر کے بعد باقاعدہ بیان فرمایا اور لوگوں کو متوجہ کیا سردی کا موسم تھا۔ لوگوں نے تعاون بھی کیا۔ پھر والد صاحب نے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر دس ہزار روپیہ ہدیہ کیا یہ 1953ء کی بات ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا شکر یہ کہ طور پر جو خط آیا وہ میرے پاس موجود تھا۔ اور قاری طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے نہایت ہی شکر یہ کہ خطوط آئے۔ قاری طیب صاحب حضرت والد صاحب کے مدرسہ دیوبند کے ساتھی ہیں اور مفتی محمد شفیع صاحب بھی۔ والد صاحب کی بیماری کی وجہ سے دو سال کے لئے تعلیم منقطع ہو گئی تھی۔ اس لیے یہ حضرات اتنا عرصہ آگے چلے گئے۔ والد صاحب نے ۱۳۳۹ھ میں دورہ حدیث کیا۔ مولانا بدر عالم میرٹھی دارالعلوم دیوبند میں والد صاحب کے ساتھی ہیں۔ میں نے والد صاحب کی

سند حدیث دیکھی ہے بہت اچھی اور بہت اہتمام سے لکھی ہوئی تھی۔ حضرت والد صاحب نے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پڑھا تھا۔ اور انہوں نے بھی حضرت والد صاحب کو سند حدیث عنایت کی تھی جو حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاذ ہیں۔

(19)..... ایک کتاب ہے ”آثار السنن“ جو غیر مقلدوں کے رد میں ہے، مولانا ظہیر احسن شوق نیوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ جو وفاق المدارس نے شامل نصاب کی ہے۔ ان کے بیٹوں کے خط حضرت والد صاحب کے نام آئے ہوئے میں نے خود دیکھے ہیں۔ اس کتاب میں کسی جگہ پر تصحیح کی ضرورت تھی۔ اس کے متعلق والد صاحب نے ان کے بیٹوں کو خط لکھا۔ مولانا احسن شوق نے حضرت شیخ الہند کو اپنے کچھ جز لکھ کر بھیجے کہ آپ اس میں کمی کو تاہی درست فرمائیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ آپ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ کریں اور ان کو بھیجیں وہ بڑے احسن طریقہ سے اس کی تصحیح کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو کشمیر بھیجے۔ کیونکہ حضرت دارالعلوم سے فراغت کے بعد مدرسہ امینیہ دہلی میں قیام کر چکے تھے وہاں سے حضرت کشمیر تشریف لے گئے تھے۔ وہاں ان دنوں مدرسہ فیض عام قائم فرمایا تھا۔ حضرت نے ان کی تصحیح فرمائی، اس میں حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا احسن شوق نیوی کی مدح میں ایک قصیدہ بھی لکھا۔ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لئے اس کتاب کا حاشیہ لکھا۔ (مولانا محمد بن موسیٰ والد صاحب کے ساتھی تھے۔ جن کا جوہانس برگ جنوبی افریقہ سے تعلق تھا۔ انہوں نے دیکھا ہوا تھا کہ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ والد صاحب کے ساتھ کیسا شفقت و محبت کا معاملہ فرماتے تھے۔ انہوں نے وہ حاشیہ جو محفوظ کیا ہوا تھا آج سے پینتالیس سال پہلے جب یہاں فوٹو سٹیٹ کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے برطانیہ سے اس کتاب

”آثار السنن“ کے نوٹو (ماکرو فلم) بنا کر ان دونوں کتابوں کی الگ الگ جلدیں کروائیں اور سب سے پہلے حضرت والد صاحب کو بھجوائیں اور ساتھ لکھا کہ بعض مقامات کے نوٹو نہیں بن سکے کیونکہ حضرت شیخ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پھکی روشنائی سے لکھا ہے کیمرہ ان کی نوٹو نہیں لے سکا۔ میں نے وہ دونوں کتابیں خود دیکھی تھیں۔ والد صاحب کے پاس حاشیہ لکھا ہوا موجود تھا۔ آج کے بڑے عالم کے لیے بھی اسے حل کرنا مشکل ہے۔ (کچھ کتابیں ہندوستان بھی انہوں نے بھیجیں) مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا قاری طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بھیجی۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا نام ”الانتخاف بمذہب الاحناف“ (حنفیوں کے مذہب کے لیے بہت سارے تحائف) رکھا تھا اس پر دارالعلوم دیوبند رسالہ میں تفصیلی تبصرہ آیا، مولانا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقش رسالہ میں شائع کیا تھا۔ حضرت قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی پاکستان آئے تو والد صاحب سے لازمی ملاقات کر کے گئے۔

(20)..... دارالعلوم دیوبند والوں نے جب مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات دیکھیں تو انہوں نے آپ کو دارالعلوم دیوبند کا پاکستان میں ناظم مقرر کر دیا۔ میں مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو ٹنڈوالہ یار ملنے گیا۔ وہاں جب لوگوں کو میرا معلوم ہوا کہ یہ مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے وہ تو ہمارے دارالعلوم دیوبند کے ناظم چندہ تھے، مجھ سے بہت محبت کی بڑا اکرام کیا۔ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے میں کئی بار ملا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کی رسید بک سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے گھر موجود تھیں۔ جب کوئی چندہ دیتا دارالعلوم دیوبند کی رسید کاٹی جاتی جس پر مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کے دستخط ہوتے۔ پھر ایک بار حضرت قاری محمد طیب صاحب تشریف لائے ہوئے تھے۔ دیوبند مدرسہ کا بھی کافی

چندہ ہوا۔ تو قاری صاحب نے فیصلہ کیا کہ اتنی رقم کیا ساتھ لیے پھرتے رہیں گے انہوں نے یہ رقم مولوی محمد شریف کے حوالہ کی جن پر مودودیت کا اثر تھا۔ ستاری طبیب صاحب نے انہیں فرمایا کہ یہ رقم کراچی میں مولانا قاری شریف احمد رحمۃ اللہ علیہ کو بھیج دو۔ لیکن مولوی شریف صاحب نے وہ رقم نہیں بھیجی، دس ہزار روپیہ تھا۔ والد صاحب کو ان کی اس حرکت کا علم ہوا کہ انہوں نے رقم کراچی نہیں بھیجی جبکہ قاری طبیب صاحب تو واپس چلے گئے تھے۔ وہاں جا کر انہوں نے رقم کے بارے میں تصدیق کی۔ تو کراچی سے مولانا قاری شریف صاحب نے رقم نہ ملنے کا بتایا۔ والد صاحب نے مولوی شریف کو بے شمار رقعے لکھے لیکن ان کا گول مول جواب آتا۔ والد صاحب نے حاجی محمد اسماعیل لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بیچ میں ڈالا مگر بات نہ بنی۔ پھر حضرت والد صاحب نے مولوی شریف صاحب کو لکھا کہ ہم آپ سے تعاون کرتے ہیں آپ کے پاس اب جو رقم رہ گئی ہے وہ بتادیں باقی ہم ملا کر پوری کر کے کراچی بھیج دیں۔ لیکن پھر بھی بات نہ بنی تو والد صاحب نے معلوم نہیں کیسے رقم پوری کر کے بھجوائی۔ جب کراچی رقم پہنچ گئی اور دیوبند والوں کو بھی معلوم ہو گیا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ دارالعلوم دیوبند کا جتنا بھی چندہ آئے گا چاہے مغربی پاکستان سے چاہے مشرقی پاکستان سے وہ مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعہ آئے گا۔ حضرت والد صاحب بینکوں میں رقم رکھنے کے خلاف تھے۔ لاکھوں کی رستم الماری میں رکھی ہوتی تھی۔ یہ سلسلہ سالہا سال چلتا رہا، دارالعلوم دیوبند کا جو ماہنامہ ”دارالعلوم“ نکلتا تھا۔ جنوری 1954ء میں حضرت مولانا ازہر شاہ قیصر رحمۃ اللہ علیہ (ابن حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ) نے رسالہ میں اعلان کیا کہ پاکستان میں رسالہ کا چندہ اب مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعہ ہوگا۔ جتنا بھی یہ رسالہ پاکستان میں جاری ہوا مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت ہوا۔ ٹائٹل کی اندرونی طرف یہ تحریر ہوتی کہ

پاکستانی حضرات رسالہ کا چندہ مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کو ارسال کریں اور ساتھ پورا پتہ لکھا ہوتا۔ مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادے مولانا عزیز الرحمن انوری نے ہزار ہا خریدار مہیا کیے۔

مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذمہ داری اپنے صاحبزادے مولانا عزیز الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دی۔ انہوں نے بہت سال یہ ذمہ داری نبھائی اور اس کے بعد یہ خدمت میں (ایوب الرحمن) سرانجام دیتا رہا۔ آخر 1968ء میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم والوں سے گزارش کی کہ اب میں کمزور ہو گیا ہوں آپ خود یہ ذمہ داری سنبھالیں۔ ان کے اصرار کے باوجود حضرت والد صاحب نے رخصت لے لی۔ اور دارالعلوم والوں نے اپنا ناظم مقرر کر دیا۔ حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مدرسہ تھارائے پور میں جو حضرت عالی شاہ عبدالرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے فوراً بعد جاری ہوا تھا۔ اس کے سرپرست حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے اس کا سارا چندہ فیصل آباد جمع ہوتا اور یہیں سے مدرسہ رائے پور جاتا تھا۔ حضرت مولانا سید احمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ علیہ (جو حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور داماد تھے) نے جب ”انوار الباری“ شرح بخاری لکھنی شروع کی تو اس کو طبع کروا کے کراچی مجلس علمی ناظم مولانا محمد طاسین (داماد حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ) کو بھیجتے رہے۔ لیکن خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلنے کی صورت میں حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ کیا۔ مولانا احمد رضا بجنوری سے اس سلسلہ میں خط و کتابت شروع ہوئی چنانچہ مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے نے یہ کتاب خوب پھیلانی۔ حضرت بجنوری ایک بار ہمارے گھر تشریف لائے تو انوار الباری کے جملہ حقوق طبع مولانا عزیز الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر گئے بعد میں ادارہ تالیفات اشرفیہ والوں نے مولانا سے حقوق حاصل کیے جو اجازت نامہ اندر

چھپا ہوا ہے۔

اسی طرح حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ مظاہر العلوم سہانپور کا پاکستانی حضرات کا چندہ بھی ہمارے ہاں ہی جمع ہوتا تھا۔ جب مولانا نظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ ”نقش“ جاری کیا۔ تو شروع میں پاکستانی حضرات کے لیے حضرت قاری شریف احمد صاحب کراچی کو ناظم مقرر کیا لیکن خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوا تو مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ کیا چنانچہ تین برس تک رسالہ جاری رہا۔

(21)..... 1962ء میں جب عمرہ کے لیے ہم نے جانا تھا تو سارا مکان لوگوں سے بھر گیا تھا۔

مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ ہی عرصہ پہلے فالج ہوا تھا دو آدمی انہیں اٹھاتے اور بٹھاتے تھے۔ اس حالت میں گھر سے ریلوے اسٹیشن تک آئے۔ اس طرح کچھ احباب ریل میں ساتھ کچھ اگلے اسٹیشنوں تک گئے۔ ہماری مسجد کے مؤذن صوفی محمد زکریا جنہوں نے ستر سال اذان دی، انہوں نے روہڑی تک جانا تھا مگر ساتھ ہی کراچی چلے گئے جب لائڈھی اسٹیشن پر گاڑی رکی تو وہاں مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ علماء کے وفد کے ہمراہ موجود تھے۔ انہوں نے ملاقات کی۔ وزارت حج کے بڑے عہدے دار زکریا کادار بھی ساتھ تھے اور مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی کراچی اسٹیشن تک ریل میں سفر کیا۔ بابو عبدالحمید صاحب کے گھر آٹھ دن قیام رہا۔ انہوں نے بہت ہی اچھا انتظام کیا۔ روزانہ بعد عصر مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ اور سید جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ آتے رہے۔ مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ رہے ہیں، مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ اس نسبت سے استفادہ فرماتے۔

حریمین پہنچ کر مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ جنہیں دو آدمیوں کے سہارے سے

اٹھایا بٹھایا جاتا تھا، اللہ نے انہیں ایسی ہمت و قوت دی کہ مولانا سعید احمد خان صاحب اس وقت بہت پریشان ہوئے جب انہیں بتایا گیا کہ آج ہم کوہ صفا پر مسجد بلال دیکھنے گئے تھے۔ میں اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر چڑھ رہا تھا جبکہ والد صاحب بغیر سہارے کے ہی آگے آگے چڑھ رہے تھے۔ عصر کے بعد کا وقت تھا ہم نے وہاں دُعا مانگی۔ وہاں جو عربی اہلکار مقرر ہوتے ہیں وہ حدیث سنانے لگے ”لا صلاة بعد العصر الا المكتوبة“ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں مگر فرض نماز۔ وہ یہ سمجھا کہ شاید ہم نفل پڑھنے لگے ہیں۔ تو والد صاحب نے فرمایا حدیث تو درست اور مکمل پڑھو ”الا المكتوبة“ نہیں ”حتی تغرب الشمس“ ہے۔ یعنی عصر کے بعد سورج غروب تک اور فرمایا اچھا یہ بتاؤ ”لا دعا بعد العصر.“ بھی آیا ہے کہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے اور سمجھ گئے کہ کوئی صاحب علم شخصیت ہیں پھر انہوں نے ہمیں قہوہ پلانے کی کوشش کی۔ ہم دُعا کر کے مغرب کی اذان سے دس منٹ پہلے نیچے آ گئے تھے۔

مولانا محمد سلیم صاحب مہتمم مدرسہ صولتیہ اور مولانا محمد یامین صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو بہت ہی مخلص تھے مولانا یامین صاحب حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں تھے۔ وہ اہتمام سے دو تین بار مدرسہ لے گئے۔ اور سارا مدرسہ دکھایا اور بتایا کہ مدرسہ صولتیہ کی مسجد میں جو پتھر لگا ہے وہ اس عمارت کا ہے جو بیت اللہ شریف کے سامنے تھی (صحیح میں) جب گورنمنٹ نے وہ عمارت گرائی تو وسیع کے لیے تو وہ سارا پتھر ہم نے خرید لیا اس مسجد میں وہ جگہ بھی دکھائی جہاں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قیام کرتے تھے اور قرأت پڑھتے تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا حجرہ اور درس کی جگہ بھی دکھائی، حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے عیسائیت کے خلاف خوب کام کیا ان کی قیام کی جگہ کی

زیارت کروائی۔ مولانا یامین نے مجھے خود بتایا کہ جب حضرت شیخ الحدیث آتے ہیں تو اسی حاجی صاحب والے حجرہ میں ٹھہر جاتے ہیں پھر وہاں سے نہیں نکلتے حالانکہ اس کی چھت بارش میں ٹپکتی ہے۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی جب آپ لوگوں کے آنے کا پتہ چلا۔ کیونکہ یہاں حرم میں ایک خلوہ ہے جس میں حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا قیام ہوا تھا 1950ء میں۔ حکومت کیونکہ پرانی عمارتیں گراتی جا رہی ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ کسی کا قیام ہو جائے۔ پچھلے سال مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے تو ہم نے ان کا قیام وہاں کروایا تھا۔ وہاں سے بیت اللہ شریف چوبیس گھنٹے نظر آتا ہے اور بیت اللہ میں نماز کے وقت صفیں اس کے بالکل ساتھ بن جاتی ہیں۔ اور خلوہ کے اندر ہی جماعت مل جاتی ہے (اب وہ خلوے نہیں رہے۔ اب تہہ خانہ میں ہیں) چنانچہ انتظامیہ سے اجازت لے کر وہ خلوہ کھولا گیا۔ دو آدمی اس کی صفائی کر رہے تھے میں نے خود دیکھا ایک حاجی عبدالعزیز صاحب گھڑیوں والے جو ہمارے بھائی مولانا سعید الرحمن کے سمدھی ہیں۔ دوسرے آدمی جو تھے، ملک عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ (والد محترم حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ) ان کا ہمارے خاندان سے گہرا تعلق تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ دونوں حضرات کی داڑھیاں اور کپڑے دھول سے اٹے پڑے تھے۔ سال ڈیڑھ سال سے خلوہ بند پڑا تھا۔ پھر اسی خلوہ کے اوپر ایک مکان بھی بھتا میں اور والدہ اوپر اور والد صاحب خلوہ میں ٹھہرے۔

اوپر مکان سے بھی شیشہ کی کھڑکی سے بیت اللہ نظر آتا تھا۔ یہ 1962ء کی بات ہے۔ مدرسہ صولتیہ والے حضرات آتے جاتے رہتے تھے۔ حاجی ارشد صاحب مکہ مکرمہ میں مقیم تھے جو پورے سعودی عرب کے تبلیغی جماعت کے امیر تھے اور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے اور اکثر خود اور لوگوں کو لے

کر آجاتے تھے۔ درمیان میں ایک چھوٹا سا راستہ تھا اور ساتھ خلوہ میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مولانا حبیب اللہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ ان سے میری کافی ملاقات رہی والد صاحب کی ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔

(22)..... حضرت اقدس رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال پر مولانا عزیز الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ کا خط مکہ مکرمہ آیا ہم مدینہ منورہ سے واپس مکہ آگئے تھے۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کی خبر اس خط کے ذریعے ہوئی اس دن غارِ حِسر کی زیارت کا ارادہ تھا۔ اس ارادہ سے ہم باہر نکلے لیکن کچھ بات نہ بن پائی واپس رہائش گاہ آگئے۔ والد صاحب خلوہ کے اوپر رہائش میں استنجا کے لیے گئے اتنی دیر میں ڈاکیا ہماری ڈاک دے گیا وہ ایروگرام تھا مجھے معلوم ہو گیا مولانا عزیز الرحمن کا ہے میں نے ذرا کوشش کر کے پڑھا تو جو الفاظ پڑھ سکا وہ یہ تھے ”ہائے افسوس“ اور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کی خبر تھی۔ بس اتنے جملے میری آنکھوں سے گزرے میری حالت غیر ہو گئی اور میں نے اونچی اونچی رونا شروع کر دیا۔ میری یہ کیفیت اس لیے تھی کہ جیسے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا جی ہوں اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو ہم چچا سمجھتے تھے۔ اب والدہ پریشان ہوئیں اور بار بار مجھے پوچھتیں کہ کیا بات ہے، مجھ سے بتایا نہ جائے، بڑی مشکل سے میں نے بتایا تو والدہ نے بھی رونا شروع کر دیا، والد صاحب آئے تو ہمیں دیکھ کر پریشان ہوئے، بڑی مشکل سے سنبھل کر بتایا تو سنتے ہی والد صاحب اسی جگہ پر سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کافی دیر بعد طبیعت سنبھلی پھر خط پڑھا، مدرسہ صولتیہ والوں کو اطلاع ہوئی انہیں مولانا سعید الرحمن کا خط پہنچا تھا۔ سب والد صاحب کے پاس تعزیت کے لیے آئے۔ مولانا سعید الرحمن کے خط میں کچھ تفصیل اور اخباری کٹنگ بھی تھی۔ ایک بات اس خط کی جو مجھے یاد ہے کہ ”حضرت کا چہرہ کھلا رکھا گیا تھا اور حضرت

کے چہرہ کی روشنی سے ویگن کی چھت روشن ہو رہی تھی، نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ حضرت کا وصال ہو گیا۔“

حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد سالہا سال تک میری یہ کیفیت تھی کہ جیسے دنیا میں بندے کا سب کچھ لٹ گیا ہو اور جیسے سب گھر والے مر گئے ہوں۔ میں حزب الا عظم 1958ء سے پڑھتا ہوں وصال کے بعد جب حزب الا عظم پڑھتا تو ٹھنڈے سانس لیتا، روتا اور حضرت کو یاد کرتا۔

عمرہ سے واپسی براستہ ظہران ہوئی دوپہر کے وقت پہنچے۔ بہت گرمی تھی۔ میں دو تین دن سے سویا نہیں تھا۔ اور والد والدہ کی خدمت بھی میرے ذمہ تھی۔ والد صاحب نے واپس آ کر برملا فرمایا تھا کہ اس نے ہماری بہت خدمت کی..... ہوائی جہاز والوں نے اپنے ہوٹل میں ٹھہرایا۔ تو مجھے خوب نیند آئی اسی دوران ظہران سے قریب الجبُر سے تبلیغی احباب حضرت والد صاحب کو لینے کے لیے آگئے تھے۔ تبلیغی مرکز لے گئے۔ والد صاحب رات کو واپس تشریف لائے پھر ہم رات کراچی پہنچے اس سے پہلے جدہ میں حاجی ارشد صاحب کے ہاں ٹھہرے، انہیں کوئی حکومتی کام پڑ گیا۔ انہوں نے بڑا اہتمام کیا ہوا تھا صوفی اقبال صاحب و دیگر حضرات ہمارے ساتھ ساتھ تھے۔ حاجی صاحب رات کو دیر سے واپس آگئے تو دیکھا مہمان تو آگئے تو فرمانے لگے۔

طاقتِ مہمان نہ دارم

خانہ بے خانہ سپرد

(مہمان بہت معزز آرہے تھے میں مہمانوں کی سنبھالنے کی

طاقت نہیں رکھتا اس لیے گھر مہمانوں کے حوالے کر کے

چلا گیا)۔

ہم کراچی میں بابو عبدالحمید کے گھر پہنچے بابو عبدالعزیز بھی کراچی آچکے تھے۔

مولانا سعید الرحمن، مولانا مسعود الرحمن وغیرہ بھی کراچی آگئے جب فیصل آباد کے قریب پہنچے تو غالباً ٹوبہ ٹیک سنگھ تھا سینکڑوں لوگ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے جن میں حاجی اسماعیل لدھیانوی بھی تھے وہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر کے روتے رہے۔ ساری بوگی بھر گئی۔ اب سارے پیاسے تھے کہ حضرت کا تو وصال ہو گیا۔ جب فیصل آباد پہنچے تو کثیر تعداد میں لوگ استقبال کے لیے موجود تھے جن میں مفتی زین العابدین بھی تھے اسٹیشن سے سیدھے مسجد انوری آئے نوافل پڑھے وہاں مجلس لگ گئی۔ دو تین دن بعد ایک وفد کی شکل میں ڈھڈیاں چلے گئے وہاں تقریباً دوپہر 11 بجے پہنچے۔

حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں قبر ہے وہاں ساتھ نیچے بہت بڑے بڑے درخت تھے چھاؤں میں چار پائیاں بچھائی ہوئی تھیں میں جب مولانا عبدالجلیل سے ملا تو بہت رویا تکلف و تصنع تو تھا نہیں۔ سب حضرات میری کیفیت دیکھ کر پریشان ہوئے۔ مولانا عبدالجلیل صاحب نے میرا نام لے کر کئی اور لوگوں کو بھی یہ کہا کہ جتنا ایوب الرحمن رویا ہے حضرت کے وصال پر کوئی اتنا نہیں رویا۔ بڑی مشکل سے طبیعت سنبھلی۔ مولانا عبدالجلیل صاحب نے اپنے والد مولانا حافظ خلیل صاحب کو منع کیا کہ آج آپ قبر پر قرآن پاک کھول کر تلاوت نہ کیجیے گا۔ پھر دوران گفتگو والد صاحب مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ سے اسی مسئلہ کے متعلق پوچھا تو والد صاحب نے فرمایا جسے حفظ نہیں وہ دیکھ کر ہی پڑھے گا جس پر انہیں حوصلہ ہو گیا کہ ایسے قرآن مجید کھول کر تلاوت کر سکتے ہیں۔ حافظ محمد خلیل صاحب ہمارے والد صاحب کے سدھی تھے۔ کچھ دن قیام رہا لوگوں کا مجمع رہا۔ والد

صاحب حضرت کی قبر پر مراقب ہوتے تھے، جب پہلی دفعہ مراقب ہوئے تو فراغت کے بعد مولانا خلیل صاحب کو کچھ پیغام دیا اور کہا کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ پہلے یہ بات ایسے کرنی تھی اب ایسے کرنی ہے۔ تو مولانا خلیل صاحب کہنے لگے کہ اس بات کا علم مجھے تھا یا حضرت کو اچھا ہوا آپ نے یہ پیغام پہنچایا۔ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب سرگودھا سے ملاقات کے لیے ہمارے گھر تشریف لائے ان کی عادت تھی کہ وہ اکثر والد صاحب سے ملاقات کے لیے آتے تھے اور بھی کئی حضرات ساتھ ہوتے خالصہ کالج ان کا قیام ہوا۔ مولانا عبدالعزیز صاحب کی فیصل آباد میں سب سے پہلے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت کی۔ لوگوں کو گمان تھا کہ شاید مولانا محمد صاحب حضرت سرگودھوی رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کریں گے مگر ایسی کوئی بات نہ ہوئی بلکہ پُر تکلف دعوت کی گئی۔ والد صاحب کو دیکھ کر پھر باقی لوگوں نے دعوتیں کیں کچھ دعوتوں میں مولانا محمد صاحب کو اہتمام سے شامل کیا گیا۔ پھر والد صاحب نے معذوری صحت اور قلت وقت کی وجہ سے معذرت کر لی۔

(23) حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف ”الْحِجَالُ“ ص 39 میں تحریر فرماتے ہیں:

”جڑانوالہ سے ایک بی اے (نوجوان) کا والا نامہ آیا کہ آجکل میرا نکاح ہونے والا ہے۔ میرے والدین مجھے مجبور کرتے ہیں کہ داڑھی منڈا دے۔ مگر میں انکار کرتا ہوں۔ گذشتہ شب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ فرما رہے ہیں کہ تو ہرگز نہ داڑھی منڈانا میں تیری شفاعت کروں گا۔ اب میں آپ کا مشورہ لیتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے جواب دیا کہ جب آپ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں پھر میرے مشورے کی کیا ضرورت ہے۔ نکاح تو

آپ کا ہو ہی جائے گا، داڑھی نہ منڈانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بشارت کو غنیمت جانو۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ چنانچہ بعد میں پتا چلا کہ ان کا نکاح ہو گیا اور انہوں نے داڑھی بھی نہیں منڈوائی۔“

فرمایا! ایمان امن سے مشتق ہے اور اسلام سلامتی سے مشتق ہے۔ نبی سکون اور سلامتی کا حکم دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بحر قلزم پر آئے تو دریا بالکل ساکن ہو گیا اس کی طغیانی ختم ہو گئی لاٹھی کے تابع ہو گیا ایمان کی نورانیت کے سامنے سمندر امن دینے والا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام میں سکون تھا سکون والے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا پر پہنچے دریا بھی پر سکون ہو گیا۔

لیکن فرعون میں طغیانی تھی قرآن فرماتا ہے: ”إِنَّهُ طَغَى“ طغیانی والا فرعون۔ جب اسی دریا پر پہنچا تو دریا میں طغیانی آگئی۔

فرمایا کہ میں نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر 1939ء میں ایک رسالہ ”نفحات الطیب للنبی الحبيب صلی اللہ علیہ وسلم“ لکھا جو عربی زبان میں تھا بہت مقبول ہوا، مدارس اسلامیہ میں داخل درس ہوا اور اس کے 200 نسخے میں نے ایک عازم حج شاہ امداد اللہ صاحب کے ہاتھ مدینہ طیبہ مدرسہ علوم الشرعیہ کے مہتمم حضرت مولانا سید احمد مدنی رحمہ اللہ کے پاس بھیجے اور ایک دستی عریضہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھا اور شاہ حاجی امداد اللہ صاحب کو تاکید کر دی کہ میرا عریضہ روضہ اطہر پر پڑھ دینا اس میں التجاء کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے اسی سال حج نصیب فرمائیں۔ حاجیوں کے جہاز جارہے تھے اچانک میرے دل میں آگ لگ گئی کہ اڑ کر مدینہ پہنچ جاؤں لیکن کوئی وسائل نہیں تھے۔ ساری رات نیند نہ آئی صبح کو میرے والد حضرت مولانا فتح الدین رحمہ اللہ کا تار آیا کہ اگر آپ اس

سال حج پر جائیں تو میں سارا خرچ دینے کو تیار ہوں میں اسی وقت تیاری کرنے لگا اور چند دن میں لائل پور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مل کر کراچی پہنچ گیا اور آخری جہاز پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ پہنچا حج بالکل قریب تھا۔ فرمایا جب منی کے میدان میں شاہ امداد اللہ صاحب اچانک مل گئے انہوں نے کہا آپ کہاں میں نے سب سے پہلے ان سے یہ سوال کیا کہ تم نے میرا عریضہ دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کس تاریخ کو پڑھا تھا انہوں نے جو تاریخ بتلائی یہ وہی تاریخ تھی جس دن میرے دل میں مدینہ منورہ پہنچنے کے لیے آگ لگی تھی۔ فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمادی تھی اور میں اس مبارک دعا کی برکت سے تیار ہو گیا اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی پیدا فرمادیئے۔

جب 1965ء میں آپ بیمار ہوئے تو احقر سعید الرحمن کو بلایا اور فرمایا کہ میں نے ساری عمر منبر و مصلیٰ سے خیانت نہیں کی۔ احقر سعید الرحمن نے سوال کیا کہ حضرت منبر و مصلیٰ سے خیانت کیا ہوتی ہے فرمایا منبر و مصلیٰ پر بیٹھ کر حق بات نہ کہنا اور حق کو چھپانا یہ منبر و مصلیٰ سے خیانت ہوتی ہے۔

چنانچہ حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ خود تحریر فرماتے ہیں؛

”میں جب حج بیت اللہ کو گیا یہ جنوری 1939ء کا واقعہ ہے (حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مئی 1933ء میں ہو گیا تھا یعنی ۳ صفر ۱۳۵۲ھ) یہ واقعہ ذیقعدہ ۱۳۵۷ھ کا ہے اس وقت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں تھے، جس دن میں بعد نماز مغرب ان کی زیارت کے لئے گیا وہ مصلیٰ مالکی کے پاس بیٹھے تھے میرے ساتھ میاں جان محمد صاحب مطوف تھے، جب ملاقات ہوئی تو مولانا عبید اللہ

سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت فرمایا کہ تو نے کسی سے پڑھا اور تو کسی سے بیعت ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حدیث تو حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی اور بیعت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ سے کی، اس پر حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے۔“ (انوار انوری جدید ص 280)

(24) واقعات بیان کردہ حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ:

حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے ملا حسن، میبذی حضرت سے پڑھی ہیں، جب تقریر کرتے تو کہیں سے کہیں، نکل جاتے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ساری عمر فلسفہ اور منطق ہی کی تحقیق میں صرف کردی ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہاولپور کے سفر میں احقر سے فرماتے تھے، مولانا عبدالقادر جو حضرت (مولانا عبدالرحیم) رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، ترمذی شریف مجھ سے پڑھا کرتے تھے، حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واقعی حضرت شاہ صاحب آیتہ من آیات اللہ تھے، فرمایا، میں تو غیر مقلد ہو گیا تھا، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے حنفی مذہب پر استقامت نصیب ہوئی، فرمایا، ایک مشہور اہل حدیث عالم سے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ ہوا، غالباً گلاؤٹھی ہی کا واقعہ ہے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگان دین جمع تھے، حضرت نے ان سے دریافت فرمایا کہ آپ کے محدث ہونے کا دعویٰ ہے، صحیح بخاری کی وہ طویل حدیث جس میں ہر قل اور ابوسفیان کا مکالمہ مذکور ہے جتنے طرق سے امام نے نقل کی ہے سنادو، وہ بیچارے سنا نہ سکے، کہنے لگے کہ آپ ہی سنادو، تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری حدیث سنادی، بلکہ دُور تک پہنچ گئے حتیٰ کہ نصف پارہ تک پہنچ گئے، وہ صاحب

فرماتے ہیں کہ بس کافی ہے۔ (حیات انور ص 310)

(25) حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ واں پچھراں ضلع میانوالی خدام الدین لاہور کے جلسہ پر تشریف لائے، چونکہ حضرات علماء دیوبند کثر اللہ سوادھم بھی تشریف فرما تھے، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم (رحمۃ اللہ علیہ)، حضرت مولانا شبیر احمد صاحب (رحمۃ اللہ علیہ)، مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری صاحب (رحمۃ اللہ علیہ) وغیرہم سب ایک مکان میں قیام پذیر تھے، حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کے لیے تشریف لائے، دو گھنٹے تک ملاقات کا سلسلہ جاری رہا، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کر کے بہت متاثر ہوئے، اپنے شاگردوں کو حدیث کا درس دے کر کتب حدیث ختم کرانے کے بعد فرمایا کرتے، اگر فن حدیث میں بصیرت حاصل کرنے کی آرزو ہے تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ دیوبند، پھر ڈابھیل طلبہ کو اہتمام سے بھیجتے، احقر پر بڑی شفقت فرمایا کرتے، اکثر فرمایا کرتے کہ مولانا انور شاہ صاحب بڑے محدث ہیں۔ (حیات انور ص 313)

(26) احقر ایک دفعہ ہوشیار پور میں مولانا گرامی سے ملنے گیا، 1925ء میں احقر چھ ماہ ہوشیار پور میں ایک عربی مدرسہ میں مدرس رہا تھا، گرامی صاحب کہنے لگے کہ آپ نے حدیث مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی یا مولانا انور شاہ صاحب سے؟ میں نے عرض کیا، حدیث تو شاہ صاحب مدظلہ ہی سے پڑھی ہے، ہاں بیعت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر کی ہوئی ہے، خوش ہوئے، دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر فرمانے لگے، میں نے شاہ صاحب کی شان میں بہت سے اشعار کہے ہیں۔

ایک شعر یہ ہے ۔

چہ فصاحت چہ بلاغت چہ معانی چہ بیان
 جلوہ فرمائے در آغوش زبان انور
 ”کیا فصاحت کیا بلاغت کیا معنی کیا بیان یہ سب زبان انور کی
 آغوش میں جلوہ فرما ہیں۔“

اسی شعر کو جھوم جھوم کر بار بار پڑھتے گئے۔ (حیات انور ص 310)

(27) عارف باللہ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام اور شہرت سنی دُعا فرمایا کرتے کہ زندگی میں شاہ صاحب کی زیارت ہو جائے، ایک دفعہ لاہور حضرت شاہ صاحب کی تشریف آوری سن لی، کاربھیج کر دعوت دی، حضرت نے پہلے تو انکار فرمادیا، لیکن مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اصرار پر منظور فرمالیا، شرق پور پہنچے اور اپنے قدم مینت لزوم سے شرق پور کو مشرف فرمایا، حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی ممنون ہوئے، حضرت کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھے کہ آپ نائب رسول ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ جناب کے چہرہ مبارک پُر انوار کو دیکھتا ہی رہوں، گفتگو فرماتے رہے اور حضرت شاہ صاحب خاموش سنتے رہے، کہیں کہیں کچھ ارشاد بھی فرماتے رہے، میاں صاحب مرحوم نے فرمایا مجھے نجات کی ان شاء اللہ تعالیٰ توقع ہو گئی ہے، حضرت جب واپس چلنے لگے تو برہنہ پاؤں پختہ سڑک تک ساتھ مشایعت کے لیے تشریف لائے، جب گاڑی چلنے لگی تو پچھلے پاؤں واپس ہوئے، فرمانے لگے کہ دیوبند میں چار انوری وجود ہیں، ایک اُن میں سے حضرت شاہ صاحب ہیں، میرے ایک مخلص دوست کہتے ہیں کہ میں نے دیوبند میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی، حضرت شرق پور تشریف لے گئے تھے میاں صاحب کو کیسے پایا؟ فرمایا، میاں صاحب عارف ہیں اور صحیح معنی میں عارف ہیں۔ (حیات انور ص 314)

(28) رائے کوٹ احقر کے پاس حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے ایام میں ایک نابینا عرب جو بہت بڑے فاضل تھے، تشریف لائے، فرمانے لگے کہ ہند کے ایک بہت بڑے محدث اور عالم دین بزرگ کا انتقال ہو گیا ہے، میں ابھی ریاض (سجد) ہی میں تھا، وہاں اُن کے لیے دعائے مغفرت ہو رہی تھی، ان کا نام مولانا محمد انور لیا جاتا تھا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال پر خاص اہتمام اطلاعات کا نہیں کیا گیا تھا لیکن گوجرانوالہ، لاہور، لدھیانہ اور یوپی کے اضلاع سے اور دور دراز علاقوں سے بھی لوگ جنازہ میں شامل ہو گئے۔ (حیات انور ص 318)

(29) ”فصل الخطاب فی مسئلۃ ام الكتاب“ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بے نظیر کتاب ہے، بعض مدعیان عمل بالحدیث نے اس کا جواب بزعم خود دکھا ہے لیکن علمی دنیا میں اس کو ایک محدث کے رسالہ کا جواب کہنا خود علم کی توہین ہے، ہاں عربی زبان میں مختلف عنوانات میں سو قیانہ دشنام طرازی کا خوب مظاہرہ کیا گیا ہے، تقریباً دو سو مقام کتاب میں ایسے بلیں گے جہاں سوء ادبی کر کے اپنا دل ٹھنڈا کیا ہے، ”سبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ“ از خدا جو نیم توفیق ادب، بے ادب محروم، مانند لطیف رب۔ حالانہ علماء اہل حدیث خود حضرت مرحوم کا نہایت احترام کرتے تھے، حضرت شاہ صاحب امرتسر تشریف لاتے رہے، علماء اہل حدیث، احناف کی نسبت زیادہ سے زیادہ تعداد میں حضرت کی مجالس میں شریک ہوا کرتے تھے اور اس کا اہتمام خصوصی رکھتے تھے۔ (حیات انور ص 337)

حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حالات و واقعات تحریر فرمائے تھے جن میں سے اکثر ”سوانح مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ“، ”حیات طیبہ“، ”ملفوظات حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ“ اور ”انوار انوری“ میں چھپ چکے ہیں مزید کچھ یہاں شامل کیے جا رہے ہیں۔

تھانہ بھون اور رائے پور میں میری پہلی حاضری

از قلم حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ

(1) احقر پہلی مرتبہ ڈیرہ دون حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا، پہلے تھانہ بھون پہنچا دوپہر کے وقت مولانا مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ بھی بعض احباب کے ساتھ موجود تھے ایک چار پائی خالی تھی میں بھی اس پر لیٹ گیا اذانِ ظہر کی ہوئی نمازِ ظہر کی جماعت حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کرائی پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لائے۔ سہ دری کے سامنے سنتوں میں مشغول ہو گئے۔ نماز کے بعد سہ دری میں تشریف فرما ہوئے اور کچھ کام لکھنے کا کرنے لگے پھر عصر کا وقت ہو گیا عصر کی جماعت بھی مولانا ظفر احمد صاحب نے کرائی۔ نماز سے فارغ ہو کر تمام لوگ درجہ بدرجہ بیٹھ گئے۔

مفتی محمد حسن صاحب قریب بیٹھے۔ غرض سب خلفاء حاضرین جمع ہو گئے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھے حضرت گفتگو فرماتے رہے شام ہوئی۔ نماز مغرب خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی پھر گھر تشریف لے گئے۔ احقر کے پاس خادم آیا کہ کھانا کھاؤ گے میں نے اثبات میں جواب دیا انہوں نے فرمایا کہ چھ پیسے کی روٹی اور سالن بکری کے گوشت کا ملے گا میں نے کہا کہ لا دو۔ وہ لے آئے میں نے چھ پیسے ان کے حوالے کیے۔ اور کھانا لیکر رکھ لیا پھر پڑھنے لگ گیا فارغ ہو کر کھانا کھایا۔ پیاس لگی پانی نہ ملا ایک بزرگ پاس بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ تو بولے پانی اپنالانا چاہیے یہ کیا واہیات ہے کہ دوسروں سے پانی مانگتے ہو۔ میں اٹھا تو کوئی لوٹا نہ تھا۔ وہ فرمانے لگے گھر سے آئے تھے لوٹا کیوں نہ لائے۔ لوٹا تو میں لایا تھا لیکن اوپر حجرے میں رکھا ہے آپ ذرا عنایت فرمائیں تو میں پی کر دوں گا۔ اور پانی بھی خود لا دوں گا۔ جواب نفی میں پا کر

اپنا لوٹا لے آیا اور پانی لیکر پیا۔ خدا کا شکر ادا کیا اور رات گزاری۔ صبح کی نماز کے بعد حضرت ﷺ کی مجلس ہوئی دس بجے دن تک خوب مجلس رہی۔ حضرت تو اٹھ کر گھر تشریف لے گئے۔ اور احقر پریشان خاطر مسجد میں بیٹھا رہا، ایک بزرگ مجھ سے فرمانے لگے کہ تم دیوبند بھی جاؤ گے میں نے اثبات میں جواب دیا وہ کہنے لگے لوگ تماشہ دیکھنے آتے ہیں تھانہ بھون حاضر ہو کر دیوبند جانے کی کیا حاجت رہ جاتی ہے عرض کیا گیا وہ بھی بزرگوں کی جگہ ہے کیونکہ میں نے دیوبند میں پڑھا ہے حضرت شاہ صاحب ﷺ کے مزار کی زیارت کرونگا ان کے اعزہ واقارب کا قیام دیوبند میں ہے ان سے ملوں گا اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی ﷺ کی زیارت کرونگا۔ حضرت میاں صاحب دیوبندی کی زیارت کروں گا حضرات بزرگان دیوبند کے مزارات پر بھی حاضر ہونا ہے۔ ان کا حق ہے، شیخ الہند ﷺ کے مزار پر جاؤں گا۔ وہ بزرگ فرمانے لگے ہم تو تھانہ بھون سے واپسی پر کہیں نہیں جاتے میں چپ ہو رہا مناظرہ کرنا اچھا نہیں۔ پھر خیر پور ٹامیوالی کے حافظ محمد رمضان صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے وہ مل گئے مزاج پُرسی کے بعد فرمانے لگے حضرت شاہ عبدالقادر ﷺ دہرہ دون میں تشریف فرما ہیں میں نے اسی وقت سامان درست کیا اور بعد نماز ظہر حضرت اقدس تھانوی ﷺ سے اجازت لی اسٹیشن تھانہ بھون پر چلا گیا سہارنپور پہنچا تو گاڑی تیار تھی دہرہ دون شام کے وقت نماز مغرب اتر کر پڑھی پھر حافظ محمد ابراہیم ﷺ کی کوٹھی کا راستہ پوچھا غرض شہر سے باہر رسپنا ندی کے کنارے کوٹھی پر پہنچ گیا عشاء کا وقت تھا نماز ہو چکی تھی حضرت کھانا تناول فرما رہے تھے احقر باہر بیٹھ گیا آہٹ پا کر حضرت نے آواز دی کہ کون ہے احقر نے حاضر ہو کر السلام علیکم عرض کیا پہلی حاضری تھی حضرت ﷺ نے پہچان لیا بڑی ہی شفقت فرمائی فرمایا کھانا کھا لو ہم تو فارغ ہو چکے احقر نے کھانا کھا لیا آموں کا

موسم تھا نہایت عمدہ قسم کے آم شاہ مسعود سلمہ نے بھیجے تھے وہ مجھے کھلائے پھر حالات دریافت فرماتے رہے مولانا عبداللہ صاحب فاروقی حضرت مولانا غلام رسول صاحب جالندھری اور بہت احباب جمع تھے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں اپنے گھر آ گیا تین دن ٹھہرا پھر رائیکوٹ چلا آیا پھر حضرت کی زیارت لدھیانہ مولوی عبدالرحمن لدھیانوی کی مسجد میں ہوئی حضرت اقدس نے خود بلاوا بھیجا ہت میں حاضر ہوا فوراً حضرت نے بیعت کا ذکر کیا۔

(2) سہارنپور میں مولانا عاشق الہی صاحب تشریف لائے تھے ان کو کچھ ابریز کی عبارتوں میں اشکال تھے وہ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الحدیث کے سامنے پیش کر رہے تھے میں بھی وہاں حاضر تھا کچھ کچھ عرض کرتا رہا حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جوابات دیئے حضرت شیخ الحدیث نے جوابات دیئے میری باتیں سن کر حضرت میرٹھی بہت خوش ہوئے پھر گفتگو اور شروع ہو گئی۔

میں تو سہارنپور سے اسی دن چلا آیا حاجی علی محمد صاحب لدھیانوی، حاجی ولی محمد لدھیانوی اور حاجی محمد ابراہیم صاحب لدھیانوی مرحوم میرے ہمراہ چلے آئے۔

(3) پھر حضرت نے مجھے رائیکوٹ سے آدمی بھیج کر بلایا اور پڑھنے کے لیے بھی کچھ فرمایا۔ احقر نے جو حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے کے مطابق پڑھنا شروع کیا تو پانچویں روز سارے بدن سے ذکر الہی کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اور مولانا عبدالعزیز صاحب گمٹھلوی اور راء عطاء الرحمن اور بھائی الطاف الرحمن مولانا عبداللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمراہ تھے پھر جگراؤں ہوتے ہوئے میلسیاں تہاڑہ لودی وال تشریف لے گئے احقر واپس رائے کوٹ آ گیا ماسٹر منظور صاحب اور چوہدری بہادر علی خاں صاحب میرے ہمراہ تھے احقر

نے ماسٹر صاحب کو تلقین کی کہ حضرت سے بیعت ہو جاؤ وہ کہنے لگے میری خط و کتابت حضرت تھانوی سے ہو رہی ہے میں نے جواب دیا اب حضرت تھانوی تو بیعت کرتے نہیں۔ کسی اپنے خلیفہ کے حوالہ کر دیں گے۔ مناسبت ہوگی نہیں آپ خواہ مخواہ پریشان ہو جاؤ گے غرض ان کے گاؤں سلیم پور تک میں نے ان کو راضی کر لیا، پھر ایک شبہ پیش کیا کہ نیک کام کرنا ضروری ہے بیعت کیوں ضروری ہے میں نے عرض کیا جس گاؤں کا راستہ نہ دیکھا ہوا ہو۔ بغیر رہنما کے کیسے جائیں گے۔ راستہ بھی خطرناک ہے یہ قرب الہی کی راہ جس کسی نے دیکھی نہیں کیسے قطع کرے گا۔ جبکہ اس میں پرخطر وادیاں ہیں دشوار گزار راہ ہے چور، ڈاکو بھی گھات میں ہیں کوئی راہبر ساتھ نہیں ہے بڑا مشکل ہے طے کر لینا۔ کوئی اللہ کا بندہ طے کر جائے تو الگ بات ہے رہبر ہونا ضروری ہے ورنہ گمراہ ہونے کا ڈر ہے انسان بسا اوقات بے دینی کی باتوں کو دین سمجھ لیتا ہے اور راستے سے بھٹک جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو اسی لئے مبعوث فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو صحبت مبارکہ میں رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تیس سال خدمت مبارکہ میں رکھا گیا حتیٰ کہ قبر بھی پاس ہی بنی کہ عالم برزخ میں بھی انوار محمدی سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے وَالَّذِينَ مَعَهُ فرمایا اور الصحابة کلہم عدول اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تابعین بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ رہے اسی لیے پیر کا پکڑنا ضروری ہے کہ انسان راستے سے بھٹک نہ جائے محض کتابوں کے مطالعہ سے کچھ نہیں بنتا صحبت ضروری ہے۔

راہ پر خطر است تو تنہا مرو

یک زمانہ صحبتے با اولیاء	بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا
--------------------------	-----------------------------

اگر تھوڑا سا وقت بھی اللہ تعالیٰ کے ولی کی صحبت میسر ہو جائے (ایسی صحبت) سو سالہ بے ریا

عبادت سے بھی بہتر ہے۔

چوں بصاحب دل رسی گوہر شوی	گر ٹو سنگ خارہ مرمر شوی
---------------------------	-------------------------

تو اگر سخت پتھر یا سفید مرمر کا پتھر ہو، اگر صاحب دل تک پہنچے گا تو موتی بن جائے گا۔ (مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ)

حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

چوں راہ بین نباشی کہ راہبر شوی	اے بے خبر بکوش کہ صاحب خبر شوی
--------------------------------	--------------------------------

اے غافل! محنت اور کوشش کرتا کہ بے خبر کی بجائے باخبر بن جائے لیکن جب تو نے راستہ دیکھا ہی نہ ہو تو راہ دکھانے والا کیسے بن جائے گا۔

ہاں اے پسر بکوش کہ روزے پدر شوی	در مکتب حقائق پیش ادیب عشق
---------------------------------	----------------------------

معرفت کے مدرسہ میں عشق محمدی کے استاد تک پہنچ جائے گا، پھر اے بیٹے (معرفت سیکھنے کے لئے) خوب کوشش کرتا کہ (بیٹے سے ترقی کر کے) تو بھی باپ بن جا۔

باللہ کز آفتاب فلک خوبتر شوی	گر نور عشق حق بدل جو جانت او فتد
------------------------------	----------------------------------

جب حق تعالیٰ کے عشق کا نور تیرے دل اور تیری جان میں سرایت کر جائے تو بخدا آسمان کے سورج سے بھی زیادہ روشن ہو جائے گا۔

از پائے تا سرت ہمہ نوا خدا شود	در راہ عشق حق چو توبے پاؤ سر شوی
--------------------------------	----------------------------------

اگر سر سے پاؤں تک تو خدا تعالیٰ کی آواز ہو جائے تو راہ سلوک میں تو سراور پاؤں کے بغیر قرار پائے گا۔

ماسٹر صاحب مائل ہو گئے اگلے روز احقر شام کو دوبارہ حاضر ہوا تو حضرت دھرمکوٹ تھے احقر حاضر ہوا تو منشی محمد موسیٰ میرے ہمراہ تھے شام کو قاری حبیب اللہ صاحب کے پاس جلال آباد شرقی میں تشریف لے آئے۔ احقر سے مل کر معانقہ فرمایا اور بیٹھتے ہی فرمایا وہ آپ کے ماسٹر منظور محمد صاحب بیعت ہو گئے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ پھر ماسٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ میں بیعت ہو گیا ہوں۔

اور لودھی وال کے قبرستان میں بیٹھ کر ہی بیعت فرمایا اور ذکر تلقین فرمایا۔ ماسٹر صاحب اکثر مجھے ملتے رہتے اور ذکر اذکار کے متعلق پوچھتے رہتے تھے پھر ملک کی تقسیم تک یہی ہوتا رہا غالباً 1942ء میں بیعت ہوئے تھے۔

(4) حضرت نے فرمایا کہ میں لوگوں کو لکھتا رہتا ہوں کہ آپ سے ملتے رہیں اور آپ کو پھر تاکید کرتا ہوں کہ آپ اللہ اللہ بتا دیا کریں۔ جن لوگوں کے نام آپ نے لکھے ہیں ان کو خود ہی بیعت کر لیں۔ میرے آنے پر موقوف نہ رکھیں۔

(5) ایک دفعہ میں نے حاضر ہو کر عرض کی کہ حضرت آج کل مجھ پر خاموشی غالب ہے۔ اور چپ رہتا ہوں البتہ بوقت تلاوت قرآن اور ذکر اور ادب زبان خوب کھل جاتی ہے۔ فرمایا بہت مبارک ہے لیکن یہ کیفیت زیادہ دیر تک نہیں رہتی۔ چنانچہ دو ماہ کے بعد زائل ہو گئی میں پھر پہلے کی طرح باتیں کرنے لگا۔ یہ تقسیم ملک کے پہلے کے واقعات ہیں۔

(6) میں اپنے آپ کو سب سے نکما سمجھنے لگا ہوں یہ حالت کبھی نہیں مٹی اور سب لوگ نیک ہیں اور میں ہی نالائق ہوں، یہ کیفیت محض حال نہیں کہ پھر دور ہو جائے گی، بلکہ دائمی سی ہو گئی ہے فرمایا یہی تو منتہائے تصوف ہے اپنے آپ کو چھوٹا یقین کر لینا اور کبھی غافل نہ ہونا بہت ہی مبارک ہے یہ بات بہت مبارک ہے اس میں غم کی کیا بات ہے یہ تو انشاء اللہ انعام ہے اس پر جتنا شکر کریں کم ہے الحمد للہ ثم الحمد للہ پھر فرمایا کہ ضیاء القلوب کو ذرا دیکھ لیں اور کوئی تو بہ کرنا چاہے تو انکار نہ کیا کریں بلکہ تو بہ کرادیا کریں شاید اسی سے کسی اللہ کے بندے کا کام بن جائے اور ہدایت ہو جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔

(7) ایک دفعہ موسم سرما تھا غالباً دسمبر کا مہینہ تھا میں حاضر ہوا بہت خوش ہوئے حضرت کے ہاں ماء اللحم آیا ہوا تھا وہ مجھے عنایت فرمایا مولوی عبد الجلیل، مولوی

عبدالوحید صاحبان بھی آئے ہوئے تھے۔ بھائی محمد اسماعیل لدھیانوی بعد میں مولانا علی میاں صاحب اور مولانا محمد منظور صاحب نعمانی بھی تشریف لے آئے۔ لکھنؤ حضرت کو لیجانے پر اصرار ہوا۔ ادھر ہمارے ساتھی پنجاب کے لیے مصر تھے حضرت نے مجھے رات کو بلا کر فرمایا کہ لکھنؤ میری جگہ آپ جاؤ عبدالجلیل اور عبدالوحید اور اسماعیل بھی آپ کے ہمراہ جائیں گے۔ مولانا علی میاں کا اصرار ہے۔

ضرور جانا چاہیے اور آزاد صاحب بھی خدمت کے لیے ہمراہ ہونگے پھر آزاد صاحب کو بلا کر تاکید کی دیکھنا اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو مولانا علی میاں صاحب تو پہلے تشریف لے گئے مولانا منظور صاحب ساتھ چلنے کے لیے رہ گئے اور چار روز رہنا قرار پایا میں نے عرض کی میں تو زیارت کے لیے حاضر ہوا ہتا حضرت کے پاس ہی رہنا چاہتا تھا فرمایا یہ بھی میرے ہی پاس ہو۔ کوئی دور تو نہیں ہو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ راحت ہی رہے گی۔ چنانچہ سفر طے ہو گیا آزاد صاحب ہمراہ چلے لیکن ریل میں جتنا آرام مولانا محمد منظور صاحب نعمانی کی وجہ سے ملا، وہ مدت العمر نہیں بھولونگا۔ مولانا نے احقر کے لیے سیکنڈ کاکٹ لیا اور خود بھی میرے پاس بیٹھے اور مراد آباد سے گاڑی لکھنؤ کے لیے تبدیل کی عشاء کی نماز باجماعت ہم نے پڑھ لی کھانا مولانا نے بڑا پر تکلف کھلایا لکھنؤ آیا تو اوروں کے لیے رکشہ تھی اور احقر کے لیے آرام دہ تانگہ منگایا ہم پہنچے تو مولانا علی میاں صاحب نے بڑی ہی شفقت فرمائی کھانے پر اور بھی بہت سے معززین کو مدعو کیا جاتا رہا عصر کے وقت مجلس ہوتی مولانا علی میاں صاحب کے بڑے بھائی مولانا ڈاکٹر عبدالعلی صاحب فاضل دیوبند سے جو بڑے بزرگ اور کم گو تھے بڑے عالم تھے علوم جدیدہ اور قدیمہ کے ماہر تھے ملاقات ہوئی پہلے تو ان کے مکان پر گئے اتنی شفقت فرمائی کہ میں اس لائق کہاں تھا پھر روزانہ نماز ظہر میں

تشریف لاتے رہے اور مغرب پڑھ کر جاتے تھے مولانا علی میاں صاحب بعد نماز عصر مجلس کا خاص اہتمام کرتے تھے اور مجھے شفقتاً فرماتے کہ آج کی مجلس تو بالکل حضرت کی مجلس تھی بھلا احقر کہاں اور حضرت اقدس کہاں۔ ڈاکٹر زین العابدین صاحب بھی دونوں وقت کھانے پر تشریف لاتے بڑے بے تکلف اور پُر رعب ان کے صاحبزادہ صاحب بیمار تھے ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ تو اس کو دم کر دے اور وہ بھی بڑے فاضل تھے مجھ سے پڑھنے کے متعلق دریافت فرماتے تھے اور اپنی کیفیت بیان فرماتے تھے مولانا محمد منظور صاحب نعمانی خاص طور پر گوشت لاتے اور دسترخوان پر مع صاحبزادہ مولانا عتیق الرحمن صاحب سلمہ کھانے میں شریک ہوتے جتنا وقت لکھنؤ میں گذرا وہ مغتلمات زندگی میں سے سمجھتا ہوں مولانا عمران صاحب دارالعلوم ندوۃ العلماء کے مہتمم بالکل قاری محمد طیب صاحب دیوبند کے ہم شکل ہیں وہ تو ہر وقت موجود رہتے تھے ایک دفعہ کھانے پر بھی مدعو کیا سب حاضر ہوئے دارالعلوم کی زیارت مولانا علی میاں صاحب نے کرائی ہر کمرہ میں لے جاتے اور کافی وقت لگا کر سیر کرائی سب کیفیات بیان فرماتے مسجد کی بھی زیارت کی اور پھر ہوٹل میں حاضری ہوئی بڑے بڑے بورڈ آویزاں ہیں ایک پر ہندوستان کے محدثین کے اسماء گرامی لکھے ہوئے ہیں ایک پر کتب مطالعہ، دو کو تو میں نے پڑھا۔ حضرت محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی دیکھ کر بڑی مسرت ہوئی۔ مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیفات ہدیۃ عنایت فرمائیں فیصلہ کن مناظرہ ردِ بریلویت میں اور معاف الحدیث جلد اول بڑی عمدہ کتابیں ہیں۔

تیسرے روز جب حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ڈھڈیاں پہنچا بہت خوش ہوئے اور اپنے پاس بٹھایا مولوی عبدالوحید صاحب سے فرمانے لگے وہ ہمارا خط جو مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی نے بھیجا تھا وہ مولانا کے سامنے

سناؤ اگرچہ مولانا تو اس کو سننا بھی گوارا نہ کریں گے مگر تم پڑھو بعد نماز ظہر حجرے کے سامنے والے صحن میں جہاں اب مزار پاک بنایا گیا ہے تشریف فرما تھے خط مولانا عبدالوحید نے سنایا مضمون یہ تھا:

”سیدی مولائی مدظلہ العالی سلام مسنون مولانا محمد صاحب لائل پوری بنگال سے واپسی پر میرے پاس بارہ روز ٹھہرے میرے لڑکوں اور لڑکیوں کو ان سے عقیدت ہوگئی ہے ڈاکٹر شکر داس صاحب روزانہ ان کی خدمت میں بیٹھتے تھے جب مولانا چلے گئے تو ڈاکٹر صاحب آئے بہت افسوس کیا کہ مولانا بہت جلدی ہی چلے گئے میں نے کہا کہ ان کو حضرت اقدس مدظلہ العالی نے بلاوا بھیجا تھا ڈاکٹر صاحب کہا کرتے ہیں کہ جیسا ان کا چہرہ نورانی ہے دل بھی نورانی ہوگا۔ مولانا قاری محمد طیب صاحب بھی مولانا سے ملنے دیوبند سے آئے تھے، مولانا عبدالسبحان بھی ان کو اپنی مسجد میں لے گئے تھے والسلام۔ حبیب الرحمن۔ دہلی کوچہ رحمان 15 فروری 1953ء میں پہلے تو مولانا کو اپنا رشتہ دار سمجھتا تھا مگر اب محبت ہوگئی۔“

(8) ایک دفعہ فرمایا حضرت نے، یہ تحدیث نعمت کے طور پر ذکر کرتا ہوں کہ جس طرح تو نے میرے ساتھ محبت کی ہے کسی نے نہیں کی۔ انیس الرحمن کا جب پہلا رشتہ ٹوٹ گیا اس وقت مولانا عبداللہ صاحب کے گاؤں میں پڑھاتے تھے کوئی ماسٹر صاحب تھے غالباً رحمت علی نام تھا جب انہوں نے جواب دیدیا جالندھر میں جب آپ سے بات ہوئی تو آپ کی زبان سے یہی نکلا لڑکی ہی حضرت اقدس کی ہے جیسا چاہو کر لو جب چاہو تو نکاح کر دوں گا پھر آپ نے ایسا ہی کیا جیسا میں

کہتا رہا وہی کر دکھایا لیکن بعد میں ہمارا بھی جی بیٹھ گیا جب ان کا برتاؤ دیکھا مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کا خط میرے پاس دھرم سالہ جیل سے آیا کہ میں بہت خوش ہوں مولانا محمد صاحب نے بالکل سنت کے مطابق کیا کوئی رسم نہیں کی کہ اس نے تو احسان کے نیچے دبا دیا میں نے لکھا کہ رشتہ کہاں رہتے ہیں۔ اب اگر قدر دان ہو گے تو کبھی نہ بھولو گے دوسرا مولوی عبدالجلیل کا نکاح جب اس کی پہلی بیوی فوت ہو گئی اور میں نے ملتان میں سیر کو چلتے وقت جب تذکرہ کیا اور نکاح کا پیغام دیا تو فوراً بغیر چون و چرا کے تیار ہو گئے جب ہم لائل پور پہنچے تو نکاح کر دیا اور ہمارے ساتھ رخصت فرما دیا۔ گھر ہی سے سب کچھ کر کر دیا۔ اور یہاں بھی چھوڑے گھر ہی سے دیدیئے ماشاء اللہ علماء کو اس سے سبق لینا چاہیے اگر عبدالجلیل میں میں ذرا کجی دیکھتا تو آپ کو کبھی تکلیف نہ دیتا یہ خیال کر کے کہ آپ سے ماشاء اللہ یگانگت کا معاملہ ہے۔ سوال کر دیا جس کو آپ نے گرنے نہیں دیا۔

اسی کو حقیقت میں فنایت کہتے ہیں ڈھڈیاں سے تمام لڑکیاں آپ کے گھر کو اپنا گھر سمجھتی ہیں جب آپ کے ہاں آتی ہیں سب بے تکلف رہتی ہیں آپ کے گھر سے بھی ماشاء اللہ بہت ہی عقلمند معاملہ فہم آپ کی فرمانبردار ہیں ورنہ عورتوں کا معاملہ بہت ٹیڑھا ہوتا ہے میں نے ان کے سامنے اس لیے بات کی تھی کہ وہ شاید نہ مانیں گے لیکن میری مسرت کی انتہا نہ رہی جب ان کو آپ سے بھی آگے آگے پایا میں تو کہتا ہوں کہ ہماری کوئی ذات نہیں خبر نہیں ہم کیا ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت یہاں بھی یہی معاملہ ہے ذات پات کا سوال میں نے حتم کر دیا۔

”ولعبدمؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم“ قرآن مجید نے تو صرف ایمان کو لیا ہے باقی سب کچھ یوں ہی ہے کوئی ہزار بار تذکرہ فرماتے کہ اس کا میرے پر بڑا احسان ہے۔ میں مجلس میں ہوتا تو گھڑوں پانی پڑ جاتا میں کیا چیز ہوں سب

حضرت ہی کی برکت سے ہو گیا۔

(9) ایک دفعہ حضرت امرتسر مولوی محمد یعقوب صاحب پھول پوری کے مکان پر اترے۔ مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تھے، مولوی محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کے متصل ہی مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کا مکان تھا وہاں بھی تشریف لے گئے۔ مفتی صاحب نہایت اکرام سے پیش آئے احقر بھی ہمراہ تھا دوپہر کو حضرت اقدس آرام فرمانے لگے تو احقر حضرت اقدس کے پاؤں دبانے لگا اتنے میں محمد یوسف خان صاحب نور ارتھ والے بھی آگئے اور مولوی عبدالمنان صاحب بھی حضرت کے خادم آگئے خاں صاحب اپنے تایا صاحب کی باتیں کرنے لگے کہ وہ بریلوی ہیں لیکن ان کو حضرت اقدس سے عقیدت ہے مجھ سے ناراض رہتے ہیں کہ تو بیعت ہو کر گاؤں میں جمعہ چھوڑ بیٹھا ہے میں نے کہا گاؤں میں جمعہ جائز نہیں۔ حضرت نے میری طرف اشارہ کر دیا ان سے پوچھو میں بھی سن لوں میں نے عرض کیا۔ (پھر حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے تفصیلی جواب لکھا ہے)

وصال

1962ء میں حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ پر فالج کا پہلا حملہ ہوا جس سے نقاہت ہو گئی مگر آپ کے اسباق اور معمولات میں کوئی فرق نہ آیا۔ ماہنامہ دارالعلوم دیوبند میں بھی آپ کی صحت کے لیے ان الفاظ میں دعائے صحت کی درخواست کی گئی:

”حضرت مولانا محمد انوری صاحب حلقہ دارالعلوم میں کسی تعارف کے محتاج نہیں، ممدوح حضرت علامۃ العصر مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری قدس سرہ کے خاص فیض یافتہ اور بزرگانِ قدیم کی ایک قیمتی یادگار ہیں۔

گذشتہ کئی ماہ سے حضرت مولانا بیمار ہیں۔ پہلے آپ پرفالوج کا حملہ ہوا اور اس کے بعد دوسرے عوارض نے آپ کو گھسیں لیا۔ لائل پور سے اس عرصہ میں آپ کے متعلق تشویشناک اطلاعات آرہی ہیں۔ ہم حلقہ دارالعلوم سے استدعاء کرتے ہیں کہ وہ حضرت مولانا کی صحت کے لئے دعا فرمائیں۔“

(ص 47 ماہنامہ دارالعلوم دیوبند جولائی 1962ء)

1965ء میں نسبتاً فالج کا حملہ شدید ہوا جو مزید شدتِ مرض کا باعث بنا۔ جس کے سبب آپ اسباق جاری رکھنے کے قابل نہ رہے لیکن وظائف بدستور جاری رہے، اور لا الہ الا اللہ کے وہ روح پرور کلمات جو گونج دار اور وجد آفریں ہوتے تھے انہیں سامعین نحیف و پست آواز میں سننے پر مجبور ہو گئے..... (لیکن ان حالات میں)..... آپ نے سرما و گرما میں ایام بیض کے روزے اور جمعہ کا روزہ ترک نہ کیا، اور ایک بجے شب کی بیداری میں فرق نہ آنے دیا۔ فرمایا کرتے تھے: ”سب کچھ اللہ کے فضل سے ملتا ہے بس اس کا فضل تلاش کرو۔“

اسی اثناء میں آپ نے اپنے صاحبزادے مولانا سعید الرحمن سے فرمایا کہ ”بیٹا یہ مرض میرے استاذ مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو آخری وقت میں ہوا تھا، جو جان لیوا ثابت ہوا، اب میرا بھی صحت یاب ہونا مشکل ہے۔“

چنانچہ 9 جنوری 1970ء کو جمعہ کے وقت دورہ پڑا جو عصر تک باقی رہا، جس سے طبیعت اور زیادہ مضحمل ہو گئی، 13 جنوری 1970ء کو عصر کے وقت دوسرا دورہ پڑا جو عشاء تک رہا۔ دو روز افاقہ کے بعد 16 جنوری 1970ء کو تیسرا دورہ پڑا جو ڈیڑھ بجے رات تک رہا جب قدرے افاقہ ہوا اور ہوش میں آئے تو آپ

نے بڑے صاحبزادگان مولانا عزیز الرحمن اور مولانا سعید الرحمن کو پاس بٹھا کر ارشاد فرمایا:

”خدا کا خوف رکھنا، موت کو یاد رکھنا، مرنا ہے چلے جانا ہے
وہاں نیک اعمال کے سوا کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ آپس میں
محبت و تعلق رکھنا، اور ہر کام باہم مشورے سے طے کرنا۔“

بعد ازاں تین روز تک دورے سے افاقہ رہا، لیکن مرض میں بدستور
اضافہ ہوتا رہا، 20 جنوری 1970ء کو مغرب کی نماز سے پیشتر آپ نے آب زمزم
نوش کیا اور فرمایا:

”الحمد للہ، زمزم پی لیا اندر سیراب ہو گیا، رُوح پرواز کر گئی۔“

اس کے بعد نماز مغرب کی آخری رکعت میں بیہوشی کی سی کیفیت
ہو گئی، لیکن بار بار آسمان کی طرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے جیسا پاس
والوں کو ذکر کی تلقین کرتے ہوں۔ پھر آپ نے کچھ کھایا نہ پیا، اور سنہ کوئی کلام
فرمایا۔ بروز بدھ مورخہ 21 جنوری 1970ء کو بعد نماز عشاء ڈسٹرک ہسپتال لائل
پور (فیصل آباد) لے جایا گیا۔ ساری رات ڈاکٹر کوشش سے علاج کرتے رہے۔
آخر 22 جنوری 1970ء کو فجر کی نماز کے متصل سات بجے صبح روح قفسِ عنصری
سے پرواز کر گئی اور لائل پور میں رشد و ہدایت کا آفتاب غروب ہو گیا،

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ^ط

آپ کے وصال کی خبر سے لائل پور میں کہرام مچا ہو گیا، اور قرب و جوار
سے بے پناہ لوگ اپنے محبوب کا آخری دیدار کرنے کے لیے پہنچنے شروع ہو گئے۔
مولانا عزیز الرحمن، مولانا سعید الرحمن، مولانا مسعود الرحمن، مولانا مقبول الرحمن،
مولانا ایوب الرحمن، مولانا عبدالجلیل اور صوفی محمد زکریا صاحب نے غسل دیا.....

(ص 36 ماہنامہ دارالعلوم اپریل 1970ء) اسی روز یعنی ۱۳ ذیقعدہ ۱۳۸۹ھ بمطابق 22 جنوری 1970ء بروز جمعرات بعد نماز عصر آپ کے مکان واقع سنت پورہ سے جنازہ اٹھایا گیا اور اقبال پارک (دھوبی گھاٹ) میں محتاط اندازے کے مطابق ایک لاکھ سے زائد افراد نے نماز جنازہ ادا کی، آپ کے بیٹے مولانا عزیز الرحمن انوری نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اور لائل پور کے بڑے قبرستان میں پانچ بجے شام سپرد خاک کئے گئے۔ آپ نے کل 69 برس عمر پائی۔

خدا رحمت کند ایں
عاشقان پاک طینت را

آپ کی اہلیہ محترمہ آپ کے انتقال کے چھ ماہ بعد اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ حضرت مولانا انوری رحمۃ اللہ علیہ نے تمام اولاد کو حافظ قرآن بنایا اور دینی علوم کے زیور سے آراستہ کیا۔ تینوں بیٹیوں کو بھی دورہ حدیث شریف تک کی کتابیں پڑھائیں۔ دراصل انہوں نے اس حقیقت کو پالیا تھا کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ دنیاوی زندگی کا کوئی اعتبار ہی نہیں کہ کب ختم ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے اپنی زندگی، اپنی عزت، دانش، مال اور اولاد سب کچھ خدمت دین اسلام و اشاعت قرآن و سنت کے لیے وقف کر دیا تھا۔

اولاد

حضرت مولانا انوری رحمۃ اللہ علیہ کے سات بیٹے اور تین بیٹیاں تولد ہوئیں۔
(شجرہ نسب ص 48 پر ملاحظہ کریں)
1۔ مولانا عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ:

بڑے صاحبزادے عبدالرحمن حضرت کے لاڈلے بیٹے تھے، ان کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی گئی، عبدالرحمن نے رائے کوٹ میں میٹرک کا امتحان پاس

کیا اور پھر اپنے والد محترم سے درس نظامی کی ابتدائی کتب پڑھیں، انہوں نے درس نظامی کی تکمیل لدھیانہ شہر میں مفتی نعیم لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ عزیز یہ سے کی۔ مولانا عبدالرحمن قیام پاکستان سے قبل بہاولپور میں ایک ہائی سکول میں عربی ٹیچر تعینات ہو گئے تھے۔ 5 مئی 1948ء میں انتقال ہوا اور بڑے قبرستان غلام محمد آباد میں تدفین ہوئی۔

2۔ مولانا عزیز الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ:

تاریخ پیدائش 1932ء رائے کوٹ لدھیانہ میں ہوئی۔ قیام پاکستان کے وقت آپ کی عمر سولہ سال تھی اور قرآن پاک حفظ کر چکے تھے۔ دینی تعلیم اور دورہ حدیث اپنے والد گرامی سے کیا۔ اپنے اباجی کونوافل اور تراویح میں سالہا سال انوری مسجد میں قرآن پاک سنایا۔ تہجد کے وقت ذکر بالجہر فرماتے۔ مسجد میں فجر کی نماز پڑھاتے، بالترتیب قرآن پاک کا درس ارشاد فرماتے، 1950ء میں پہلی مرتبہ اپنے مرشد حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کی۔ پھر متعدد مرتبہ زیارتِ حرمین شریفین سے مستفید ہوئے۔ اپنی مدد آپ کے تحت انوری پریس لگا رکھا تھا۔ بے شمار مساجد و مدارس کے سرپرست اعلیٰ رہے۔ مساجد، مدارس کو رجسٹر کرواتے تاکہ کوئی ناجائز قبضہ نہ کر سکے۔ آپ جمعیت علمائے اسلام کے مرکزی خازن تھے۔

آپ حضرت مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ چک 11 کے خلیفہ مجاز تھے (بروایت مفتی محمد انور اکاڑوی مدظلہ) 17 رجب الثانی 1419ھ یکم اگست 1998ء کو انتقال ہوا۔ احاطہ حضرت انوری بڑے قبرستان غلام محمد آباد میں تدفین ہوئی۔

3۔ حبیب الرحمن (مرحوم):

حبیب الرحمن بچپن ہی میں راہی عدم ہو گئے، لدھیانہ میں مدفون ہوئے۔

4۔ مولانا سعید الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ:

خليفة مجاز حضرت مولانا عبدالعزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سرگودھا۔ ردّ قادیانیت پر ایک رسالہ ”آنا خاتمة النبیین لا نبی بعدی“ لکھا جو ”احتساب قادیانیت“ ج 35 میں شامل ہے۔ حضرت مولانا خیر محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے مہتمم جامعہ خیر المدارس ملتان مولانا قاری محمد حنیف جالندھری آپ ہی کے داماد ہیں۔

۴ ربیع الاول ۱۴۲۳ھ 17 مئی 2002ء کو انتقال ہوا۔ بڑے قبرستان غلام محمد آباد میں تدفین ہوئی۔

5۔ مولانا مسعود الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ:

۲۹ رمضان ۱۴۱۵ھ 2 مارچ 1995ء کو انتقال ہوا۔ احاطہ حضرت انوری بڑے قبرستان غلام محمد آباد میں تدفین ہوئی۔

6۔ مولانا مقبول الرحمن انوری مدظلہ:

(خطیب جامع مسجد ام المدارس گلبرگ فیصل آباد)

7۔ مولانا محمد ایوب الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ:

خليفة مجاز حضرت مولانا سید محمد انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالجلیل قادری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید نفیس الحسنی رحمۃ اللہ علیہ و دیگر مشائخ کثیر (۲۰ رمضان ۱۴۳۶ھ 8 جولائی 2015ء) کو انتقال ہوا۔ احاطہ حضرت انوری بڑے قبرستان غلام محمد آباد میں تدفین ہوئی۔ (تفصیلی حالات صفحہ 241 پر ملاحظہ کریں)

تین صاحبزادیاں

1۔ بڑی صاحبزادی:

بڑی صاحبزادی حضرت مولانا انیس الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ابن رئیس

الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے عقد میں تھیں۔ (حضرت مولانا انیس الرحمن رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے اجلہ خلفاء میں سے تھے۔ آپ بانی مدرسہ تجوید القرآن تھے موجودہ جامعہ ملیہ اسلامیہ خالصہ کالج جڑانوالہ روڈ فیصل آباد) آپ کی تدفین احاطہ مدرسہ میں ہوئی۔

2۔ دوسری صاحبزادی:

دوسری صاحبزادی حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے و خلیفہ مجاز حضرت مولانا عبدالکلیل قادری رحمۃ اللہ علیہ کے عقد میں تھیں۔ ڈھڈیاں شریف ہی میں انتقال ہوا اور وہیں تدفین ہوئی۔

3۔ تیسری صاحبزادی:

تیسری صاحبزادی حافظ عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے عقد میں تھیں۔ بڑے قبرستان چک 213 سوساں میں تدفین ہوئی۔

تصانیف

- (1) سیرت خاتم الانبیاء (اردو)
- (2) العجالہ (داڑھی کے متعلق شرعی فیصلہ)
- (3) احادیث الحیب المعتبر کہ
- (4) اربعین من احادیث النبی الامین (صلی اللہ علیہ وسلم)
- (5) الصلوٰۃ یعنی نماز مترجم
- (6) فضائل مکہ مکرمہ مترجم
- (7) مکتوبات بزرگان
- (8) ملفوظات حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ
- (9) انوار انوری (مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و کمالات کا تذکرہ)

- (10)..... السنن الآثار لسید الا برار (اردو)
- (11)..... البشارات فی حل الاشارات
- (12)..... الحج المقبول
- (13)..... البدور الطالعہ اعنی الشمس البازغہ
- (14)..... نفحات الطیب للنبی الحبيب صلی اللہ علیہ وسلم (عربی)
- (15)..... حیات انور (سوانح مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ) یہ کتاب تقسیم ہند کی وجہ سے رائے کوٹ لدھیانہ ہی رہ گئی تھی۔
- (16)..... نطق الانور (علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ترمذی (قلمی)
- (17)..... ترجمہ کتاب، خاتم النبیین (قلمی)
- (18)..... مکتوبات و ملفوظات (قلمی)
- (19)..... مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم (قلمی)
- (20)..... تقلید کیا ہے؟ (قلمی)
- (21)..... رد قادیانیت (قلمی)

مشہور تلامذہ

- 1- حضرت مولانا محمد عبداللہ سلیم پوری رحمۃ اللہ علیہ ضلع لدھیانہ (شیخ و مرشد حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ کنڈیاں شریف) آپ نے 1922ء میں مدرسہ عزیز یہ لدھیانہ میں مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ سے تہذیب اور شرح تہذیب، شرح ملا جامی، کنز الدقائق پڑھی تھیں پھر (جامعہ فتحیہ) اچھرہ لاہور چلے گئے تھے اور 1926ء میں حدیث دیوبند میں حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔

(انوار انوری جدید ص 159)

- 2- حضرت مولانا رحمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ سابق ناظم و نگران دفتر ختم نبوت اسلام آباد

- 3- حضرت مولانا حافظ صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ کمالیہ (والد ماجد مولانا محمد احمد لدھیانوی)
- 4- حضرت مولانا محمد طفیل قیوم رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد (خلیفہ مجاز مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ برادر اکبر مولانا شیخ نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اسلامیہ امدادیہ)
- 5- حضرت مولانا صوفی محمد طفیل رحمۃ اللہ علیہ گنیش ملز فیصل آباد
- 6- حضرت مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بانی مدرسہ فیض محمدی فیصل آباد
- 7- حضرت مولانا نور محمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ امام وبانی نور مسجد ڈگلس پورہ فیصل آباد
- 8- حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ غلام محمد آباد فیصل آباد
- 9- حضرت مولانا محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ لندن فرزند حاجی واحد بخش رحمۃ اللہ علیہ
- 10- حضرت مولانا حکیم محمد شریف پتوکی رحمۃ اللہ علیہ
- 11- حضرت مولانا عبدالغفور میانوی رحمۃ اللہ علیہ
- 12- حضرت مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ
- 13- حضرت مولانا منشی محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ
- 14- حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کے تمام صاحبزادگان۔

خلفاء و مجازین

- 1- حضرت مولانا سید محمد انظر شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ابن حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند وقف
- 2- محدث کبیر حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کراچی
- 3- حضرت مولانا عبدالوحید قادری رحمۃ اللہ علیہ ڈھڈیاں شریف خلیفہ و خواہر زادہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ
- 4- حضرت مولانا عبدالجلیل قادری رحمۃ اللہ علیہ ڈھڈیاں شریف خلیفہ و برادر زادہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ

- 5- حضرت مولانا حافظ صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ کمالیہ
- 6- حضرت مفتی بشیر احمد پسروری رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ مجاز حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ
- 7- حضرت مولانا محمد سعید احمد رحمۃ اللہ علیہ ڈونگا بونگا بہاول نگر خلیفہ مجاز حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ
- 8- حضرت صوفی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ قصبہ چلیانہ شاہ پور صدر
- 9- حضرت قاری فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ تجوید القرآن رنگ محل لاہور
- 10- حضرت مولانا عبدالعزیز فیض پوری رحمۃ اللہ علیہ
- 11- حضرت مولانا عبدالقادر فیض پوری رحمۃ اللہ علیہ
- 12- حضرت مولانا عبدالکریم رحمۃ اللہ علیہ فاضل مظاہر العلوم سہارنپور شاہ پور صدر
- 13- حضرت حافظ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ چک 306 ٹوبہ ٹیک سنگھ
- حضرت مولانا انوری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادوں کو اپنے والد سے صرف اوراد و وظائف اور مجلس ذکر کرانے کی اجازت ہے۔

حضرت مولانا محمد ایوب الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ:

”ہمارے اکابر حضرات کی طرح حضرت والد صاحب کو بھی خلیفہ بنانے کا شوق نہیں تھا۔ باقی ذکر اذکار سکھانے بتلانے کا سلسلہ تھا۔ جہاں خود جاتے تھے اور بیماری کی وجہ سے وہاں نہیں جاسکتے وہاں اپنے صاحبزادوں میں سے کسی کو بھیج دیتے تھے۔“



مختصر حالات خلفاء و مجازین حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ

① حضرت مولانا سید محمد انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ (دیوبند):

پیدائش شب براءۃ ۱۳۴۷ھ۔ آپ امام العصر حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ ۱۳۷۲ھ میں دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد تقریباً تیس سال بخاری شریف جلد ثانی کی تدریس کی۔ ۱۴۰۲ھ سے تاحیات دارالعلوم دیوبند وقف میں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز رہے۔ پہلی بیعت حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کی۔ ان کے بعد حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ سے اور پھر حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کی۔ حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت و خلافت سے نوازا۔ اس کے علاوہ دیگر مشائخ سے بھی اجازت و خلافت حاصل ہے جن کے اسماء گرامی یہ ہیں:

- (1) حکیم محمد اسلام رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ مجاز حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ
- (2) حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ (کنڈیاں شریف)
- (3) حضرت مولانا حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ (کراچی) خلیفہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ (ہردوئی)

26 اپریل 2008ء میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ دیوبند میں اپنے والد

گرامی کے پہلو میں جگہ ملی۔

خلفاء:

خلافت دینے کے بارے میں بہت محتاط تھے۔ مشہور مجازین کے اسماء

گرامی یہ ہیں:

- (1) مولانا محمد ایوب الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد

- (2) حاجی سہیل شیخ صاحب
 (3) جناب شعیب ملا صاحب انگلینڈ
 (4) مفتی محمد خالد صاحب برمنگھم
 (5) صاحبزادہ حضرت مولانا سید احمد خضر شاہ مدظلہ اور کچھ حضرات کشمیر کے بھی ہیں۔

اولاد:

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیٹا اور چھ بیٹیاں ہیں صاحبزادہ حضرت مولانا سید احمد خضر شاہ صاحب مدظلہ نے 1979ء میں قدیم دارالعلوم دیوبند سے دورہ حدیث کیا اسی وقت سے تدریس کے شعبہ سے منسلک ہیں، اپنے والد گرامی سے اجازت حدیث بھی ہے اور اجازتِ طریقت بھی۔ آپ دارالعلوم وقف دیوبند میں شیخ الحدیث ہیں اور اپنے والد کے قائم کردہ مدرسہ جامعۃ الامام سید انور شاہ کے مہتمم ہیں۔ آپ کا ایک صاحبزادہ حافظ سید محمد ہمدان شاہ اور تین صاحبزادیاں ہیں۔

② حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ (کراچی):

آپ کی ولادت 1915ء میں جے پور میں ہوئی، ابتدائی تعلیم قرآن مجید، فارسی اور خطاطی گھر ہی پر حاصل کی اس کے بعد مولانا قدیر بخش بدایونی سے باقی علوم میں تحصیل کر کے سند فراغت حاصل کی۔ درسِ نظامی کے بعد 1934ء میں پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فاضل اور منشی فاضل کا امتحان پاس کیا۔ پھر حضرت شیخ حیدر حسن خان ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث و پرنسپل ندوۃ العلماء لکھنؤ سے تخصص فی الحدیث کیا۔ ان کے علاوہ ان کے برادرِ معظم مولانا محمود حسن خان ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے اور حضرت مولانا یلسین کے واسطے سے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک

اجازت حدیث حاصل کی۔

حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ خود شیخ الحدیث کے منصب پر فائز رہے۔ مصر، شام، عراق، ترکی، سعودی عرب، افریقہ اور یورپی ممالک کے طلباء حدیث ان کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ لغات القرآن آپ کی شاہکار تصنیف ہے۔ جامعہ بہاولپور اور پھر نیوٹاؤن کراچی میں تدریس فرمائی۔

مولانا نعمانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا شیخ حیدر حسن خاں ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے جو حضرت حاجی امداد اللہ فاروقی مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ مولانا نعمانی کو انہوں نے خلافت سے سرفراز فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد انوری لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اجازت و خلافت تھی۔

مولانا نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت و اجازت کا شرف حاصل ہے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے توسل کی سعادت کیسے حاصل ہوئی اس کا مختصر حال بیان فرماتے ہیں:

”میں 1945ء میں جے پور میں تھا تبلیغی جماعت کا حالی پور (جے پور ریاست) میں جلسہ ہوا وہاں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ دوران گفتگو تصوف کا ذکر چل پڑا۔ شیخ الحدیث نے اس سلسلہ کے اندر بیعت کی طرف توجہ دلائی اور یہ وعدہ کیا کہ سہارن پور آنا، اب دل میں خیال ہوا کہ تجربہ کیا جائے پھر 1946ء میں جب مرکز میں ہم نے رمضان گزارا تو وہاں شیخ الحدیث بھی تشریف فرما تھے، ایک روز انہوں نے جب ہم لوگ

مسجد میں معتکف تھے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا تم نے کیا وعدہ کیا تھا؟ میں نے کہا ان شاء اللہ رمضان کے بعد سہارن پور حاضری ہوگی، چنانچہ رمضان المبارک کے بعد شوال میں سہارن پور پہنچا اور شیخ سے عرض کیا اتنا مجاہدہ جو آپ لوگ کرتے ہیں، ذکر جہر وغیرہ کا، یہ ہمارے بس کا نہیں، جیسا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ ہم جب اپنے شیخ سے بیعت ہوئے تو ہمیں حضرت نے علمی کام سپرد کیا اور ہم اپنے علمی مشاغل میں لگ گئے لیکن کچھ دنوں بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے اندر تبدیلی ہو رہی ہے۔

شیخ الحدیث ہماری باتیں سنتے رہے فرمایا کہ اچھا ایسا ہی ہوگا میں نے مسجد میں جا کر تین مرتبہ استخارہ بھی کر لیا تھا اس حوالہ سے کہ شیخ الحدیث سے بیعت ہونا چاہیے یا نہیں، مگر شیخ الحدیث اس وقت بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور کہا رائے پور جاؤ۔

اتفاق کی بات ہے کہ دوسرے روز علی الصبح حضرت رائے پوری مع مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی تشریف لائے، شیخ نے اپنے حجرے میں میرے داخل ہوتے ہی فرمایا یہ آپ کے ساتھ رائے پور جائیں گے، یہ ”لغات القرآن“ کے مصنف ہیں، یہ سنتے ہی مولوی حبیب الرحمن لیٹے سے اٹھ بیٹھے اور کہنے لگے، میں نے تمہاری ”لغات القرآن“ کا جیل میں مطالعہ کیا ہے۔

اس کے بعد حضرت اقدس رائے پوری چائے پینے کے بعد رائے پور کی طرف روانہ ہو گئے، میں بھی ہم رکاب تھا، وہاں حضرت سے بیعت کے لیے عرض کیا تو حضرت نے وہی فرمایا میرے ہاں تو رٹہ لگتا ہے چکی پیسنی پڑتی ہے پھر انہوں نے ہماری وہ بک بک جھک اور شیخ الحدیث سے جو بحث مباحثہ ہو رہا تھا وہ سب ہی دہرا دیا۔

میں نے بیعت کے لیے اصرار کیا تو فرمایا اچھا! ذکر بتا دیتا ہوں بیعت شیخ الحدیث ہی سے ہو جانا، چنانچہ میں تین دن قیام کر کے پھر حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لے کر سہارنپور روانہ ہو گیا۔ ہاں اس بات کا ذکر بھول گیا کہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت صبح نماز کے بعد ٹہلنے کی تھی اس روز حضرت گنڈور کے پل پر جہاں سے بس سہارنپور کو جاتی ہے مجھے چھوڑنے کے لیے وہاں تک تشریف لائے، یہ اس ناکارہ پر حضرت کا غیر معمولی اکرام تھا جس کی توقع بھی میں نہیں کر سکتا تھا، یہ زمانہ گرمیوں کا تھا۔

پھر میں وہاں سے بس میں سوار ہو کر سہارنپور پہنچا، شیخ الحدیث کی خدمت میں حاضری ہوئی تو حضرت نے پوچھا کیا لڑ کر آئے ہو، میں نے کہا وہاں لڑائی کا کیا سوال ہے، وہاں تو اور ہی مضمون ہے۔ حضرت نے ذکر بتا دیا ہے اور بیعت کے لیے آپ سے کہا ہے، شیخ نے فرمایا، فوراً واپس جاؤ۔ بس اس وقت کھانا کھا لو اور واپس جاؤ اور حضرت ہی سے بیعت کرو،

چنانچہ میں کھانا کھانے کے بعد واپس رائے پور چلا گیا، رائے پور اور سہارنپور میں تقریباً تیس میل کا فاصلہ ہے واپسی گنڈور کے پل سے ہوئی تو بدن پسینہ سے شرابور تھا، سخت گرمی تھی، دوپہر کو حضرت کی خدمت میں حاضری ہوئی تو حضرت نے پوچھا کیوں واپس آئے؟ میں کہا بیعت کے لیے۔ حضرت کو میسری حالت پر رحم آ گیا۔ اور ترس کھا کر بیعت فرمایا، اور پھر فرمایا کہ مجھے بھی حضرت شاہ عبدالرحیم نے پہلے ذکر ہی بتایا تھا اسکے چار مہینے بعد بیعت لی تھی۔ پہلے چند دن رائے پور میں گزار کر آئندہ پورا چلہ رمضان کا گزارا۔ پھر حضرت کی وفات تک رائے پور جانا نصیب نہیں ہوا، البتہ جب حضرت پاکستان تشریف لایا کرتے تھے تو کوشش کرتا تھا کہ ایک چلہ رمضان میں حضرت کے ساتھ پاکستان میں ضرور گزارا جائے۔ حضرت کی وفات تک یہی معمول رہا، حضرت کی وفات ۱۴ ربیع الثانی ۱۳۸۲ھ کو ہوئی۔“ (غیر مطبوعہ انٹرویو ص 46، از پروفیسر ڈاکٹر طاہر مسعود)

آپ کے بیٹے مولانا عبدالشہید صاحب تحریر کرتے ہیں کہ ”واضح رہے کہ تقسیم ہند کے بعد حضرت رائے پوری ہندوستان ہی میں مقیم رہے، چونکہ پاکستان میں آپ کے متوسلین اور روحانی ارتباط رکھنے والوں کا ایک وسیع حلقہ تھا، اس لیے ان کے بیجا اصرار پر آپ کی پاکستان آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا، تقریباً ہر سال آپ پاکستان تشریف لاتے اور کئی کئی ماہ قیام فرماتے جہاں آپ قیام کرتے وہ جگہ خانقاہ کی صورت اختیار

کرجاتی۔

حضرت والد صاحب بھی بالا التزام حضرت کی پاکستان آمد کے بعد آپ کی صحبت سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی کوشش کرتے۔ آپ نے لاہور، فیصل آباد، مسری اور دیگر مقامات پر حضرت کی صحبت میں کئی کئی ماہ گزارے راتم الحروف کو بھی حضرت والد صاحب کی معیت میں میں حاجی متین احمد صاحب کی کوٹھی واقع ایپرس روڈ لاہور میں ایک چلہ گزارنے کی سعادت حاصل ہوئی، (حضرت والد صاحب میرے متعلق لکھتے ہیں کہ) اور اس کی نہایت خوش بختی ہے کہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ازراہ شفقت کمسنی کے باوجود اسے بیعت کی سعادت سے نوازا، اور بیعت کے بعد بطور وظیفہ کثرت سے درود شریف پڑھے کی تلقین کی۔

حضرت کا پہلا سفر پاکستان مورحہ ربیع الاول ۱۳۷۹ھ (جنوری 1949ء) براستہ کراچی بذریعہ ہوائی جہاز ہوا، ۲۶ ربیع الاول ۱۳۶۸ھ کو کراچی تشریف آوری ہوئی اور چار روز قیام رہا اس دوران حضرت رائے پوری نے والد صاحب کی قیام گاہ کو بھی رونق بخشی اور خواتین کو بیعت کی سعادت سے نوازا۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پورے سفر میں از ۲۶ ربیع الاول ۱۳۶۸ھ تا ۷ جمادی الثانی ۱۳۶۸ھ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں رہے۔ ۷ جمادی الثانی ۱۳۶۸ھ کو رخصت کے موقع پر حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت

بیعت مرحمت فرمائی۔

والد صاحب اپنی ڈائری میں تحریر فرماتے ہیں:
 ”حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ متمنی اللہ المسلمین بفیوضہم وبرکاتہم
 کی تشریف آوری پاکستان کراچی میں 25 جنوری 1949ء کو
 ہوئی، اور فقیر کو برابر 7 اپریل 1949ء بمطابق 7 جمادی
 الثانی 1368ھ شرف معیت نصیب رہا اور واپسی پر حضرت
 نے فرمایا ”جو ذکر پوچھے اسے بتادینا۔“

حضرت مولانا انوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت والد صاحب کے درمیان
 جو خط و کتابت رہی ہے اس کے بعض خطوط سے یہ ظاہر ہوتا ہے
 کہ حضرت والد صاحب تصوف اور احوال قلب کی بعض کیفیات
 کے ذیل میں حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ میں رہتے تھے۔“

1999ء میں 85 سال کی عمر میں انتقال فرمایا اور کراچی یونیورسٹی میں

تدفین ہوئی۔

اولاد:

محمد عبدالمعید نعمانی مولانا کے بڑے بیٹے تھے جو ان کی زندگی میں ہی
 انتقال کر گئے تھے۔ چھوٹے بیٹے ڈاکٹر محمد عبدالشہید نعمانی جامعہ کراچی میں شعبہ
 عربی کے عہدہ چیئر مین سے ریٹائر ہوئے ہیں۔

(مزید تفصیل کیلئے کتاب ملاحظہ کریں ”سبد گل“ ص 60 از ڈاکٹر محمد عبدالمقیت شاکر علی)

③ حضرت مولانا حافظ عبد الوحید قادری رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ:

آپ حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے اور چچا
 زاد بھائی کے پوتے ہیں۔ ولادت باسعادت 1923ء میں ڈھدیاں ہی میں

ہوئی۔ آپ کے والد مولانا محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق حضرت عالی مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے تھا۔ حفظ کے بعد مختلف مدارس و اساتذہ سے تحصیل علم کیا جن میں مولانا خیر محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد عبداللہ رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور مشکوٰۃ حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ دورانِ تعلیم بار بار بیماری اتنی سخت ہوتی جو زندگی سے ناامید کر دیتی پھر رائے پور اپنے ماموں و شیخ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں چلے گئے۔ تقسیم ہند کے بعد وطن واپسی کے موقع پر حضرت نے اجازت و خلافت دی۔ حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خلافت دی۔ ۱۳۸۲ھ میں مدرسہ عربیہ قادریہ ڈھڈیاں کی بنیاد رکھی۔ آپ روزانہ 18 سے 20 پارے نوافل میں تلاوت فرمالتے تھے۔ محرم ۱۴۱۸ھ مئی 1997ء میں انتقال فرمایا اور ڈھڈیاں ہی اپنے شیخ و ماموں کے ساتھ دفن ہوئے۔

اولاد:

دو بیٹے اور دو بیٹیاں، حضرت مولانا قاری محمد مظفر صاحب بڑے بیٹے ہیں جو مدرسہ اور سلسلہ کو چلائے ہوئے ہیں قاری لطیف الرحمن چھوٹے بیٹے ہیں جو اسی مدرسہ میں مدرس ہیں۔

خلفاء:

- آپ نے جن حضرات کو اجازت فرمائی ان میں سے چند کے نام یہ ہیں:
- (1) صاحبزادہ مولانا قاری محمد مظفر صاحب ڈھڈیاں شریف
 - (2) مولانا عبدالجبار صاحب اللہ شریف
 - (3) حافظ صوفی احمد دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ راولپنڈی
 - (4) مفتی حمید اللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکی مروت
 - (5) حاجی میاں غلام باری صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدنون صادق آباد

4 حضرت مولانا عبدالجلیل قادری رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ:

آپ حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری کے بھتیجے تھے۔ آپ کے والد گرامی حضرت مولانا حافظ محمد خلیل صاحب حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی تھے اور حضرت سے مجاز بھی تھے۔ حضرت مولانا عبدالجلیل رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید گھر ہی میں پڑھا۔ مڈل کا امتحان لاہور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا محمد عبداللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر دیا اس کے بعد دنیاوی علوم سے طبیعت متنفر ہو گئی۔ مدرسہ رائے پور گجراں میں چھ سال پڑھا۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت مولانا فضل احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی فقیر اللہ رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبدالعزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ دورہ حدیث مظاہر العلوم سہارنپور ۱۳۶۰ھ (1940ء) حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کیا۔ آپ کا قیام حضرت شیخ کے کچے گھر میں رہا اور کھانا بھی حضرت کے گھر ہی سے آتا۔ آپ حضرت شیخ کے چہیتے شاگرد تھے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد اپنے تایا حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور تقریباً بائیس سال سفر و حضر میں حاضر خدمت رہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اجازت و خلافت سے مشرف فرمایا۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اجازت و خلافت سے نوازا۔ حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سر بھی ہیں۔ 1948ء میں حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی سے آپ کا عقد ثانی حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش پر ہی ہوا تھا۔ ۱۴۳۰ھ، 21 نومبر 2009ء کو انتقال فرمایا اور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں تدفین ہوئی۔ ایک لاکھ سے زائد لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ حضرت حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جنازہ پڑھایا۔

اولاد:

پہلی اہلیہ سے ایک صاحبزادہ مولانا محمد ابراہیم ہیں اور دوسری اہلیہ سے دو صاحبزادے قاری محمد شفیق جو حضرت کی زندگی میں مکہ مکرمہ میں انتقال کر گئے تھے اور جنتہ المعلیٰ میں مدفون ہوئے اور دوسرے قاری احمد سعید صاحب ہیں جو اپنے والد سے اور حضرت نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مجاز ہیں اس کے علاوہ دو صاحبزادیاں ہیں۔ (تفصیلی حالات کیلئے ملاحظہ فرمائیں ”تذکرۃ الجلیل“ مرتبہ ابو حذیفہ عمران فاروق)

5 حضرت حافظ صدر الدین رائے کوٹی رحمۃ اللہ علیہ (کمالیہ):

حضرت حافظ صدر الدین رائے کوٹی ضلع لدھیانہ کے رہنے والے تھے۔ مدرسہ تعلیم الاسلام رائے کوٹی قائم کردہ حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ میں مکمل تعلیم حاصل کی۔ حضرت مولانا انوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو کر سلوک کی منازل طے کیں۔ سادہ مزاج، بہت بزرگ آدمی، خاموش طبیعت، اپنے آپ کو انہوں نے حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کے مطابق ڈھالا ہوا تھا۔ تقسیم ہند کے بعد کمالیہ پاکستان ہجرت کی اور مدرسہ نعمانیہ میں تدریس فرمانے لگے۔ اس کے بعد فاروقیہ مسجد کی بنیاد رکھی۔ اسی فاروقیہ مسجد کمالیہ کے امام تھے اور مدرسہ نعمانیہ میں مدرس بھی تھے۔ فاروقیہ مسجد کی جگہ یہاں پہلے تانگوں کا اسٹینڈ تھا۔ آپ نے یہ جگہ خرید کر مسجد بنائی تھی۔ اسی دوران انتظامی امور میں کچھ اختلاف واقع ہو گیا جس کی وجہ سے آپ نے مدرسہ نعمانیہ چھوڑ کر فاروقیہ مسجد میں مدرسہ قائم فرمایا۔ آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی نے 2007ء تک خطابت کے فرائض انجام دیئے۔ یہ کمالیہ شہر کی اولین مساجد میں سے ایک ہے۔ اب حضرت کے پوتے مولانا لطف اللہ بن حضرت مولانا محمد احمد خطابت سنبھالے ہوئے ہیں۔

آپ کا انتقال 3 نومبر 1995ء بروز جمعہ کمالیہ میں ہوا۔ مولانا خلیل الرحمن انوری بن مولانا عزیز الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ نے غسل دیا اور حضرت مولانا سعید الرحمن انوری نے جنازہ پڑھایا۔ اور قبرستان ملحقہ عیدگاہ (قائم کردہ 1918ء) میں تدفین ہوئی تقریباً 93 سال عمر پائی۔

اولاد:

چھ بیٹے: (1) ظفر الدین (2) عطاء اللہ (3) حفیظ اللہ (4) مولانا حافظ محمد احمد (5) حبیب اللہ (6) ضیاء اللہ اور تین بیٹیاں۔

خاص تلامذہ:

(1) حافظ شاہ محمد، کمالیہ (2) حافظ محمد حسن، کمالیہ (3) مولانا عزیز الرحمن انوری (4) مولانا سعید الرحمن انوری (5) حافظ محمد ثاقب، گوجرانوالہ

حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ مولانا حافظ محمد احمد لدھیانوی بیان فرماتے ہیں کہ میرا نام حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نام پر محمد رکھا تھا۔ گھر والوں نے ضیاء اللہ رکھا تھا جب جامعہ رشیدیہ ساہیوال میں داخل ہوا تو حضرت مولانا حبیب اللہ رشیدی رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھ احمد لگا دیا۔ ہمارے ابا جی اپنے خاندان میں پہلے حافظ تھے، ابا جی کو چھوٹی عمر میں گنٹھیا کی بیماری تھی انہیں اٹھا کر مدرسہ میں چھوڑ کر آتے تھے۔ جب قرآن مجید مکمل کیا تو صحت یاب ہو گئے۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے رائے کوٹ کی بات ہے۔ حافظ عبدالغفور صاحب غلام محمد آباد فیصل آباد میں ہوتے تھے۔ وہ وہاں استاذ تھے۔

جب حضرت مولانا انوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تو ابا جی کی خوشی کی انتہا نہ ہوتی اور خوب اہتمام فرماتے۔ ابا جی کی بڑی خواہش تھی کہ ان کی اولاد حافظ بنے سب بھائیوں کے لیے کوشاں رہے مگر یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے مجھے دینی تھی۔ مجھے

اباجی نے ناظرہ پڑھا کر سکول میں داخل کروادیا۔ مگر یہ ان کی دلی خواہش نہ تھی لیکن قدرت کا فیصلہ سمجھ کر قبول کیا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں میں نے تیسواں پارہ حفظ کر لیا۔ اور میں نے اباجی سے عرض کیا کہ سکول کی بجائے میں مدرسہ پڑھنا چاہتا ہوں تو اباجی بے انتہا خوش ہوئے۔ چنانچہ میں نے حفظ شروع کر دیا۔ جب میں حافظ بنا تو خوشی سے پھولے نہیں سمارہے تھے اور بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا۔ اباجی کے بعد خاندان میں میں دوسرا حافظ تھا۔ میں جب گھر جاتا تو اباجی کا والدہ کو حکم تھا کہ چار پائی پر صاف کپڑا بچھا کر اسے بٹھایا کرو۔ بیٹا سمجھ کر نہیں عالم دین سمجھ کر۔ جب لوگ اس کے ساتھ یہ اکرام کرتے ہیں تو ہم گھروالے کیوں نہ کریں۔

1952ء دسمبر میں میری پیدائش ہوئی میں جب درس قرآن دیتا تھا تو اباجی فرماتے کہ حضرت مولانا انوری رحمۃ اللہ علیہ جب درس قرآن دیتے تھے تو ترجمہ والا قرآن مجید سامنے کھول کر رکھتے تھے اور فرماتے یہ اس لیے کہ کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے اس درجہ احتیاط تھی۔

1971ء میں زمانہ طالب علمی میں چیچہ وطنی کے قریب ایک گاؤں میں مصطلی سنانا شروع کیا، گاؤں والے بہت مطمئن ہوئے اور انہوں نے مدرسہ بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ چنانچہ چار کنال جگہ خرید کر مدرسہ بنایا جس کا نام مدرسہ تعلیم الاسلام رکھا۔ مجھے اباجی نے کہا کہ حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ اور سارے حالات ان کے سامنے رکھو۔ جیسے وہ فرمائیں ویسا کرنا ہے۔ میں حضرت انوری کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ جائیں اور اس لیے جائیں کہ ہمارے علماء کرام شہروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ دیہاتوں میں نہیں جاتے وہاں اکثر بدعات ہوتی ہیں اور ان پڑھ سے لوگ مولوی بن کر وہاں چلے جاتے ہیں وہ بریلوی نہیں بلکہ بدعتی ہوتے ہیں انہوں نے لوگوں کو بدعتوں پر لگایا ہوتا

ہے اگر ہمارے علماء جائیں اور ان کے عقیدوں کی اصلاح کریں تو وہی لوگ موحد بن جائیں گے۔ اس نیت سے جانا ہے اور ان سے تنخواہ کا مطالبہ نہیں کرنا جو دے دیں قبول کر لو۔ جتنی دیر آپ کو رکھنے والے آپ سے درست رہیں اتنی دیر رہیں اور جب وہ گڑبڑ کریں تو ان سے الجھنا نہیں اور چپ چاپ آجانا اور کبھی تنخواہ میں اضافہ کا مطالبہ نہیں کرنا۔ ان کی مرضی بڑھا دیں تو ٹھیک۔ چنانچہ 1977ء تا 1989ء تک میں وہاں رہا۔

جب میں فیصل آباد جاتا تو اباجی آتے ہی پوچھتے کہ سنت پورہ حضرت کے پاس گئے تھے۔ اگر کبھی کہہ دیتا کہ نہیں تو ناراضگی کا اظہار فرماتے اور کہتے اپنوں کو مل کر آتے ہو اور میرے حضرت کو مل کر نہیں آتے۔ سنت پورہ کو اپنا ہی سمجھتے تھے۔ ہم حضرت کے سب بیٹوں کو بھائی جان کہہ کر ہی بلاتے تھے بالکل گھر جیسا تعلق تھا۔

اباجی فرماتے تھے کہ جلسوں پر جانا ہے تو کسی سے پہلے رقم طے نہیں کرنی۔ وقت ہو تو چلے جاؤ ورنہ معذرت کر لو۔ کچھ ہدیہ دیں تو رکھ لو نہ دیں تو برا نہیں منانا۔ اباجی کا انداز یہ تھا کہ اگر کوئی ملنے آتا تو پہلے اُسے بٹھاتے پھر خود بیٹھتے۔ مجھے فرمایا کرتے تھے لیڈر بننے کی کوشش نہ کرنا بس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا سپاہی بن کر رہنا، میرا اعزاز یہ ہوگا کہ میں کہوں گا میرا بیٹا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا سپاہی ہے۔ ایک مرتبہ میں سفر پر روانہ ہوا اور پیچھے ان پر فالج کا حملہ ہو گیا۔ بولنا بند ہو گیا کچھ دن بیماری کی حالت میں رہے اور انتقال فرمایا۔

میرا حضرت مولانا ایوب الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ سے عمر کا فرق کم تھا؛ اس لیے کچھ بے تکلفی تھی کیونکہ میں فیصل آباد تین سال پڑھتا رہا ہوں 1973ء تا 1975ء تک تو جب فارغ ہوتے تو سنت پورہ آجاتا مولانا مسعود الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ

سے گپ شپ کافی لگتی تھی۔

میری پہلی بیعت حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے تھی اس کے بعد حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ کنڈیاں والوں سے تھی اور تیسری بیعت حضرت مولانا عبدالجلیل رحمۃ اللہ علیہ سے ڈھڈیاں میں کی۔ میں پہلی بار جب حضرت مولانا عبدالجلیل رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے گیا تو حضرت چارپائی پر تھے ایک کرسی منگوا کر مجھے قریب بٹھالیا پُرانا کچا کمرہ تھا۔ حضرت مولانا عبدالجلیل رحمۃ اللہ علیہ مجھے پہلے پوری طرح نہیں جانتے تھے اور میرا قلبی لگاؤ رائے پوری سلسلہ سے تھا کیوں کہ ہم پہلے ہی رائے پوری تھے حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تم مولانا انیس الرحمن لدھیانوی کے کیا لگتے ہو؟ میں نے نفی میں جواب دیا پھر مولانا بیچی لدھیانوی سے تعلق پوچھا تو میں نے پھر نفی میں جواب دیا۔ پھر پوچھا کہ کس کے بیٹے ہو؟ جب میں نے اباجی کا نام لیا تو کھڑے ہو کر مجھے سینے سے لگایا اور کچھ دیر لگائے رکھا پھر فرمایا میری اہلیہ کے استاذ کے تم بیٹے ہو۔ تمہارے والد میری اہلیہ کے استاذ ہیں تو میرے بھی استاذ ہیں پھر میں وقتاً فوقتاً حاضر ہوتا رہا حضرت کے جنازے میں شرکت کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ (مولانا محمد احمد لدھیانوی کو والد محترم حضرت مولانا محمد ایوب الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ نے ۲۹ صفر ۱۴۳۴ھ 12 جنوری 2013ء کو اجازت و خلافت سے نوازا تھا۔ از محمد راشد انوری)

⑥ حضرت مفتی بشیر احمد پسروری رحمۃ اللہ علیہ:

آپ کی پیدائش 1905ء میں ”وہوا“ نامی بستی میں ہوئی۔ مفتی صاحب تحصیل علم کے بعد 1924ء میں سرزمینِ قصور میں رونق افروز ہوئے پچاس سال کا عرصہ اس طرح گزارا کہ پسرور کو پہچان مل گئی حضرت نے نہ صرف اپنی تقریر بلکہ تحریر سے اس علاقہ کو خوب سیراب کیا یہ شہر ”تلوار والے مفتی صاحب“ کا شہر،

حضرت پسروری کا شہر مشہور ہوا۔

مرزائیت ورافضیت کے رد اور فضائل و سیرت کے مختلف عنوانات پر تقریباً تیس کے قریب مختصر و مفصل رسائل تحریر کیے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور خلافت سے سرفراز ہوئے۔

حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت کے باوجود ان کی تشنگی ابھی باقی تھی وہ بار بار حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ مجھے اپنے سلسلہ میں داخل فرمائیں اور اجازت دیں۔ حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے احوال دریافت فرمائے اور اجازت عنایت فرمائی حضرت مفتی صاحب نے دسمبر 1974ء میں انتقال فرمایا۔

حضرت کا سلسلہ خوب پھیلا۔ ان کے مشہور خلیفہ مولانا ظفر احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ واہگہ بارڈر اور مولانا جمیل احمد میواتی (رائیونڈ) تھے۔ حضرت میواتی رحمۃ اللہ علیہ نے ملک کے طول و عرض میں خوب مجالس ذکر اللہ قائم کیں۔ جن کے جانشین مفتی محمد سعید صاحب (رائیونڈ) آپ کے مشن پر گامزن ہیں۔ (مزید حالات کے لیے ملاحظہ کریں ”مولانا مفتی بشیر احمد پسروری اور ان کے خلفاء“ از ڈاکٹر حافظ فیوض الرحمن) **7** حضرت مولانا محمد سعید احمد رحمۃ اللہ علیہ (ڈونگہ بونگہ):

آپ کی ولادت باسعادت ۱۳۲۸ھ، 1910ء کو موضع ڈربہ ضلع حصار مشرقی پنجاب میں ہوئی۔ چار یا پانچ برس کے تھے کہ آپ اپنے والد مولانا خلیل احمد رحمۃ اللہ علیہ کے سایہ شفقت سے محروم ہو گئے۔ آپ نسباً علوی کھوکھر ہیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم ڈربہ اور اس کے مضافات میں حاصل کی۔ پھر مدرسہ رشیدیہ رائے پور گجراں میں زیر تعلیم رہے۔ یہاں آپ کے اساتذہ حضرت مولانا عبدالعزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا فضل احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی فقیر اللہ رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، کچھ

عرصہ مدرسہ خیر المدارس جامعہ محمدی جالندھر میں بھی تعلیم حاصل کی۔ پھر مدرسہ امینیہ دہلی داخلہ لیا جہاں آپ کے اساتذہ مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ شامل تھے۔ اس کے علاوہ جن مدارس میں تعلیم حاصل کی ان میں مدرسہ عبدالرب دہلی، مظاہر العلوم سہارن پور شامل ہیں آپ نے سولہ برس علوم دینیہ کی تحصیل کی اور دارالعلوم دیوبند میں حاضر ہو کر تکمیل کی۔ اس کے بعد حصول علم لدنی و روحانی کے لیے اپنے استاذ حضرت مولانا عبدالعزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مشورہ سے حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رائے پور حاضر ہو کر بیعت کی۔ یہ 1934ء کی بات ہے اور خوب ریاضت و مجاہدے فرمائے۔ آخر 1952ء کے اواخر میں خلافت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خلفاء میں شمار ہوئے ایک بار آپ کو حضرت رائے پوری نے فرمایا: ”ماشاء اللہ آپ تو فائز المرام ہیں“ اور ایک بار ایک مرید کو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے تحریر فرمایا کہ ”ان سے بیعت ہو جانا احقر سے ہی بیعت ہونا ہے“ 31 مارچ 1980ء بعد عشاء انتقال فرمایا۔ حضرت مولانا عبدالعزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جنازہ پڑھایا اور مدرسہ عربیہ رحیمیہ عید گاہ میں ہی تدفین ہوئی۔

آپ کا حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی گہرا تعلق تھا حضرت مولانا انوری رحمۃ اللہ علیہ جب ڈھڈیاں ہوتے تو مولانا بھی تشریف لے آتے اور کیفیات بتاتے اور ساتھ ہی معمولات مکمل فرماتے جب حضرت مولانا انوری رحمۃ اللہ علیہ ڈونگہ بونگہ تشریف لے جاتے تو بہت اکرام فرماتے ہر وقت ان کے پاس بیٹھے رہتے۔ اور اپنے مریدوں کو حضرت مولانا انوری رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کا فرماتے اور بہت بلند الفاظ فرماتے حضرت مولانا انوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کو خلافت و اجازت سے نوازا۔ کوہ نور ملز فیصل آباد میں رانا نصر اللہ صاحب کے ہاں جب حضرت مولانا عبدالعزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا

قیام ہوتا تھا تو مولانا بھی قیام فرماتے تھے۔

حضرت مولانا سعید احمد رحمۃ اللہ علیہ کی دو بیویاں تھیں پہلی اہلیہ میں سے ایک بیٹا مولانا ماسٹر شبیر احمد اور ایک بیٹی ہے، دوسری اہلیہ سے چار بیٹے: (1) مولانا محمود الحسن (2) مولانا حسین احمد (3) حافظ ماسٹر محمد قاسم (4) مولانا عبدالقادر انجم اور دو بیٹیاں ہیں۔

(تفصیلی حالات کے لیے ملاحظہ فرمائیں ”تذکرۃ السعید“ مؤلفہ مولانا عبدالقادر انجم)

8 حضرت صوفی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلیپانہ شاہ پور:

حضرت صوفی نور محمد ولد فتح محمد کی ولادت 1908ء میں گاؤں جلیپانہ نزد شاہ پور ضلع سرگودھا میں ہوئی۔ قرآن مجید کی تعلیم میاں غلام احمد سے حاصل کی۔ 1956ء میں صوفی عبدالحمید صاحب کی کوٹھی میں جب حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا قیام تھا تو صوفی نور محمد اور مولانا عبدالکریم خطیب جامع مسجد مہاجرین شاہ پور صدر دونوں نے اکٹھے بیعت کی۔ خوب ذکر اذکار اور مجاہدہ کیا حضرت اقدس رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد حضرت مولانا عبدالجلیل رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبدالوحید رحمۃ اللہ علیہ سے مکمل رابطہ رکھا اور حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کثرت سے حاضری رکھی۔ حضرت قاضی عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملاقات رہتی تھی۔ حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ شاہ پور صدر تشریف لائے تو رات جلیپانہ میں بسر فرمائی۔ حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں اجازت و خلافت سے نوازا۔

آپ نے ایک سال حج کا ارادہ کیا لیکن نہ جاسکے پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ صوفی صاحب کیوں دیر کر رہے ہو؟ پھر دس ساتھیوں کے ہمراہ 1970ء میں حج کی درخواست دی اور اللہ نے حج کی سعادت بخشی۔ چار ماہ کے اس سفر سعادت میں پورا ایک ماہ مدینہ طیبہ میں قیام کیا حضرت اقدس رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ

کے بتائے ہوئے اذکار و تعویذات کا کام فی سبیل اللہ کیا۔ طب میں بھی خاصا تجربہ تھا۔ عورتوں کی نبض نہ دیکھتے تھے بلکہ حقیقت پر دوادیتے تھے۔ حافظ عنسلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جھاؤریاں سے اکثر ان کے پاس آتے اور دونوں مل کر ذکر و عبادت کرتے۔ آپ نے دعوت و تبلیغ میں زیادہ وقت گزارا۔ اور آپ کی خواہش کی مطابق اللہ تعالیٰ نے موت بھی انہیں اسی راستہ میں عطا کی 4 اگست 1988ء کو سرگودھا تبلیغی مرکز شب جمعہ کے لیے تشریف لے گئے جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب بعد نماز تہجد دل کی تکلیف ہوئی اور 6 اگست 1988ء کو وصال ہوا۔ حضرت مولانا عبد الوحید صاحب نے جنازہ پڑھایا۔ اور جلاپانہ کے قریب بڑے قبرستان میں مدفون ہوئے۔

اولاد:

پانچ بیٹے اور دو بیٹیاں: (1) محمد یوسف (2) گل محمد (3) دوست محمد (4) علی محمد (5) محمد یعقوب

⑨ حضرت قاری فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ (لاہور):

اپنے زمانے کے نامور قاری استاذ القراء الحاج الحافظ القاری فضل کریم بن حاجی مہتاب الدین 1902ء کے لگ بھگ امرتسر میں پیدا ہوئے، اجداد ہندو تھے، تین چار پشتوں سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق نصیب فرمائی۔ حضرت قاری صاحب اپنے والد صاحب کے نکاحِ ثانی سے تھے، پہلے نکاح سے صرف ایک بچی کی پیدائش کے بعد والدہ انتقال کر گئیں۔ دوسرے نکاح سے سات بچے ان سے پہلے پیدا ہوئے مگر برضاءِ الہی و وفات پا گئے۔ پھر کسی بزرگ کی دُعا سے قاری صاحب کی پیدائش ہوئی اور انہی کے حسبِ ارشاد بچہ کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ آپ کی عمر بمشکل چند ماہ تھی کہ والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا، والد نے آپ کی

پرورش کے لیے ایک بیوہ سے نکاح کر لیا جن کے اپنے بھی بچے تھے۔ سوتیلی ماں کا سلوک اچھا نہ تھا، انہی دنوں چچک کی بیماری کی شدت سے آنکھوں سے معذور ہو گئے، آپ کے ملحقہ مکان میں آپ کی تائی صاحبہ نے آپ کو گود لے لیا جن کا ایک بیٹا عبدالکریم تھا اسی نسبت سے انہوں نے آپ کا نام فضل کریم رکھا اور یہ ایسا مشہور ہوا کہ بیٹی نام سب بھول گئے۔ سات آٹھ سال کی عمر میں آپ نے مولانا قاری خدا بخش مراد آبادی (1980ء) سے آٹھ دس پارے پڑھے، پھر حافظ عبداللطیف سنہجلی کے پاس قرآن مجید پورا کیا اور تجوید مولانا قاری کریم بخش امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ اس کے بعد قاری صاحب لاہور آ گئے اور مال روڈ پر ڈاکٹر عزیز الدین کے ہاں پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد ضلع گورداسپور میں بھی کسی کے ہمراہ گئے اور کچھ مدت وہاں رہے۔ پھر آپ نے مسجد چینیا نوالی (بازار سریا نوالہ) لاہور کو آباد کیا تو اس وقت آپ کے پاس صرف ایک طالب علم تھا۔ تقریباً بیس سال پڑھایا۔ پھر مدرسہ تجوید القرآن کوچہ گند یگراں مسجد نور موتی بازار میں قائم کیا، جو بعد میں ایک حویلی خرید کر وہاں منتقل ہو گیا تھا۔ کم و بیش چالیس سال کا تجربہ تھا۔ آپ کی قرأت میں زبردست روانی کشش اور مد و جزر کی کیفیت ہوتی۔ ان کے شاگردوں میں طالبات بھی ہوتی تھیں مگر کبھی بے جھجک سامنے نہیں جاتے تھے بلکہ چند کم عمر لڑکوں کو سبق یاد کرنے کے لیے بھیج دیتے، پھر خود جاتے۔ لڑکیوں کے بالکل سامنے منہ کر کے نہ بیٹھتے تھے بلکہ ہمیشہ قدرے رُخ موڑ کر بیٹھتے۔ کبھی مالی پریشانی ہوتی تو گھبراتے نہیں تھے بلکہ اکثر ورد زبان رہتا:

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔

ان کی چال، ڈھال، لباس، گفتگو، خوراک میں عاجزی تھی۔ اکثر یہ

دعا پڑھتے:

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِيْ مُسْكِيْنًا وَّ اَمْتِنِيْ مُسْكِيْنًا وَّ اَحْشُرْنِيْ فِيْ
زُمْرَةِ الْمَسْكِيْنِ۔

خود شاعر تھے، فضل متخلص تھا۔ ان کی شاعری عشق حبیب ﷺ اور
عشق دیار حبیب ﷺ تک محدود تھی۔ 1952ء میں واحد حج ادا کیا، فوٹو کھوانے
سے احتراز فرماتے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ قاری
صاحب پر توحید و سنت غالب تھی، بدعات سے سخت نفرت تھی۔ منکرین حدیث،
قادیانیت اور دیگر فرقوں اور فتنوں کی سختی سے تردید فرماتے تھے۔ حضرت مولانا
شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی
محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاری عبدالمالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر
ہوتے، حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ سے گہرے روابط تھے؛ چنانچہ خلافت و
اجازت سے نوازے گئے۔ آپ کی شخصیت قرآن پاک کی بدولت ایسی مشہور
ہوئی کہ طلباء و قراء ”بڑے قاری صاحب“ کہہ کر پکارتے۔

ایک بار صوفی عبدالحمید صاحب کی کوٹھی پر حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی
خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ سلام کر کے
دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو خادم نے آپ کا تعارف کروایا۔
حضرت نے حکم فرمایا کہ ان کے لیے کرسی لاؤ اور قاری صاحب کو کرسی پر بٹھایا۔
پھر باتوں باتوں ہی میں خادم سے پوچھا کیا قاری صاحب نابینا ہیں؟ قاری صاحب
نے دبی ہوئی آواز میں عرض کیا جی ہاں! حضرت نے فرمایا، قاری صاحب! ہم بھی
تو نابینا ہیں۔ پھر قاری صاحب سے تلاوت کی فرمائش کی۔ آپ نے سورۃ یوسف
کے آخری رکوع کی تلاوت کی اور حضرت سے دعا کروا کر اجازت لی اور واپسی پر
فرمانے لگے کہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ان الفاظ سے زمین میرے قدموں

تلے سے نکل گئی۔

1955ء میں آپ جناب محمد یوسف سیٹھی صاحب کے ساتھ ایبٹ آباد تشریف لے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”فضل کریم تھل میں بوٹا لگاؤ“ آپ نے یہ خواب سیٹھی صاحب کو بیان کیا تو انہوں نے یہ تعبیر و تاویل فرمائی کہ سرزمین ہزارہ حفاظ و قراء کے فقدان کی وجہ سے تھل کی طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہاں قرآن مجید کا مشتم بوٹا لگانے کا حکم فرمایا ہے اور سیٹھی صاحب مولانا محمد اسحاق خطیب و مفتی ضلع ہزارہ سے ملے اور ان کے سامنے صورتِ حال رکھی، انہوں نے خوشی سے اسی وقت چندہ جمع کر کے حضرت قاری صاحب سے مدرسہ کا افتتاح کروایا۔ قاری صاحب نے اپنے ایک شاگرد سے جو حرین شریفین کے سفر کے لیے روانہ ہو رہے تھے فرمایا:

”اگر یہاں پاکستان میں رہ کر وہاں یعنی حرین شریفین کی یاد رہے تو ثواب ملے گا اور اگر وہاں رہ کر پاکستان کو ترجیح دو تو جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔“

23 جون 1970ء صبح گیارہ بجکر پندرہ منٹ پر انتقال ہوا۔ وصیت کے مطابق حافظ قاری محمد رفیع صاحب مہتمم مدرسہ تجوید القرآن نے نماز جنازہ پڑھائی اور اور جیا موسیٰ کے قدیم قبرستان میں سپرد خاک کیے گئے۔

حضرت قاری صاحب نے دو نکاح کیے پہلی اہلیہ وفات پا گئی تھیں اور ان سے کوئی اولاد نہ تھی، دوسرے نکاح سے تین بچے ہوئے، ایک لڑکا حافظ قاری افضل الحق اور دو لڑکیاں۔ (تفصیل کیلئے ملاحظہ فرمائیں ”سوانح حضرت قاری فضل کریم“ مصنفہ بریگیڈیئر (ر) قاری فیوض الرحمن)

10 حضرت مولانا عبدالعزیز فیض پوری رحمۃ اللہ علیہ:

حضرت مولانا عبدالعزیز بن مولانا محمد حسن 1892ء میں فیض پور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد نے اپنے شیخ عبدالعزیز لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر آپ کا نام رکھا۔ اپنے والد سے ہی علوم اسلامیہ حاصل کیے۔ پھر 1911ء میں حکیم حاجی احمد علی قصوری سے طب کی تعلیم پائی پھر واپس قصور آگئے آپ کے والد نے حضرت میاں شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر اپنی اولاد و خاندان کو بھی ترغیب دی چنانچہ حضرت مولانا عبدالعزیز بھی حضرت شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے۔ حضرت کی آپ کے والد اور آپ پر بہت توجہ تھی۔ میاں شرپوری رحمۃ اللہ علیہ کا علماء دیوبند سے گہرا ربط تھا۔ اور نماز کے وقت حضرت مولانا عبدالعزیز کو امامت کے لیے فرماتے۔ 1929ء میں حضرت شرپوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط بھیجا اور ان سے حاضری اور بیعت کی اجازت طلب کی لیکن موقع نہ ملا تو آپ نے حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا تعلق قائم کیا اس کے بعد حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ سے گہرا تعلق قائم ہو گیا اور اجازت و خلافت سے نوازے گئے۔

آپ نے چودہ بار حج کا مبارک سفر فرمایا۔ حاکم سعودیہ ملک عبدالعزیز نے آپ کی دعوت فرمائی۔ وہاں علماء حرمین شریفین سے ملاقات اور مدارس دینیہ کا دورہ بھی کیا۔ 1930ء میں آپ کو مدرسہ علوم شریعیہ مدینہ منورہ کے استاذ حدیث مولانا رشید احمد نے اجازت حدیث عطا فرمائی۔ وہاں بالخصوص معلم ہاشم سلیمان اور زین العابدین سے بہت اچھے تعلقات قائم ہوئے۔ آپ نے 1952ء میں قصبہ پولی شاہ میں مسجد نعمانی تعمیر کروائی۔ آپ کے والد نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قادیانیت کے خلاف کام کیا۔ اور اپنی اولاد کی بھی تربیت کی چنانچہ

حضرت مولانا عبدالعزیز نے 1935ء میں علماء کی جماعت کے ساتھ قادیان کی طرف سفر کیا۔ آپ کے ہمراہ مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات بھی تھے۔ آپ نے ایک جماعت ”انجمن تبلیغ الاسلام“ کی بنیاد رکھی جس کے تحت اکابر علماء کے بیانات کروائے جاتے تھے۔ آپ نے مختلف شہروں کے اسفار بھی کیے جن میں سرہند، دہلی، دیوبند، سہارنپور وغیرہ شامل ہیں اسی طرح صوبہ پنجاب اور سندھ میں تبلیغی اسفار کیے۔

آپ کو عربی، فارسی، اردو اور پنجابی کلام (اشعار) پر بھی عبور تھا۔ آپ نے قصیدہ رباعیہ بھی لکھا۔ آپ دراز قد اور گھنی داڑھی والے تھے۔ آپ کا انتقال ۲۲ جمادی الاولیٰ ۱۳۹۲ھ بمطابق 14 جولائی 1974ء کو صبح کی اذان کے وقت تقریباً 82 سال کی عمر میں ہوا۔ بعد ظہر نماز جنازہ ادا کی گئی اور پولی شاہ قبرستان میں تدفین ہوئی۔ آپ نے دو نکاح فرمائے، پہلی زوجہ سے چھ بچے ہوئے جو چھوٹی عمر میں ہی وفات پا گئے۔ دوسری زوجہ سے بھی چھ بچے ہوئے جن میں پانچ وفات پا گئے تھے صرف ایک بیٹا حسین احمد حیات رہے جن سے سلسلہ اولاد جاری ہوا۔ (پی ایچ ڈی مقالہ مولانا محمد حسن فیض پوری رحمۃ اللہ علیہ از مولانا محمد الیاس فیصل، صفحہ 76)

11 حضرت مولانا عبدالقادر فیض پوری رحمۃ اللہ علیہ:

حضرت مولانا عبدالقادر بن مولانا محمد حسن کی پیدائش 1909ء میں فیض پور میں ہوئی۔ آپ کا نام آپ کے والد صاحب نے اپنے شیخ کے والد عبدالقادر لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر رکھا۔ آپ نے اپنے والد سے علوم اسلامیہ کی تعلیم حاصل کی اور اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا عبدالعزیز فیض پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سرکاری سکول میں ملازم رہے۔ آپ ایک دینی مدرسہ کے مہتمم بنائے گئے پھر ساری عمر وہیں خدمات سرانجام دیں آپ نے اپنے والد اور بڑے بھائی کی

ترغیب پر میاں شیر محمد شرقی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی ان کی وفات کے بعد حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے وصال کے بعد حضرت مولانا محمد انوری لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کیا۔ اور خلافت واجازت سے مشرف ہوئے۔

آپ نے چار بار حج کا سفر فرمایا۔ آپ نے 1935ء میں قادیان میں ایک اجتماع کے لیے سفر کیا۔ اس کے علاوہ سرہند، دہلی، دیوبند کی طرف بھی سفر کیا۔ سکول میں ہیڈ ماسٹر کے عہدے پر فائز تھے۔ اسی دوران مدرسہ تعلیم الاسلام قائم کیا۔ جس سے سینکڑوں حفاظ تیار ہوئے۔ آپ نے اردو، فارسی، پنجابی میں شاعرانہ کلام بھی کہا۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام لاہور میں اپنے بیٹے مولانا عبدالشکور کے ہاں گزارے، اور کوٹ عبدالسالک میں 19 شوال 1307ھ بمطابق 20 نومبر 1988ء کو 79 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ اور پولی شاہ قبرستان میں سپردِ خاک کیے گئے۔

آپ کا نکاح چونیاں کے عالم صالح یار محمد صاحب کی صاحبزادی سے ہوا جس سے چھ بیٹے اور تین بیٹیاں ہوئیں: (1) عبدالشکور (2) عبداللطیف (3) محمود حسن (4) محمد ادریس (5) عبدالحفیظ (6) مسعود حسن۔

(پی ایچ ڈی مقالہ مولانا محمد حسن فیض پوری رحمۃ اللہ علیہ از مولانا محمد الیاس فیصل، صفحہ 84)
(حضرت والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے دادا جان کے خلفاء کی جو فہرست لکھوائی تھی اس میں مولانا عبدالقادر فیض پوری کا نام شامل نہیں ہے ان کے بیٹے مولانا عبدالشکور کی نشاندہی پر نام شامل کر دیا ہے۔ از محمد راشد انوری)

12 حضرت مولانا عبدالکریم مظاہری رحمۃ اللہ علیہ (شاہ پور صدر):

مولانا عبدالکریم بن مولانا فتح محمد نے مولانا محمد بخش صاحب سے جھاڑیاں میں کچھ عرصہ پڑھا، قیام پاکستان سے پہلے آپ نے مظاہر العلوم

سہارنپور میں تعلیم حاصل کی اور حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے سند تکمیل حاصل کی۔ مولانا گل شیراٹک والے، مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رہا، یہ حضرات شاہ پور بھی تشریف لاتے تھے، حضرت صوفی عبدالحمید کی کوٹھی پر لاہور میں حضرت اقدس رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی ساتھ صوفی نور محمد چلپانہ والے بھی تھے۔ پھر حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم ہو گیا حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ بھی شاہ پور تشریف لے جاتے تھے۔ پھر حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت و خلافت سے مشرف ہوئے۔ ابتداء میں آپ نے غوثیہ مسجد شاہ پور صدر میں خطابت فرمائی پھر جامع مسجد مہاجرین بنوائی اور چالیس سال وہاں خطابت فرمائی پھر اپنی ذاتی جگہ پر جامع مسجد شاہ خالد تعمیر کی ساتھ ہی مدرسہ جامعہ حنفیہ کی بنیاد رکھی۔ مفتی عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ساہیوال سرگودھا اور مولانا محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ خوشاب آپ کے ساتھی تھے۔ جنازہ بھی آپ کی وصیت کے مطابق مفتی عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا اور تدفین بھی وصیت کے مطابق جامع مسجد شاہ خالد کے احاطہ میں ہوئی آپ نے زکوٰۃ و عشر کے مسائل پر اور کچھ اور کتب بھی تحریر کی تھیں جو اب محفوظ نہیں۔ یہ کتب صدر محمد ضیاء الحق کو بھی پیش کی تھیں۔ جب پہلی بار حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو آپ سے اولاد کا پوچھا جس پر آپ نے نفی میں جواب دیا اور عرض کیا کہ دعا فرمائیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی۔ جب اگلی بار تشریف لائے تو پھر دریافت فرمایا تو آپ نے بیٹے کی خوشخبری سنائی پوچھا کیا نام رکھا فرمایا مسعود الرحمن شعلہ بیان قاری القرآن۔ حضرت شاہ جی ہنسنے لگے کہ یہ تو چھوٹا سا نام ہے آپ پوری سورہ رحمن ملا لیتے۔ حضرت مفتی محمود صاحب سے بھی بڑا تعلق تھا۔ وہ بھی آپ کے ہاں شاہ پور تشریف لاتے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بادشاہی مسجد کی خطابت کی پیشکش کی لیکن آپ نے شاہ پور ہی رہنا پسند فرمایا۔

18 اپریل 1984ء کو انتقال ہوا۔ پانچ بیٹے: (1) مسعود الرحمن
(2) فاروق الرحمن (3) قاری انور محمود عابد (4) ارشد محمود (5) نعیم احمد اور تین
بیٹیاں ہیں۔

اپنے ایک بیٹے کا نام حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے انور رکھا۔
حضرت مولانا محمد ایوب الرحمن نے بتایا کہ آپ اکثر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو
اپنے علاقے میں لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی طرح انہوں نے کچھ لوگوں کو
بیعت کروانے کا عرض کیا تو والد صاحب نے فرمایا میں بیماری اور تکلیف میں ہوں
آپ بیعت کر لیں۔ انہوں نے عرض کی کہ کس طرح بیعت کروں آپ مجھے لکھ کر
بھیج دیں چنانچہ والد صاحب نے بیعت کے الفاظ و طریقہ خط میں لکھ کر بھیج دیا۔
13 حضرت حافظ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ (ٹوبہ ٹیک سنگھ):

قیام پاکستان سے قبل مولانا محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ (میاں چنوں) کے پاس
حفظ قرآن مکمل کیا۔ دینی علوم علی گڑھ مدرسہ میں مولانا عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل
کیے۔ جامعہ مدنیہ شورکوٹ کینٹ کے بانی مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھیوں
میں سے تھے۔ آپ نے 1952ء میں چک نمبر 306 گ ب ٹوبہ ٹیک سنگھ میں
مدرسہ اسلامیہ قادریہ قائم کیا جس کی بنیاد حضرت مولانا نیاز احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ (تلمبہ)
خلیفہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی۔ حضرت اقدس رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے فیصل
آباد میں بیعت ہوئے۔ حضرت مولانا محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے عملیات اور بیعت کی
اجازت عنایت فرمائی۔ بعد میں حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر
ہوتے رہے اور خلافت سے نوازے گئے۔ حضرت مولانا محمد ایوب الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں کہ آپ والد صاحب کے پاس بکثرت آتے تھے بہت سادہ مزاج
آدمی تھے۔ جو ذکر اذکار دیئے تھے وہ انہوں نے خوب کیے ایک دفعہ عرض کیا کہ

حضرت آپ نے جو ذکر سکھایا تھا وہ میں نے پورا کر لیا ہے مزید سبق عنایت کریں، وہ چلنے کے ساتھ اپنا ذکر پورا کرتے تھے حضرت والد صاحب نے میرے سامنے ان کو ذکر کا یہ طریقہ سکھلایا تھا لیکن اس کے باوجود جب میں ان کے پاس حاضر ہوا اور میرے پوچھنے پر آپ نے طریقہ ذکر عملی طور پر کر کے دکھایا۔ یعنی ایک قدم کے ساتھ لا الہ اور دوسرے قدم کے ساتھ الا اللہ۔ 85 سال کی عمر میں 6 جنوری 2010ء میں انتقال ہوا اور چک 306 گ ب میں ہی تدفین ہوئی۔ آپ کے بیٹے مولانا عبدالقدوس فاضل جامعہ ربانیہ اور پوتے مولانا محمود الحسن و فضل خیر المدارس مدرسہ کا نظام چلا رہے ہیں۔



ہم عصر علماء و مشائخ

1۔ شیخ العرب والجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ:

حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جزیرہ مالٹا کی قید سے رہا ہو کر ہند واپس تشریف لائے تو جمید علماء و مشائخ آپ کی زیارت و ملاقات کے لیے حاضر ہونے لگے، اس موقع پر حضرت مولانا انوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”علماء اور صلحاء حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے پروانہ دار آرہے تھے، اس متبرک مجمع کو شام کا کھانا کھلانا اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خدمت کرنا ہمیں بھی نصیب ہوتا تھا۔“ (انوار انوری جدید ص 18)

حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے خطوط بھی ہیں جن میں سے چند ”مکتوبات بزرگاں“ میں شائع ہوئے تھے۔

2۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ:

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ دو مرتبہ حضرت مولانا انوری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں فیصل آباد تشریف لائے اور دونوں مرتبہ ملاقات کے لیے حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر تشریف لائے، ایک مرتبہ آپ کے صاحبزادہ حضرت مولانا ایوب الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد میں کسی جگہ حضرت شیخ سے ملاقات کے لیے گئے تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کل آپ کے والد صاحب سے ملاقات کے لیے حاضر ہوں گا اور نیاز حاصل کرتے ہوئے جاؤں گا، مولانا احسان الحق صاحب رائے ونڈ والے بھی ہمراہ تھے۔ (خاندانی روایت)

3۔ حضرت مولانا سید احمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ علیہ:

آپ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے، انوار الباری

ج 2 ص 436 میں لکھتے ہیں کہ

”حضرت مولانا انوری صاحب مہتمم مدرسہ تعلیم الاسلام لائل پور“
حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
کے تلمیذ ارشد، حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے
فیوض و کمالات روحانی سے مستفید اور مستنیر اور نہایت محقق
تبحر عالم ہیں۔“

4- حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی المعروف علی میاں رحمۃ اللہ علیہ:

حضرت مولانا انوری رحمۃ اللہ علیہ کی مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے پہلی ملاقات اس
وقت ہوئی جب مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ (بانی
تحریک دعوت و تبلیغ) کے ہمراہ سہارنپور آئے ہوئے تھے۔ حضرت اقدس رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ
کی اس مجلس میں حضرت مولانا انوری رحمۃ اللہ علیہ کی مبتدعین کے متعلق مدلل گفتگو سن کر
مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا بھی
خصوصی تعلق ہو گیا۔ ایک مرتبہ رائے پور آئے اور مولانا انوری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا: ”میں
نے سہارنپور میں تیرا سن لیا تھا (یعنی آپ آئے ہوئے ہیں) اس لیے میں بھی
حاضر ہو گیا“ ایک مرتبہ لکھنؤ لے گئے اور بہت احترام فرمایا۔ (خلفاء مجازین ص 11)

5- حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ:

حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:
”ہمارے حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور خوب معتقد ہیں اور حضرت
اقدس رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے عشاق میں سے ہیں۔ لکھنؤ کے سفر میں احقر کی بہت
خدمت کی، بہت شرمندہ ہوں کہ میرے جیسا ایک عام آدمی مولانا کی خدمت دیکھ
کر اپنے دل میں سلف کی یاد تازہ محسوس کرتا ہے۔ ایک دفعہ رائے پور میں فرمانے

لگے: ”حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کن سے مجاز تھے؟ (پھر حضرت مولانا انوری رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن کر) فرمانے لگے ”اب تسلی ہوگئی۔“ (خلفاء مجازین ص 12)

6- حضرت مولانا محمد عبداللہ سلیم پوری رحمۃ اللہ علیہ:

آپ سابق امیر مجلس تحفظ ختم نبوت حضرت مولانا خواجہ خان محمد کنڈیاں شریف کے پیر و مرشد ہیں 1934ء میں اپنے شیخ حضرت مولانا ابوالسعد احمد خان صاحب کے ساتھ سلیم پور تشریف لائے تو حضرت مولانا انوری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ملاقات کا پیغام ملا۔ آپ چند ساتھیوں سمیت حاضر ہوئے، حضرت مولانا عبداللہ نے تعارف کروایا کہ یہ حضرت شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا خادم اور میرا استاذ ہے۔ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کنڈیاں والے اٹھ کر معانقہ کر کے ملے، حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب تو بار بار ملتے رہے، ڈھڈیاں شریف جب حضرت اقدس رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو وہاں بھی حاضر ہوتے، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی کنڈیاں شریف تشریف لے جاتے۔ (انوار انوری جدید، ص 156)

7- امیر شریعت حضرت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ:

حضرت مولانا انوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ تو میرے ساتھ حقیقی بھائیوں کی طرح ملتے تھے بلکہ میرا بڑا ادب کرتے تھے۔ (خلفاء مجازین ص 130 جدید) نومبر 1959ء لاہور میں حاجی متین احمد کی کٹھی پر حضرت اقدس رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش پر مولانا انوری رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کے متعلق حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر نقل کی۔ تقریر کے بعد حضرت اقدس رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ”اس کو قلم بند کرو۔“ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے غور سے سن رہے تھے، بہت ہی اصرار کیا کہ اسے ضرور قلم بند کرو ورنہ میں آپ کے دروازے پر بیٹھ جاؤں گا۔ (انوار انوری جدید، ص 123)

8- حضرت مفتی سید عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ:

حضرت مفتی سید عبدالشکور ترمذی کے جانشین صاحبزادہ حضرت مفتی سید عبدالقدوس ترمذی کی تحریر سے ایک اقتباس:

احقرنا کارہ نے اپنے بچپن میں دیگر اکابر و مشائخ اور بزرگوں کے مبارک تذکرہ کے ساتھ اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا تذکرہ بھی سنا، حضرت والد صاحب جامعہ حقانیہ میں آپ کی تشریف آوری اور اکابر سے آپ کے والہانہ تعلق اور آپ رسائل و مضامین کا تذکرہ بھی گاہے گاہے فرماتے رہتے تھے۔ احقر کے جد امجد حضرت مفتی عبدالکریم گمٹھلوی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ مظاہر علوم سہارنپور کے سند یافتہ حضرت شیخ الحدیث مولانا خلیل احمد سہارنپوری قدس سرہ کے تلمیذ رشید اور حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی خانقاہ امدادیہ اشرفیہ تھانہ بھون کے مفتی، حضرت کے معتمد علیہ اور خاص اصحاب میں سے تھے اس لیے حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ ان سے خوب واقف تھے اور اسی نسبت سے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی آپ خصوصی شفقت فرماتے تھے..... حضرت مولانا عبدالکریم مظاہری رحمۃ اللہ علیہ خطیب جامع مسجد مہاجرین شاہ پور صدر حضرت مولانا انوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور ان سے بیعت تھے..... حضرت والد صاحب سے خاص تعلق تھا اپنے بہت سے معاملات میں بذریعہ مکاتبت بھی مشاورت فرماتے رہتے تھے، انہی کے ہمراہ ایک مرتبہ جامعہ حقانیہ میں قدم رنجہ فرمایا..... حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ جب حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ جامعہ میں تشریف لائے تو مجھے کام میں مشغول دیکھ کر اور جامعہ کی عمارت کو ملاحظہ فرما کر بے حد خوش ہوئے، فرمانے لگے کہ میرے ذہن میں تو یہی خیال تھا کہ عبدالشکور تنہا ایک کچے کمرے میں کسمپرسی کے عالم میں پڑا ہوگا کیونکہ قصبہ ساہیوال ایک پسماندہ علاقہ ہے لیکن جب تمہیں ایسی شان شوکت میں دیکھا

اور مدرسہ کی عمارت بھی عمدہ نظر آئی اور ساتھ ہی تعلیم کا ماحول دیکھا تو دل باغ باغ ہو گیا، حضرت نے بڑی دعائیں دیں..... حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر آپ کی تشریف آوری کا واقعہ اور یہاں آکر آپ کی فرحت و سرور کی کیفیت کا ذکر فرماتے اور ساتھ ہی آپ کی تحریر مبارک کا یہ جملہ ”ماشاء اللہ مدرسہ میں داخل ہوتے ہی یوں محسوس ہوا کہ باغ رضوان میں داخلہ ہو گیا ہے“ بڑے زوردار اور والہانہ انداز میں ذکر فرماتے تھے۔

9۔ حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ:

حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ

کے تاثرات:

”فسوس ہے کہ اہل اللہ کے قافلے عالم آخرت کی طرف جارہے رہیں اور دنیا ان کے انوار و برکات سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ ۱۳ ذیقعدہ ۱۳۸۹ھ مطابق 22 جنوری 1970ء کو حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کا لائل پور میں تقریباً ستر سال کی عمر میں وصال ہوا، مرحوم ہمارے دور کے جید عالم اور صاحب سلسلہ بزرگ تھے، جس سال حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی مالٹا سے واپسی ہوئی اسی سال مرحوم دورہ حدیث کیلئے دارالعلوم دیوبند حاضر ہوئے۔ امام العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ خلف الرشید حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھی، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، آپ کے بعد حضرت اقدس مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے

بیعت کی اور خلافت و اجازت سے مشرف ہوئے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خاص شغف و تعلق تھا اس لیے ”انوری“ کہلاتے تھے۔ بڑی خوبیوں کے بزرگ تھے، بہت سے لوگ آپ کی تعلیم و تربیت سے مستفیض ہوئے۔

فرحمہ اللہ رحمة واسعة، اللهم اكرم نزلہ ووسع مدخلہ، وابدلہ دارا خیرا من دارہ واهلا خیرا من اہلہ و تقبل حسناتہ و ارفع درجاتہ۔ (بصائر و عبرص 470)

1962ء میں جب حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ نے عمرہ پر تشریف لے جانے کے لیے آٹھ روز کراچی میں قیام فرمایا تو مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ روزانہ بعد عصر آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے رہے۔

10۔ حضرت مولانا محمد سعید احمد حصاروی رحمۃ اللہ علیہ (ڈونگہ بونگہ):

حضرت اقدس رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے اجلہ خلفاء میں سے ہیں، آپ حضرت مولانا انوری رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا کرتے تھے کہ تو جب حضرت مفتی فقیر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کرتا تھا، میں اس وقت رائے پور میں پڑھتا تھا اور تجھے چھوڑنے جایا کرتا تھا اور فرماتے جب تو ذکر کرتا ہے تو ایک نور محسوس ہوتا ہے اور جب کہ میں ذکر تیرے پاس بیٹھ کر کرتا ہوں تو عجیب کیفیت محسوس کرتا ہوں۔ جب حضرت مولانا انوری رحمۃ اللہ علیہ ڈونگہ بونگہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے جاتے تو بہت محبت اور اکرام فرماتے۔ ہر وقت حضرت مولانا انوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے رہتے۔ اپنے مریدوں کو کہتے ان سے استفادہ کرو اور فرماتے:

”تیرے آنے سے ہمارا گھر نورانی ہو گیا۔“ (خلفاء مجازین ص 4)

11- حضرت سید نفیسؒ الحسینیؒ (لاہور):

آپ کا حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے پوریؒ کے کم عمر خلفاء میں شمار ہوتا ہے، آپ کے والد محترم جب لائل پور مقیم تھے تو آپ زمانہ طالب علمی میں حضرت مولانا انوریؒ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، حضرت رائے پوریؒ سے بیعت کے بعد شروع میں کثرت سے حضرت مولانا انوریؒ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، کتابت خاندانی و موروثی وصف تھا پھر اسی سلسلہ میں لاہور منتقل ہو گئے، پھر حضرت مولانا انوریؒ کے ہاں گاہے گاہے آتے رہے، آپ نے حضرت مولانا انوریؒ کے سب سے چھوٹے صاحبزادہ حضرت مولانا ایوب الرحمن انوریؒ اور حضرت مولانا سعید الرحمن انوریؒ کے دو صاحبزادوں مولانا رشید الرحمن انوریؒ اور مولانا جلیل الرحمن انوریؒ اور حضرت انوریؒ کے تین نواسوں (ابن حضرت مولانا انیس الرحمن لدھیانویؒ) مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی اور مولانا منیب الرحمن لدھیانوی اور مولانا قاری احمد سعید صاحب ڈھڈیاں شریف (ابن حضرت مولانا عبدالجلیل قادری رائے پوریؒ) کو خلافت و اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت شاہ صاحبؒ کے خادم خاص و خلیفہ جناب رضوان نفیس صاحب بتاتے ہیں کہ ”حضرت شاہ صاحب حضرت انوریؒ کے خاندان کو اپنا محبوب ترین خاندان سمجھتے تھے“ (بروایت محمد راشد انوری) اس کے علاوہ حضرت انوریؒ کا حضرت اقدس رائے پوریؒ کے تمام اجلہ خلفاء سے بہت تعلق رہا، دیگر ہمعصر مشاہیر علماء میں سے چند نام یہ ہیں:

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانیؒ، حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمیؒ، حضرت مولانا مفتی محمد حسن امرتسریؒ جامعہ اشرفیہ لاہور، حضرت مولانا مفتی محمد یونس مراد آبادیؒ، حضرت مولانا قاضی زاہد الحسینیؒ انک،

حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خیر محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ جامعہ خیر المدارس ملتان، حضرت مولانا محمد علی جالندھری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد مسین رحمۃ اللہ علیہ (جز انوالہ)، حضرت مولانا مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مجاہد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ۔



منکرین حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں

پیر طریقت حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ

کا ارشاد گرامی

مولوی عنایت اللہ صاحب بخاری کا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک بغیر روح کے قبر مبارک میں ہے۔ میرا عقیدہ وہی ہے جو ہمارے حضرات دیوبند کا ہے اور یہی صحیح مسلک ہے۔^(۱)

مولانا غلام اللہ خان اور مولوی عنایت اللہ صاحبان نے آج کل جو مشغلہ اختیار کر رکھا ہے اس سلسلہ میں مولوی عنایت اللہ شاہ صاحب 27 ستمبر 1958ء کی شام کو حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کوٹھی نمبر 41 ایپرس روڈ لاہور مع اپنے چند ساتھیوں کے آئے اور آتے ہی حیات انبیاء کرام علیہم السلام کا مسئلہ چھیڑ دیا اور اکابر دیوبند کے مسلک کی تردید شروع کر دی، کچھ حوالہ جات پیش کرتے رہے۔ حاضرین میں سے بعض علماء نے ان کی تردید کی، مولوی عنایت اللہ صاحب نے فیض الباری کی عبارت پیش کی، حضرت مولانا محمد انوری لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے ٹوکا کہ آپ خلط بحث کرتے ہیں، فیض الباری کی عبارت کا مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں ارواح انبیاء علیہم السلام اعمالِ طیبات میں مشغول رہتی ہیں بعینہ اسی شان سے قبر میں بھی اعمالِ طیبات میں مشغول رہتی ہیں، نہ دنیا میں تعطل ہوا، نہ قبور میں، اور یہ ظاہر ہے کہ دنیا میں روح مع الجسد کام کرتی رہی قبور میں بھی روح مع الجسد کام کرتی ہے، نیز حضرت مولانا

(۱) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور آپ کی حیات دنیا کی سی ہے بلا مکلف ہونے کے۔ (المہند ص 32)

سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”یہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی سلام عرض کرتا ہے تو روح مبارک لوٹا دی جاتی ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ روح کا جو استغراق اللہ تعالیٰ کے دربار کی طرف ہوتا، سلام کے وقت اس کو ہٹا کر سلام کا جواب دینے کی طرف روح کو متوجہ فرما دیا جاتا ہے، روح دونوں حالتوں میں بدن میں موجود رہتی ہے۔“^(۱) مولوی عنایت اللہ صاحب اس کا جواب نہ دے سکے۔“

پھر مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ رشیدیہ جلد اول صفحہ 92 میں فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے سماع میں کسی کو اختلاف نہیں؛ اسی لیے فقہائے کرام نے قبر شریف پر سلام عرض کرتے وقت شفاعت کا سوال کرنے کو لکھا ہے۔^(۲)

اگر مولوی عنایت اللہ صاحب کی طرح یہ مان لیا جائے کہ بدن کا روح سے کوئی تعلق نہیں، روح آسمان پر ہے اور بدن قبر میں بغیر روح کے رکھا ہے تو سلام اور سوالِ شفاعت بے معنی ہے اور حضرت انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ انوار المحمود میں فرماتے ہیں کہ جمعہ کے روز دُرود بلا واسطہ پہنچتا ہے اور عام حالات میں ملائکہ

(۱) رواہ ابوداؤد فی ردّ روحہ ص ۱۳۷ علیہ لیس معناه انہ یُرَدُّ روحہ ای اَنَّهُ یُحْیٰی فی قبرہ بل توجّہ من ذالک الی ہذا الجانب فہو حی فی کلّتا الحالتین۔ (ج 2 ص 65)

ابوداؤد کی روایت میں سلام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح لوٹنے کا جو ذکر ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اس طرح لوٹائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر میں زندہ کیا جائے، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلام کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ زندہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حالتوں میں ہیں (یعنی درود شریف پیش ہونے کے وقت بھی اور اس سے پہلے بھی)۔

(۲) فتاویٰ عالمگیری ج 1 ص 292، الفقہ علی المذاہب الاربعہ، ج 1 ص 641، وفاء الوفا، ج 4 ص 197

پہنچاتے ہیں نیز یہ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیات انبیاء جسمانی ہے۔ اس کا جواب بھی مولوی عنایت اللہ صاحب نہ دے سکے۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ وہ شور مچاتے تھے جس سے تنگ آ کر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا خدا بخش ملتانی رحمۃ اللہ علیہ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ مولوی عنایت اللہ صاحب ادھر ادھر کی غیر متعلقہ عبارات پڑھتے جاتے تھے جن کا اصل مسئلہ سے کوئی تعلق نہ تھا مثلاً خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک حقیقت میں خواب دیکھنے والے کے پاس نہیں آتا۔ اسکے متعلق حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اقدس میں زندہ ہیں لیکن مولوی عنایت اللہ صاحب حضرت کی آواز لوگوں کو سننے ہی نہیں دیتے تھے، اپنی خوب سناتے تھے، جب ان کو کہا گیا:

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ (سورة الزمر: 30)

یہ آیت مکی ہے تو کیا آپ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کفار کے برابر ہوئی؟ تو ان کو اقرار کرنا پڑا کہ بھلا ایک رسولِ برحق کی موت کفار کی طرح کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر وہ جلدی اٹھ کر چلے گئے حالانکہ نمازِ مغرب کا وقت بالکل قریب تھا۔

28 ستمبر 1958ء بعد نمازِ فجر حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمد

انوری لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور فرمایا کہ کل شام جو کچھ وہ حضرات فرما رہے تھے ہمیں تو سمجھ آیا نہیں، اب وقت کافی ہے آپ تفصیل سے ہمارے حضرات اکابر کا مسلک واضح فرمائیں تو مولانا موصوف نے اپنے اکابر حضرات مثلاً حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ،

حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نواب قطب الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر کی عبارات پڑھ کر تشریحات مجمع عام میں جو تقریباً دو سو سے زیادہ حضرات ہوں گے، حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے عرض کیں۔ نیز حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی مرقات کی عبارات و حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ و علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ، شارح جامع صغیر سیوطی کی عبارات و نیز ”نبراس“ شرح عقائد عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ اور زاد المعاد علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ و شفاء السقام حضرت محدث تہتی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات پیش کیں کہ یہ سب حضرات حیات انبیاء علیہم السلام جسمانی مانتے ہیں۔^(۱)

اور احادیث عرض صلوة بھی پڑھ کر سنائیں، پھر یہ عرض کیا کہ یہ حضرات (مولوی عنایت اللہ صاحب اور ان کے ہمناو) یہ کہتے ہیں کہ فقط جسد اطہر بلا روح روضہ اقدس میں موجود ہے، اس کو یہ حضرات حیات برزخی سے تعبیر کرتے ہیں اور روحانی اس معنی میں مانتے ہیں کہ روح زندہ ہے۔

حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑی توجہ سے سنتے رہے، پھر فرمایا یہ تو بالکل غلط ہے جو یہ حضرات کہتے ہیں بلکہ روح مع البدن روضہ اقدس میں زندہ ہے، ایسے ہی دیگر انبیاء علیہم السلام۔^(۲)

(۱) ان اکابر کی کتب کی حوالہ جات کیلئے دیکھیں ”مقام حیات“ حضرت علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن، علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یرید بقولہ الانبیاء احیاء مجموع الاشخاص لا الأرواح فقط (تحیۃ السلام: ص 36)

(۲) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اس کا مطلب فقط یہ نہیں کہ ان کی ارواح زندہ ہیں بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اشخاص الانبیاء (روح و بدن) کے مجموعہ کے ساتھ زندہ ہیں۔

عرض کیا کہ: «الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءُ فِي قُبُورِهِمْ» کا مطلب ہمارے اکابر بزرگانِ دیوبند و دیگر محققین یہ لیتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں اعمالِ طیبات سے کسی وقت تعطل نہیں ہوا بالکل اسی طرح قبور میں بھی اعمالِ طیبہ سے انبیاء کرام علیہم السلام کو تعطل نہیں ہے، دائماً ترقی ہوتی رہتی ہے، یہ ظاہر ہے کہ دنیا میں روح مع الجسد ہی اعمالِ طیبہ کرتی رہی، بالکل یہی شانِ قبور میں ہے۔^(۱)

حضرت اقدس رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہی صحیح مسلک ہے جو ہمارے حضراتِ دیوبند کا ہے۔

یہ عرض کیا گیا ہے، یہ حضرات (توحیدی) روضہ اقدس پر حاضری اور وہاں طلبِ شفاعت اور صلوة و سلام کو ممنوع قرار دیتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”توبہ توبہ! یہ تو نجدی بھی نہیں کہتے، نجدیوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، وہ الصلوة والسلام عليك يا رسول الله مواجہہ شریفہ پر حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں۔

الحمد للہ! سب سامعین کی پوری پوری تشفی ہو گئی اور حضرت نے پھر فرمایا: ”عقیدہ وہی صحیح ہے جو اکابرِ دیوبند فرماتے ہیں“^(۲)

(۱) حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”قوله فَنَبِيٌّ اللَّهُ حَيٌّ يُرْزَقُ وَأَحْيَاءُ فِي قُبُورِهِمْ يَصَلُّونَ تَسْرُدُ فِي ذِكْرِ الْحَيَاةِ أفعالها لا اصلها فإن اجسادهم حرمت على الارض۔“ (تحفة الاسلام ص 36)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق بھی ملتا ہے اور یہ کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ احادیث صرف حیات کا بیان نہیں کرتیں بلکہ افعالِ حیات بھی ثابت کرتی ہیں، یقیناً انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسامِ مطہرہ مٹی پر حرام کر دیئے گئے ہیں۔

(۲) کہ حضراتِ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں متعلق روح زندہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عام مردے سے بھی جب سوال و جواب ہوتا ہے تو وہ بھی متعلق روح مع الجسم ہوتا ہے جیسا کہ علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”ثم السؤال عندی یکون بالجسد مع الروح“ (فیض

اور فرمایا: ”بھائی! ہم تو اپنے بزرگوں کے تابع ہیں۔“

اس وقت مجلس میں بہت سے علماء مثلاً حضرت مولانا عبدالوحید رحمۃ اللہ علیہ خواہر زادہ، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد انوری لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ سرگودھا، مولانا حافظ اللہ داد، رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد ابراہیم، رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ اوکاڑہ، حاجی محمد اسمعیل لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عزیز الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبداللہ دھرم کوٹی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، پیر جی عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ولی محمد تلونی رحمۃ اللہ علیہ و دیگر متعدد حضرات موجود تھے۔

وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

نوٹ: حضرت رائے پوری کا یہ ”ارشاد گرامی“ پہلی 29 ستمبر 1958ء کو جناب حکیم محمد نذیر رحمۃ اللہ علیہ نے شائع کیا تھا۔ افادہ عام کے لیے اسے دوبارہ شائع کیا جا رہا ہے۔

(حکیم صاحب کا تعلق ریاست کپورتھلہ سے تھا، آپ کی ساری تربیت حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی۔ آپ فیکٹری بڑا دو خانہ لائل پور کے انچارج تھے۔ حکیم صاحب حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ کو ”اباجی“ کہا کرتے تھے اور حضرت بھی ان سے بیٹوں کی طرح محبت کرتے تھے۔ آپ کی شادی بھی حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ نے ہی کروائی تھی۔ حضرت خود نکاح کے لیے کمالیہ تشریف لے گئے تھے۔ آپ کے سر ملا برکت اللہ، حضرت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مریدوں میں سے تھے، 2006ء میں حضرت مولانا محمد ایوب الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ حکیم صاحب سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو احقر (مؤلف) بھی ہمراہ تھا، حضرت نے انہیں کتاب ”انوار الوطائف“ پیش کی جس پر انہوں نے بتایا کہ ”الحزب الاعظم“ اور ”دلائل

الخیرات“ کا معمول اباجی (حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ) کی اجازت سے اسی وقت سے ہے اور پھر انہوں نے حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ کا ”الحزب الاعظم“ کا ذاتی نسخہ دکھایا جو حضرت نے انہیں عنایت کیا تھا۔ 14 دسمبر 2012ء بروز جمعۃ المبارک کو انتقال ہوا اور سوساں والے قبرستان مدینہ ٹاؤن میں تدفین ہوئی۔ عینی شاہدین کے مطابق وفات کے بعد آپ کا چہرہ بالکل حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہو گیا تھا)



ایک غلط فہمی کا ازالہ

پیر و مرشد حضرت والا دام ظلہم بعد آداب و سلام کے عرض ہے کہ اس علاقے میں افواہ پھیل رہی ہے کہ حضرت اقدس مدظلہ مولوی غلام اللہ خاں صاحب وسید عنایت اللہ شاہ صاحب کے ہم عقیدہ ہو گئے ہیں جیسے کہ رسالہ تسلیم القرآن راولپنڈی میں مولوی غلام اللہ خاں صاحب نے اعلان بھی کر دیا اور عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کے ساتھ ہیں، چنانچہ اس کی تحقیق کے لیے حضرت مولانا محمد صاحب لائل پوری کی خدمت میں گیا وہ لاہور تشریف لے گئے تھے۔ حضرت ہم خدام بہت پریشان ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے۔ والسلام مع الاکرام

احقر صابر علی

معرفت نیو جنٹلمین واچ کمپنی لائل پور

3۔ اکتوبر 1958ء

حضرت اقدس شاہ عبدالقادر راپٹوری رحمۃ اللہ علیہ کا جواب:

بخدمت جناب حافظ صابر علی صاحب سلمہ

از احقر عبدالقادر..... السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آپ کا خط ملا خیریت و کیفیت معلوم ہوئی۔ آپ کو کسی نے غلط بتلایا۔ میں تو حضرات دیوبند کا ہی ہم عقیدہ ہوں۔ اور انہی کے ساتھ ہوں اور مولانا محمد صاحب (انوری) لائل پوری کے ساتھ ہوں جو کچھ مولانا محمد ہیں میں وہی ہوں۔ فقط والسلام

از عبدالقادر

3 اکتوبر 1958ء

کوٹھی نمبر، 41 ایمپرس روڈ نزد شملہ پہاڑی لاہور

(مکتوبات بزرگاں ص 11 و ص 40 ماہنامہ دارالعلوم دیوبند، دسمبر 1958ء)

منتخب خطوط

اکابر کے مکاتیب جو مکتوبات بزرگاں کے نام سے میرے جد
امجد حضرت مولانا محمد انوری نور اللہ مرقدہ نے ستمبر 1966ء، جمادی
الاولیٰ ۱۳۸۶ھ میں شائع کئے تھے۔

حیات انوری کے پہلے ایڈیشن میں مکمل رسالہ
”مکتوبات بزرگاں“ شامل کیا گیا تھا، جسے بعد میں کلیات انوری جلد اول
میں شائع کیا گیا۔ ”کلیات انوری“ کا نام اب ”مجموعہ رسائل انوری“
کر دیا گیا ہے جس میں یہ رسالہ مع اضافہ جات شامل کر دیا گیا ہے۔
یہاں چند منتخب خطوط شامل کئے جا رہے ہیں جو حضرت مولانا
محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام ہیں۔

از محمد راشد انوری

ابن حضرت مولانا محمد ایوب الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ

نبیرہ حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ

مکاتیب حضرت مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ

بنام حضرت مولانا محمد انوری لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ

1

محترم المقام زید مجدکم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

والانا مہ باعثِ عزت افزائی ہو کر یاد فرمانے کا شکر یہ ادا کرتا ہوں۔
جناب کے والد صاحب کے وصال کی خبر پڑھ کر صدمہ ہوا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ
تعالیٰ آں مرحوم کو اپنے جوارِ رحمت میں جگہ دے اور آپ حضرات کو صبرِ جمیل عطا
فرماوے۔ آمین

آپ ان کے قدم بقدم چلیں۔ اتباعِ شریعت کو مضبوطی سے پکڑیں، دعا
خیر میں فراموش نہ فرمائیں۔ واقفین حضرات پر سان احوال کی خدمت میں سلام
مسنون عرض کر دیں۔ والسلام

تنگِ اسلاف

حسین احمد غفرلہ

از دارالعلوم دیوبند ۱۹/۱/۱۳۷۱ھ

2

محترم المقام زید مجدکم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

اس نازک دور میں ازراہ دینداری دارالعلوم کی امداد کے سلسلہ میں
مولوی عبدالرحمن سفیر دارالعلوم کے ہمراہ آپ نے جو نہایت تندہی اور خوش اسلوبی

کے ساتھ کوشش فرمائی خدام دارالعلوم آپ کے بدل شکر گزار ہیں۔ حق تعالیٰ جزائے خیر دے۔ حقیقت یہ ہے اس مشکل دور میں آپ جیسے مخلص حضرات کی ہمدردانہ کوششوں سے دارالعلوم جیسے عظیم الشان ادارہ کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ ادارہ اطمینان کے ساتھ علوم دینیہ کی اشاعت میں لگا ہوا ہے۔ امید ہے کہ آپ کی ہمدردیاں دارالعلوم کو آئندہ بھی حاصل رہیں گی۔ خدا کرے آپ ہمیشہ عافیت سے ہوں۔ والسلام

نگہِ اسلاف

حسین احمد غفرلہ

صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند

مکاتیب: حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ

بنام حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ

1

مخدوم و مکرم بندہ جناب مولانا محمد صاحب
از احقر عبدالقادر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

جناب کا والا نامہ رائے پور سے ہوتا ہوا ریاست رامپور موصول ہوا، احقر
دہلی کئی روز رہ کر وہاں رام پوری حضرات کے تشریف لے آنے کی وجہ سے اور
اصرار سے رام پور آ گیا۔ یہاں بانس بریلی اور لکھنؤ کے سفر میں مولانا ابوالحسن علی
کے اصرار سے اور حکیم محمد صدیق کے اصرار سے جانا ہے۔ معلوم نہیں کتنے دن لگیں۔
دہلی پاکستان جانے کی کسی صورت کی تلاش میں جانا ہوا تھا۔ مگر پر مٹوں کی مشکلات
کی وجہ سے ملتوی ہو گیا۔ جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوگا ہو جائے گا۔
جناب کی خیریت و کیفیت خط سے معلوم ہو کر بہت ہی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ جناب
کو بڑے درجے عطا فرمائے۔ اور ہم پسماندگان کو بھی جناب کی برکت سے آپ
کی کیفیت اور ادو تعلیم سے بہت جی خوش ہوا۔ میرے عزیز بھائی! احقر کو بھی اپنی
ادعیہ صالحہ میں فراموش نہ فرمانا، احقر بہت محتاج ہے۔ اور آپ کیلئے دعا گو ہے۔

مولوی عبدالعزیز صاحب کا والا نامہ بھی جو اس میں رکھا تھا دیکھا۔ کیا
عرض کروں جناب کے ساتھ کسی طرح بھی احقر اور احقر کا کنبہ برابری نہیں کر سکتا۔
ویسے تو اگر یہ ہو جائے تو ہم لوگوں کے لیے بڑی سعادت ہے، ویسے تو ہم لوگوں
میں کوئی برابری نہیں ہے نہ ذاتاً نہ صفاتاً، بہت ہی اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہوں اور
تصور کرتا ہوں یہ تکلف سے نہیں عرض کرتا، باقی عبدالجلیل کے لیے تو موجب

سعادت ہے۔ ایسی صحبت اس کو اس علاقہ میں کہاں میسر ہو سکتی ہے۔ علم اور صلاحیت کے اعتبار سے بلکہ اس کو علمی اور دینی نفع بہت کچھ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں لیکن جناب کے والد بزرگوار اور گھر کے لوگ کس طرح راضی ہو سکتے ہیں جب کہ ہر طرح سے جناب کا خاندان ہمارے خاندان سے اونچا ہے۔ مکرر عرض ہے کہ جناب کو اللہ تعالیٰ اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اب احقر کو پاکستان جانے کا زیادہ شوق نہیں رہا۔ کیا تعجب ہے اللہ تعالیٰ اب آپ سے دینی سلسلہ چلائے، گھر میں بچوں کو دعا اور پیار اور ان کی والدہ کو سلام۔

چوہدری اسماعیل سنا ہے کہ وہیں ہیں۔ مولوی عبدالرحمن بھی وہیں ہیں مولوی عبدالغنی مولوی محمد شریف صاحب ملک واحد بخش کو بھی سلام مننون فرمائیں۔ مکرر اسی واسطے تو شرم آتی ہے عرض کرتے ہوئے کہ پہلے جو نسبت کی تھی مولوی انیس کی جناب سے تو اس سے جناب کو تکلیف ہی پہنچی۔ اب کس منہ سے عرض کیا جائے۔ برخوردار عزیزم حافظ عزیز الرحمن انوری کی بیماری کا بہت فکر ہوا اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ فقط والسلام

9 نومبر 1948ء

②

بخدمت شریف مولانا محمد صاحب مدظلہ العالی

از احقر عبدالقادر

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

مزاج شریف، ایک والا نامہ تین روز ہوئے سید و جاہت حسین کی معرفت شرف صدور ہوا، اس میں برخوردار عبدالرحمن مرحوم کے 5 مئی 1948ء کو انتقال کی خبر معلوم ہو کر بہت افسوس ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کی مغفرت

فرمائیں اور اپنے قرب سے نوازیں اور آپ حضرات کو صبر جمیل عطا فرمائیں، بالخصوص اس کی والدہ صاحبہ کو اور بہن بھائیوں کو صبر کی تلقین فرمادیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرمائیں، یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ کہ آپ حضرات احقر سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اپنے فضل و کرم سے نوازے۔ اور اپنی حفاظت میں رکھے۔

دیگر تمام پرسانِ حال کی خدمت میں سلام مسنون فرمادیجیے گا، حضرت مولانا فضل احمد صاحب اور دوسرے حضرات کو برخوردار کی وفات کا افسوس ہوا۔ سب دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور بہت بہت سلام مسنون عرض کرتے ہیں۔ فقط والسلام

از احقر عبدالمنان سلام مسنون اور استدعا دعا

از رائے پور

۶ رجب المرجب ۱۳۶۷ھ، 26 مئی 1948ء

مکرر عرض ہے کہ احقر کی استعداد تو جناب والا سے کم ہے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے مگر یہ خیال ہے کہ حضرت ﷺ سے سلسلہ مل جائے۔ اس بنا پر عرض ہے کہ اگر کوئی توبہ کرنے والا ہو تو احقر کی طرف سے جناب والا کو اجازت ہے خدا کرے آپ خیر و عافیت سے ہوں۔ فقط والسلام

نیز حاجی علی محمد، ولی محمد صاحبان کی خدمت میں سلام مسنون فرمادیجیے گا۔ ان دونوں حضرات کے احقر پر بہت ہی احسانات ہیں۔ احقر سوائے دعا کے اور کیا عرض کر سکتا ہے۔ کاش یہ حضرات شروع ہی میں لائل پور چلے آتے۔ تو پریشانی سے شاید بچ جاتے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنا فضل و کرم فرمائیں۔

مکتوب حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ

بنام حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ

مخلصی جناب مولانا زید مجرم

سلام مسنون! آپ کا خط موصول ہوا۔ آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی بیعت منظور ہے پاس انفاس اور دوازده تسبیح چشتیہ جاری رکھیں۔ دو تسبیح نفی اثبات..... چار تسبیح الا اللہ الا اللہ چھ تسبیح اللہ اللہ صبح کی نماز کے بعد کلمہ توحید ایک تسبیح

اول آخردرد شریف لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الہک ولہ الحمد یحییٰ ویمیت بیدۃ الخیر وهو علی کل شیء قذیر۔ عصر کی نماز کے بعد سبحان

اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ایک تسبیح اول آخردرد شریف۔ عشاء کی نماز کے بعد درود مشہور

اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ پاس انفاس کم از کم دس بارہ ہزار کیا کریں۔ تاکہ جاری ہو جائے۔ زبان تالو سے لگا کر جب سانس کھینچیں تو اللہ اور جب چھوڑیں ہو کی ضرب قلب پر لگائیں۔ ناک سے سانس لینا اور چھوڑنا، پاس انفاس جنت میں بھی جاری رہے گا۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہوا ہے یُلْهَمُونَ النَّفْسَ یہ رسالہ فصل الخطاب ہدیۃ ارسال ہے گھر میں بھی یہی تلقین کر دینا۔ والسلام

محمد انور عفا اللہ عنہ

(یہ والا نامہ اگست 1922ء دیوبند سے ارسال فرمایا تھا)

کتبہ، غلام مصطفیٰ کشمیری خادم حضرت شاہ صاحب

مکتوب حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ
 بنام مولانا محمد عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، کراچی

۷۸۶

۱۴ صفر ۱۳۸۳ھ

محترم المقام حضرت مولانا دامت برکاتہم

سلام مسنون! عرض اینکہ والا نامہ صادر ہو کر باعث فرحت دل ہوا یہی تو اجازت ہے، مبارک ہو آپ نے اتنا اخفاء رکھا کہ میرے پاس تو ذکر فرما دیا ہوتا، اللہ تعالیٰ آپ کا فیضان زیادہ سے زیادہ فرمائے، آمین میں نے حسب ارشاد خطوط کی نقل کرائی ہیں (خطوط سے مراد حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط ہیں، ملفوظات بھی آپ ہی کے ہیں) اور ملفوظات جمع کر رہا ہوں، عنقریب ارسال کرنے والا ہوں، خطوط تو بے شمار ہیں کچھ نقل کر کے بھیج رہا ہوں، اصل میرے پاس محفوظ ہیں۔

میں تو بینات کے لیے چشم براہ ہوں ابھی تک معارف السنن بھی نہیں پہنچی وہ علاقہ بریلویت کا مرکز بن رہا ہے، آپ اگر کسی اللہ کے بندے کو توبہ کرا دیا کریں تو آہستہ آہستہ یہ فضاء تو مکدر نہ ہو، بلکہ انوار آجائیں بعد نماز جمعہ یا کسی اور دن گھر میں یا مسجد میں مجلس ذکر ضرور منعقد کیا کریں کہ یہ طریق اس سلسلہ میں مؤثر ہے..... انما الاعمال بالنیات خدا کرے ذاکرین کی کثرت سے فضا معمور ہو جائے۔ والسلام

محمد عفا اللہ عنہ لائل پور
 سنت پورہ، مدرسہ تعلیم الاسلام

مکتوب حضرت ہیڈ ماسٹر منظور محمد رحمۃ اللہ علیہ

(خلیفہ مجاز حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ)

بنام حضرت مولانا محمد انوری لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ

منظور محمد

ایم۔ بی ہائی سکول تانڈلیا نوالہ

25۔ اگست 1948ء

بخدمت حضرت اقدس مدظلہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اقدس کا والا نامہ ملا۔ حضرت اقدس نے بہت مہربانی فرمائی کہ احقر کو یاد فرمایا۔ حضرت اقدس کے صاحبزادے کے انتقال کا احقر نے کسی کی زبانی سنا۔ افسوس ہوا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ جناب کو صبر جمیل اور مرحوم کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے۔ حضرت سیلاب کا عذاب کیا یہاں تو وہ ہو رہی ہے جو کہ فرعونوں کے ساتھ مصر میں ہو رہی تھی۔ ایک عذاب ختم نہیں ہوتا تو دوسرا آتا ہے۔ حضرت! اول تو نیک ہی بہت تھوڑے ہیں اور جو نیک ہیں وہ تبلیغ نہیں کرتے۔ عذاب نہ آئے تو کیا آئے۔ احقر کے لیے اور جمیع مسلمانوں کے لیے حضرت دعا فرماتے رہا کریں۔ چوہدری..... دین صاحب کا کیا حال ہے۔ ان کی خدمت میں میرا نیاز مندانہ سلام عرض کریں اور آپ کے بچوں کو پیار۔

(نوٹ: یہ مکتوب حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے عبدالرحمن جن کا 5/ مئی 1948ء کو انتقال ہوا تھا، ان کی تعزیت کے سلسلہ میں حضرت ماسٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا تھا)

حضرت مولانا محمد انوری لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ

بنام مفتی سید عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ

(بشکریہ حضرت مفتی سید عبدالقدوس ترمذی مدظلہ)

① 1950ء بمطابق ۱۳۷۰ھ میں حضرت والد صاحب نے تدریس کے لیے کسی مناسب جگہ کے لیے جہاں اپنے دوسرے بزرگوں کی خدمت میں درخواست کی اس سلسلہ میں آپ کو بھی عریضہ ارسال کیا اس کا جواب آپ نے اپنے قلم سے یوں تحریر فرمایا!

مدرسہ تعلیم الاسلام لائل پور

5 نومبر 1950ء ۲۲ محرم الحرام ۱۳۷۰ھ

مکرم مولانا زید مجدہم سلام مسنون!

والا نامہ شرف صدور ہوا، خیریت و کیفیت معلوم ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانی دور فرماویں، احقر ان شاء اللہ تعالیٰ خیال رکھے گا، جگہ موزوں ملنے پر اطلاع دوں گا زیادہ کیا عرض کروں۔ والسلام مع الاکرام

محمد عفا اللہ عنہ

② حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ شاہ پور تشریف لائے تو انہیں حضرت مولانا عبدالکریم مظاہری رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم ہوا کہ حضرت مفتی عبدالشکور صاحب ترمذی رحمۃ اللہ علیہ مولانا غلام اللہ خان کی تفسیر ”جواہر القرآن“ کے رد میں کتاب لکھ رہے ہیں، حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ نے فیصل آباد پہنچ کر اس سلسلہ میں درج ذیل تفصیلی مکتوب گرامی حضرت والد ماجد کو تحریر فرمایا۔

جناب قاری صاحب زید مجدہم! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میں تقریباً ایک سال ہو گیا بیمار ہوں اب کچھ چلنے لگا ہوں، میں شاہ پور

صدر تک سفر میں گیا تھا، مولوی عبدالکریم صاحب کی زبانی معلوم ہوا کہ آپ نے غلام اللہ خان کی ”بلغۃ الحیر ان“ (ہدایۃ الحیر ان) کے رد میں ایک کتاب لکھی ہے جو بہت سے علماء نے مثلاً مولانا ظفر احمد صاحب زید مجدہم، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب زید مجدہم، مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی وغیرہ نے اس کی تعریف کی ہے، وہ کتاب آنجناب ضرور پورا کریں مفید ہوگی اور اس میں حضرت شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تصریحات درج کریں۔

”ہدایۃ الشیعہ“ میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے دو تین جگہ ”آب حیات“ کی تائید کی ہے اور حضرت شاہ عبدالغنی صاحب نے ”انجاء الحاجۃ“ میں جا بجا خوب لکھا ہے منجملہ اسکے ص ۱۰۷ ابن ماجہ اس حدیث کے نیچے کہ: لو کنت استقبلت من امری ما استدبرت ما غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر نسائہ۔

حاشیہ: ای لو علمت دبرہ ما غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر نسائہ لان عصیۃ نکاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاتنقطع بالموت کما روى البخاری عن عمار بن یاسر انه قال فی عائشۃ رضی اللہ عنہا انہا زوجتہ فی الدنیا والآخرۃ فاذا کان الامر كذلك فغسل من یحل نظرہ الی عورۃ المیت اولی من غسل غیرہ لانہ ربما ینکشف من عورۃ المیت مع التستر شیء فلہذا غسل علی فاطمۃ رضی اللہ عنہا لانہا کانت زوجتہ فی الدنیا والآخرۃ وبہذا تمسک الشافعی... الخ۔

اور ”مظاہر حق“ میں نواب قطب الدین خاں رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور یہ کتاب حضرت کے حکم سے لکھی ہے اس مسئلے کو خوب صاف کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آنجناب ان بزرگوں کی بھی تصریحات ذکر کریں گے، تاکہ ان پر حجت تام ہو جائے کیونکہ مولانا حسین علی صاحب مرحوم کے سبھی اساتذہ ہیں اور مولانا حسین علی صاحب نے حضرت گنگوہی سے حدیث

پڑھی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب ”بلغۃ الحیران“ کو اپنے کتب خانہ میں رکھنا جائز نہیں سمجھتے تھے اور نہ اس کا مطالعہ اپنے احباب کو کرنے دیتے تھے یہ واقعات آپ کے والد صاحب ^(۱) کو خوب معلوم تھے۔ میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے سامان کریں آپ جو کچھ لکھ رہے ہیں اس کی طباعت کا انتظام ہو جائے۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جبکہ سید رشید رضا صاحب مصری دیوبند تشریف لائے تھے تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے شاہ صاحب نے عربی زبان میں ایک تقریر کی تھی اس میں فرمایا تھا کہ:

”اصول میں تو ہمارے امام مولانا نانوتوی رحمہ اللہ ہیں اور فروع میں امام حضرت گنگوہی رحمہ اللہ ہیں۔“

یہ غلام اللہ حضرت نانوتوی کی شان میں گستاخی کے کلمات کہتا ہے اور عنایت اللہ بخاری نے تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ”المہند“ کی تردید کرتے ہوئے میرے سامنے لاہور میں کہا تھا، گستاخی کے کلمات حضرت کی شان میں کہے تھے میں نے عنایت اللہ کو کہا مولانا خلیل احمد تو دیوبندیوں کے بزرگ ہیں ان کی کتاب پر تصدیقات حضرت شیخ الہند صاحب اور شاہ عبدالرحیم، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہم اللہ اور عرب و عجم کے علماء کی تصدیقیں ہیں۔

”فتاویٰ رشیدیہ“ میں ہے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ: ”انبیاء علیہم السلام کے سماع میں کلام نہیں“۔ فقط

والسلام مع الاکرام

محمد عفا اللہ عنہ۔ لائل پور سنت پورہ مکان ۲۲۳

16 مئی 1966ء ۲۴ محرم الحرام ۱۳۸۶ھ

(۱) حضرت مفتی عبدالکریم گمٹھلوی رحمۃ اللہ علیہ سابق مفتی خانقاہ امدادیہ اشرفیہ تھانہ بھون

مکتوب حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ

بنام مولانا عزیز الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ

۷۸۶

محمد عفا اللہ عنہ لائل پور مدرسہ تعلیم الاسلام

سنت پورہ شب 7 ستمبر 1950ء

عزیز القدر عزیز از جان حافظ عزیز الرحمن سلمہ الرحمن

سلام مسنون! خدا کا شکر ہے کہ آج بڑے ہی انتظار کے بعد عزیز القدر کا فیروزی لفافہ خیریت کی خبر لے کر وارد ہوا، سب کو بہت ہی مسرت ہوئی، بیٹا یہ حجاز مقدس کی سرزمین روز نہیں ملا کرتی، خوب دعائیں رورو کر کر لینا، گناہ بخشوانا، تلاوت کی کثرت، درود شریف اور سلام کی کثرت، طواف کی کثرت کرنا، ہمیں بھی ہر موقع پر یاد رکھنا، تمہاری والدہ بڑی غمگین تھی، خط پڑھ کر بڑی خوش ہوئی، ہمارے سب کی دعائیں تمہارے شامل حال، الحمد للہ ہیں۔

مدینہ منورہ مدرسۃ العلوم معرفت حاجی سید عنایت اللہ شاہ صاحب کے پتہ سے ایک ہوائی ڈاک سے 6 ستمبر 1950ء کو روانہ کیا گیا ہے، ۱۰ کے ٹکٹ لگا کر تمہاری والدہ اور مولوی برکت اللہ اور شفیق حسین کا بھی خط اس میں شامل ہیں، اور ایک لفافہ ہوائی ڈاک مکہ مکرمہ محلہ حارۃ الباب معرفت معلم عمر اکبر روانہ کیا گیا ہے، خدا کرے دونوں مل گئے ہوں، ایک خط کراچی سے معرفت عمر اکبر روانہ کیا گیا تھا ہوائی ڈاک خیر پور کے ڈاکخانہ سے روانہ ہوا تھا، تمہارے بھائی بہن سب کی طرف سے الگ الگ سلام اور ان کے دستخطوں اور عزیز ی ایوب الرحمن سلمہ کا انگوٹھا لگا کر روانہ کیا گیا ہے۔

اب یہ خط احتیاطاً لکھا گیا ہے، مولوی تجل حسین لاکل پوری جو کراچی ملے تھے ان کو ستمبر کی تیس تاریخ کو ہوائی جہاز کراچی کو ان شاء اللہ تعالیٰ روانہ ہوئے، ۲۹ کی صبح کو ضرور جدہ پہنچ جائیگا تاکہ وہ، معلم سے دریافت کرتے رہنا۔ مولانا محمد یونس صاحب آرہے ہیں، ساتھ والا عریضہ حضرت اقدس کی خدمت میں پیش کر دیں۔ حضرت کا معلم سلیمان ہاشم ہے۔

مکتوب حضرت مولانا تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ

بنام حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ

بشرفِ نظر حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم

السلام علیکم! مزاج اقدس!

لکڑ منڈی پر تاب نگر میں مسجد کا پلاٹ اپنے دوستوں کو مل گیا ہے۔ کل صبح اس کا سنگ بنیاد رکھا جانا ہے۔ یہ مقام حضرت کا ہی ہے اس لئے اگر طبیعت متحمل ہو تو تکلیف فرمائیں، دعائے برکت ہو جائے گی۔

والسلام

دعا جو

تاج محمود عفا اللہ عنہ

9 مارچ 1958ء

مکتوب حضرت مولانا انیس الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ

بنام حضرت مولانا محمد انوری لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ

صوفی جی صاحب سے جو میں نے قرارداد کا کاغذ لیا تھا وہ مسی میں نے مولوی شبیر صاحب کو دے دیا تھا۔ انہوں نے دے لفظوں میں وعدہ بھی کیا تھا، معلوم نہیں کیا ہوا۔

میں نے بیان جمعہ میں مفصل اس پر کیا تھا، ریزرویشن منظور ہو گیا دستخطوں کے لئے صبح ٹیلیگراف سنٹر کے افسران وغیرہ سے دستخط حاصل کر کے روانہ کر دوں گا۔

مولوی مظہر علی صاحب والی یادداشت ارسال خدمت ہے۔

والسلام

انیس الرحمن لدھیانوی

حضرت مولانا محمد انوری لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریر

سلام مسنون!

اس کام کو معمولی خیال نہ کریں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا سوال ہے۔ چکڑ الوی دراصل سارے دین

کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وراثت بل نہیں دین اسلام کے خلاف سازش ہے۔

زیادہ سے زیادہ دستخط کروا کر ثواب حاصل کریں۔

محمد عفا اللہ عنہ

عکس تحریر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ

حضرت کا یہ خط مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد

حضرت مولانا فتح الدین رشیدی رحمۃ اللہ علیہ کے نام ہے

مکرم سرا یا نعل و خفایت زین العابدین
 علیؑ سے آپ کا گرامی نامہ روٹی عبرا لہجہ صحت کی رسالت سے پہنچا
 اور پکا جی چند بار جواب کا اتفاقا صفا اور یاد دہانی پہنچ گئی مگر حضرت
 سے کہ مشاغل کی وجہ سے جواب کی توجیہ نہ آئی
 میرا یہ ہی وقت سخت مضر اور ہی آپ کو لازم ہے کہ صحت کی
 ساتھ اپنی مشاغل داؤ کار کی طرف رجوع کریں اور بہتر
 ہو جو شب صبحہ بنی نعل کر کا اور دو رکعت خشوع کی
 ساتھ ادا کر کے اپنی اللہ سے توبہ کریں اور توفیق صحت
 کا اعلان کے ساتھ دعا مانگیں اور اپنا کام التزم کی ساتھ
 شروع کر دیں اور عزم و ہمت کی ساتھ اپنا کام یہاں چلت
 اپنی اور کامیابی کو پاس نہ آئی دین بندہ عقربہ کی آپ کا
 لہ دعا کرتا ہی مشاک بعد یا حی یا قیوم برکت
 رشیدیؒ ایک سو ایک مرتبہ جہر کی ساتھ پڑھ لیا
 اور بارگاہی کی ضرب قلب پر ملنی چاہی —

باقی از کار فرمودی غوغا و دوسری غوغا را علیہم السلام عباد
 پریشان خواب و کافرانہ نکرند سو نیکی دشت آیتہ انور
 سوادہ فافحہ معوذتین بتر بگردم کر میاگرد اور کوئی خواب
 پریشان نظر آوی تو روز دلد عمل را. شعور شکر بکری
 ہنگامہ در او کچھ پرداہ نگرد۔

در حق کی تعبیر میں کسی پرداہ نکرند اور دلد پر تو کالی اکو با
 اور شمال شرفا یعنی سے غوغا کی آیتہ پر ہر دہی کہ
 دو گن کا سابقہ جنت اور زری اور ہر دحل سے خاطر
 کھو آلتی غزرا کہو مگر نہایت زری اور دلت سے بہت
 اور نگو ہر آیت کری۔ اپنی اولیٰ سے نہ سے سنوں کہ بنا
 کہ بہت ہوتو جامع دن اور شہن ایک نفعہ یا نفعہ اور
 بن اسم ذات یعنی لفظ اللہ کو چار ہزار مرتبہ پور کر
 کرو۔ وہم اور دلسا ہر بری بلا ہی ہرگز اور کمال
 نکرند اور۔ دل جن ہر دو کہ جو چیز شریعت میں پاک
 ہی کہی وہ نہ سے وہ ناپاک نہیں ہو سکتی

جگہ دوسرے ہشتی کی خیال نہی جب دوسرے آدمی کو
 بدعمل پڑھو جو امداد سکون کروا دے گی کو اپنی عمل آند
 نہ دوسرے اور زیادہ دوسرے ترقی کرے گا اور وہ کرنی
 سے انشا و پھر رفتہ رفتہ عاتقہ بیگا — اپنی صاحبزادی
 سے بدسلوکی فرمادیگی مگر تلووت قرآن حسب عیبت اور
 صحیح و شام درود — استغفار — سبحان — الحمد
 لا الہ الا اللہ — اللہ اکبر ایک ایک تسبیح پڑھ بیاری
 تمام قدر علاج رکھی گا کر بھی جینر کی کوئی مقدار نہ کوئی
 دنت فزوری جو سپولت میسر ہو اسے یاد دہری وقت
 وہ دیر یا عادی ہر کی مقدار کو کم رکھتا بہتری لیکن کوئی
 عظمت درپیش ہر تو پانچ صد سے بڑا دینا مفاخر نہیں
 مانی عزیز ہی و اسلحہ فزوری
 کسے دوسرے محمود

عکس تحریر حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ

بِسْمِ اِسْمِهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحق یہ ہے ان ہی عزت اسمائے وسمائے وجلت دعائے وعبائے وقرابت منته ولسان
 تلامذہ علی النوع الانسانی فاستخلف اسمائے اماما وخلقہ فی بسیط الارض
 حاکما علی الطول والعرض والماویۃ والسلام علی خیرۃ انبیائہ فادم ومن مساویہ تحت
 لوائہ من المصطفیٰ والذبحقی وحبیبہ البرۃ الکرام وخیرۃ الخیرۃ الختام
 وسائر من اتبعہم باحسان الی یوم الدین آمین ثم آمین اما بعد فان اخانا
 فی الدین القوم المولوی عبدالمہم قد قرأ علی الجامع للامام الترمذی واصح الکتاب
 بعد کتاب اسمہ للجامع الفصح الامیر المؤمنین فی الحدیث الامام البخاری جہا
 اللہ تعالیٰ وجد واجتہد فلما کان علی وشک الرجوع الی الوطن استکتب
 عنی حذو السطور وقد قرأتها علی مسند الوقت شیخنا وشیخ العزیز مولانا
 محمود حسن الہوی رحمہ اللہ تعالیٰ وقد قرأها علی الحدیث العارف مولانا
 محمد قاسم النانوتی رحمہ اللہ تعالیٰ علی الشیخ المدعا جہا الشاہ عبد القوی النانوتی
 باسنادہ الثبت فی الیام الخیر واسہ یوفقه لما یحب ویرضی آمین

محمد انور شاہ
 مدرس دارالعلوم
 دیوبند

عکس تحریر حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ

مکہ مکرمہ حضرت شاہ بہار
 انور محمد القادر السراج علیکم السلام اور حضرت امی مسی اندہ حضرت
 انور حضرت مولانا خیریت تمام مکانیہ ہونگا پیرا پیرا حضرت
 بیسی سید حضرت پیرا پیرا الخیرینا
 کل صوفی نور اور اے فضلے مدوح پیرا حضرت دیوبندی اور
 دانمکال ہوگی انالہ ونا اور اصوفی افسوس عمر افسوس
 ہم فراموش کی ابرو دکھ فاکہ ترنا ایسے بار زنی کا کفرنا
 آرنے لکھو شہرے جب سکت دیکھ سنو حضرت علیہ السلام

عبدالقادر اردہ پورہ می خلیفہ شاہ پورہ کی چکر کی

وظائف و عملیات

حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ خود تحریر فرماتے ہیں کہ:

”حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ:
ذکر ہی کی کثرت سے سب کچھ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی
کرنے کے لیے پڑھے کسی چیز کی بھوک نہیں رہتی۔ جب
اپنے مالک تعالیٰ کو راضی کر لیا باقی کیا رہ گیا۔ مالک الملک کی
مرضی کے ساتھ راضی رہنا ہی اعلیٰ بات ہے۔“

(ملفوظات حضرت رائے پوری: ص 19)

ایک دفعہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جتنے بڑے بڑے بزرگ
ہوئے ہیں مثلاً حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی
اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ان حضرات نے
عملیات کی طرف توجہ نہیں دی سب نے اللہ کا نام ہی لیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق
پیدا کیا ہے۔

غالباً 1953ء کا واقعہ ہے کہ جب حضرت اقدس شاہ عبدالقادر
رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ لائل پور تشریف لائے تو مولانا مفتی یونس مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے
مولانا کے اصرار پر حضرت اقدس تشریف لے گئے، مولانا نے عرض کیا کہ
حضرت مجھے دم فرمائیں حضرت نے دم فرمایا پھر گلاس میں پانی دیا کہ اس پر دم فرما
دیں پھر (مولانا) فرمایا کہ یہاں کے علماء کہتے ہیں کہ پانی میں سانس لینا منع
ہے تو دم کرنا کیسے جائز ہوگا۔ (حضرت اقدس نے) فرمایا پانی پر دم کرتے وقت دم
کرنے والے کی توجہ لینا مقصود ہوتا ہے، سانس ہی ڈالنا منظور نہیں ہوتا۔ پانی پیتے
وقت سانس کی ممانعت اور چیز ہے مولانا کی خوب تسلی ہوگئی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے تھے کہ تعویذ لینے والے کو چاہیے کہ اس وقت تعویذ کی فرمائش کرے جب تعویذ دینے والے کی پوری توجہ ہو اس کا فوری اثر ان شاء اللہ ہوتا ہے ورنہ جب تعویذ لکھنے والے کی توجہ اس طرف نہ ہو یا غصے کی حالت میں ہو کچھ اثر نہیں ہوتا یا برعکس ہو جاتا ہے۔“ (ملفوظات حضرت رائے پوری، ص 21)

وظائف

از حضرت مولانا محمد انوری لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ

1۔ بخار کیلئے:

حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ آیت لکھ دیا کرتے تھے:

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿۶۹﴾ وَأَرَادُوا بِهِ

كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْآخِصِرِينَ ﴿۷۰﴾ (سورة الانبياء: ۶۹، ۷۰)

بخار اتر جاتا تھا۔

2۔ حاجات کیلئے:

دو رکعت اشراق یا چاشت کے پڑھ کر ایک ہزار بار يَا مُعْنِي پڑھے پھر دو رکعت پڑھ کر ایک ہزار بار يَا مُعْنِي پڑھے پھر دو رکعت پڑھ کر ایک ہزار بار يَا مُعْنِي پڑھے پھر دو رکعت پڑھ کر تین سو ساٹھ بار يَا مُعْنِي پڑھے اسی طرح دو تین چلے پورے کر لے۔ (ملفوظات حضرت رائے پوری: ص 18)

3۔ چہل کاف کی اجازت:

احقر (حضرت مولانا محمد انوری قادری لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ) کو ایک بار جبکہ نظام الدین حاضری تھی فرمایا جو آیت دل میں آئے لکھ دیا کرو یا پڑھ کر دم کر دیا کرو ان شاء اللہ صحت ہو جایا کرے گی ایک دفعہ چہل کاف کی بھی اجازت عنایت فرمائی تھی:

کفالك ربك کم یکفیک..... الخ

(ملفوظات حضرت رائے پوری: ص 18)

(چہل کاف ایک دعا ہے جس میں 40 کاف آتے ہیں اسی مناسبت

سے اس کا نام ہے کسی سے اجازت لے کر پڑھنا بہتر ہے۔)

4- سانپ کاٹے کا دم:

ایک دفعہ عرض کی کہ حضرت شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے..... وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي

الْآخِرِينَ ④ سَلَّمَ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ⑤ اِنَّا كَذَلِك نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ⑥
 اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ⑦..... سات بار یا گیارہ بار پڑھ کر سانپ کے کاٹے
 کو دم کرنا فرمایا تھا فرمایا، کہ ضرور دم کر دیا کرو۔

(ملفوظات حضرت رائے پوری: ص 18)

5- باؤ لے کتے یا زہریلے جانور کے کاٹے کا دم:

ایک دفعہ عرض کیا مولانا حسین علی (واں پھراں والے) کتے یا زہریلے

جانور کے لیے نمک پر دم کر دیا کرتے تھے کہ بیمار کو کھلائے کہ دست ہونے لگیں
 فرمایا کہ نمک کی تاثیر ہی یہی ہے کہ اس سے دست ہونے لگتے ہیں جب دست
 ہونے لگتے ہیں تو زہر اتر جاتا ہے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص تین تین بار پڑھنا

چاہیے۔ (ملفوظات حضرت رائے پوری: ص 18)

6- دشمن، حاسد اور ظالم کے شر سے حفاظت کیلئے:

صبح و شام اور دوپہر یعنی ٹھیک نصف النہار کے وقت یہ دعا پچیس پچیس

بار پڑھیں: اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ.....

پڑھتے ہوئے ہم کا اشارہ مخالف کی صورت خیالیہ کی طرف کر دیں صبح و شام پڑھنے

سے پہلے تین یا پانچ بار اول آخردرد و شریف پڑھے۔

(فرمودہ حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری، مکتوبات بزرگاں: ص 24)

7- چھت کی لکڑی کو کیڑا لگنے سے حفاظت کیلئے:

فرمایا فقہائے سبعہ مدینہ ان کے نام مبارک یہ ہیں:
 أَلَا كُلُّ مَنْ لَا يَفْتَدِي بِأَمَّةٍ
 فَحَسْبَتْهُ ضِيْزَى عَنِ الْحَقِّ خَارِجَهُ
 فَخَذُّهُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ عُرْوَةَ قَاسِمِ
 سَعِيدٍ أَبُوبَكْرٍ سُلَيْمَانَ وَ خَارِجَهُ

ترجمہ: ”خبردار جو ائمہ کی اقتدا نہیں کرتے ان کی یہ تقسیم بھونڈی یعنی مہمل ہے۔ پکڑ لیجئے عبید اللہ عروہ، قاسم، سعید، ابوبکر، سلیمان اور خارجه یعنی ان کی اقتداء کیجئے۔“

پس وہ عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود، عروہ بن قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق۔ سعید بن لمسیب، ابوبکر بن عبدالرحمن، سلیمان بن یسار مدنی مولیٰ میمونہ، خارجه بن زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہم۔ اگر کوئی ان اسماء کو کاغذ پر لکھ کر چھت سے تعویذ باندھ دے تو چھت کی لکڑی کو کیڑا نہیں لگتا۔ (انوار انوری جدید: ص 149)

8- لاعلاج مرض کے علاج کیلئے:

ایک آدمی یا کئی آدمی مل کر ہر سورت کی آخری آیت پڑھ کر پانی پر دم کریں تو لاعلاج مرض کے لیے مفید ہے یہ ایک سو چودہ دم ہو گئے۔

(انوار انوری جدید: ص 173)

9- دوکان، گھر اور سامان کی حفاظت کیلئے:

فرمایا حافظ ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جرجان میں آگ لگنے سے ہزار ہا گھر جل گئے اور قرآن بھی جلے لیکن یہ آیات نہ جلیں:

□ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ○ (سورۃ یس: ۳۸)

- وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ○ (سورة آل عمران: ١٢٢)
- وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ○ (سورة ابراهيم: ٣٢)
- وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ○ (سورة ابراهيم: ٣٣)
- وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ○ (سورة بنی اسرائیل: ٢٣)
- تَنْزِيلًا مِّنْ خَلْقِ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ○ أَلرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ○ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ○ (سورة طه: ٦٣)
- يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ○ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ○ (سورة اشعرآء: ٨٨، ٨٩)
- ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ○ (سورة حم السجده: ١١)
- وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ○ (سورة الذاريات: ٥٦)
- إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ○ (سورة الذاريات: ٥٨)
- وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تَعْدُونَ ○ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ○ (سورة الذاريات: ٢٢، ٢٣)
- فرمایا یہ تجربہ ہے کہ آیات مذکورہ کو لکھ کر کسی برتن میں بند کر کے دوکان یا گھریا سامان میں رکھنا حفاظت کے لیے مجرب ہے۔ (انوار انوری جدید: ص 171)
- 10۔ بچوں کو نظر لگ جانا:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ
وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ ○ (بخاری، حدیث: ٣٣٤١)

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس پر یہ الفاظ بھی زیادہ کرے:
حَصَّنْتُكَ بِحَصْنِ أَلْفِ أَلْفٍ ○ (انوار انوری جدید: ص 88)

11- تعویذ ام الصبیان (اجازت از حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ):

محترم المقام زید مجدکم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

واللانا مہ باعث عزت افزائی ہوا، یاد فرمانے کا شکر یہ ادا کرتا ہوں تعویذ

ام الصبیان ارسال خدمت ہے اس کی اجازت بھی ہے موم جامہ کر کے گلے میں

باندھا جائے گا، میرے حج کو جانے کی اطلاع غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک

کرے۔ آمین

نگ اسلاف حسین احمد غفرلہ،

۲۲ ذیقعدہ ۱۳۶۹ھ

۸	۱۱	۲	۱۳	۱
۱۳	۲	۶	۸	۱۳
۶	۶	۱	۸	۶
۸	۲	۴	۳	۲
۳	۲	۲	۹	۲
۱۰	۵	۸	۲	۱۵

12- تعویذ بچگان برائے مسان (سوکڑا):

حضرت علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا خاص عمل ہے۔

اس تعویذ کی حضرت والد صاحب کی طرف سے اجازت ہے انڈے سے ذرا بڑا گھٹیا کدو جس پر داغ نہ ہو ڈنڈی سمیت تازہ لے لیں چاقو یا چھری کی نوک سے تعویذ اس پر لکھنا ہے پھر وہ کدو ایک کپڑے کی تھیلی میں بند کر کے بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ چھوٹا بچہ ہو تو ڈوری ذرا لمبی کر کے چار پائی پر رکھ دیں اور بڑا بچہ ہو تو ایک جیب سلائی کر دیں اور اس میں تھیلی رکھ دیں، تھیلی میلی ہو جائے نہ صاف کرنی ہے اور نہ دھونا ہے۔ اسی طرح چالیس روز مستقل گلے میں رہے چالیس دن بعد گلے سے اتار کر کھیتوں یا کھلی جگہ تقریباً دو فٹ گہرا گڑھا کھود کر تھیلی سمیت دفن کر دیں (اس تعویذ کو قبرستان میں دفن نہ کریں)۔ اور پھر دوسرا تعویذ دیا جاتا ہے جو فوراً گلے میں پہنا جاتا ہے پہلا کدو والا تعویذ بیماری ختم کرنے کے لیے ہے اور دوسرا اس لیے کہ بیماری دوبارہ نہ آئے۔ اس بیماری کی علامات یہ ہیں کہ پیاس بہت لگتی ہے، تالو بند ہو جاتا ہے، گرمی بہت لگتی ہے، ہرے پیلے پاخانے کرتا ہے، کمزوری روز بروز بڑھتی ہے، بیماری ختم ہونے کی علامت یہ ہے کہ کدو خشک ہونا اور بچہ تندرست ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت ہی مجرب ہے پھر سات نمازیوں کو اور ایک کالے کتے کو گوشت روٹی کھلانی ہے (یہ ایک قسم کا عمل کا صدقہ ہے) اگر کوشش کے باوجود کالا کتانہ ملے تو دوسرا ہی سہی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ
مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمْزَاتِ الشَّيْطٰنِ
وَ اَنْ يُّحْضِرُوْنَ اِشْرَاحِيًّا، بِحَقِّ يَا بَدُوْحٍ بِحَكْمِ خَدَا
بِطَفِيْلِ رَسُوْلِ-

دوسرے تعویذ کے دو طریقے ہیں:

(1) یہی تعویذ کاغذ پر لکھ کر ساتھ بیس کا تعویذ لکھ دیں اور بچے کے گلے میں پہنادیں۔

بیس کا تعویذ

۷۸۶

۸	۶	۴	۲
۲	۴	۶	۸
۶	۸	۲	۴
۴	۲	۸	۶

(2) یا پھر اصحاب کہف کے اسماء لکھ کر گلے میں پہنادیں۔ اسمائے اصحاب کہف یہ ہیں:

إِلٰهِىْ مُحَمَّدٌ مِّمَّنْ مَّكْسَلِيْنَا كَشْفُوْطَطْ طَبِيُوْنَسْ
 كَشَا فَطِيُوْنَسْ يُوَانِسْ بُوْسْ وَكَلْبُهُمْ قَطِيْبِرْ وَعَلَى اللّٰهِ
 قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَابِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهْدَكُمُ اَجْمَعِيْنَ
 وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَصَحْبِهِ
 وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

کدو والی تھیلی پیشاب کے وقت اتارنے کی ضرورت نہیں لیکن بچہ پاخانہ کر دے تو اتار کر اونچی جگہ لٹکائیں اور صفائی کے بعد پھر پہنادیں اسی طرح نہلاتے وقت بھی اتار کر نہلائیں باقی چوبیس گھنٹے ڈوری گلے میں رہے اور دوسرا تعویذ مستقل گلے میں رہے گا۔ (فرمودہ حضرت مولانا محمد ایوب الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ)

13- ختم خواجگان، ہر قسم کی حاجت کیلئے:

حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس کا دائمی معمول تھا، عید کے دن بھی ناغہ نہیں ہوتا تھا۔ ختم خواجگان کا معمول بنائیں عموماً یہ اجتماعی طور پر پڑھا جاتا ہے۔

طریقہ ختم خواجگان:

ہر شرکت کرنے والا انفرادی درود شریف دس بار پڑھے۔

پھر اجتماعی تین سوساٹھ مرتبہ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنجِي مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔

(ترمذی حدیث: 3316)

پھر اجتماعی تین سوساٹھ مرتبہ سورۃ الم نشرح مع بسم اللہ مکمل

پھر اجتماعی تین سوساٹھ مرتبہ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنجِي مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔

پھر درود شریف انفرادی دس مرتبہ

اس کے بعد دعا کی جائے۔

14- برائے مفروز شخص و گمشدہ مال:

سرکنڈے یا بانس کے سرے کو درمیان سے ذرا سا چسیر دے لیں (عمودی کٹ لگائیں) اور اس کے دونوں حصوں کے درمیان میں یہ تعویذ پھنسا کر گھر میں اوپر چھت کی سب سے اونچی جگہ کھڑا کر کے باندھ دیں، تاکہ گرنے جائے یہ ممکن نہ ہو تو چھت پر کسی ایسی جگہ لٹکائیں جو اونچی ہو یا کسی درخت پر اونچی جگہ لٹکائیں تاکہ تعویذ ہلتا رہے یا شاخ ہلتی رہے لٹکانے سے پہلے موم جامہ کر لیں آیت یہ ہے:

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَى مَعَادٍ

(سورۃ القصص: ۸۵)

15- رزق کی برکت اور فراوانی کے لیے:

سورة المزمل فجر کی سنتوں کے بعد ایک دفعہ ہر نماز کے بعد دو دفعہ اول و آخر درود شریف۔ (بروایت حاجی غلام مصطفیٰ جالندھری رحمۃ اللہ علیہ)

16- حضرت علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مطبوعہ بیاض ”خزائن الاسرار“ جسے مجلس علمی ڈابھیل نے شائع کیا ہے۔ اسی طرح حضرت شاہ صاحب کے خصوصی مجربات، مؤثر عملیات زود اثر اور اد پر مشتمل بیاض ”عملیات کشمیری المعروف بہ گنجینہ اسرار“ کے نام سے ہندوستان و پاکستان سے شائع ہو رہی ہے۔ دونوں کتب حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حسب الارشاد شائع ہوئی ہیں، اسی طرح حضرت مولانا انظر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی مرتبہ کتاب ”اسماء الحسنیٰ کی برکات“ بھی ان کی بہترین علمی و روحانی یادگار ہے۔ بلا مبالغہ ان اوراد و وظائف کی تاثیر ان لوگوں کی زبانی بارہا سنی جنہوں نے استفادہ کیا۔ دلائل الخیرات اور الحزب الاعظم حضرت اقدس رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ کا ساری عمر کا معمول تھا۔



مشائخ قادریہ مجددیہ غفورہ رحیمیہ

841ھ	حضرت سید ابوالحسن علی کشمیریؒ	22	11ھ	حضرت سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ	1
898ھ	حضرت سید گدار حسن اولؒ	23	40ھ	امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰؒ	2
964ھ	حضرت شمس الدین عارف طبرستانیؒ	24	110ھ	حضرت امام الائمہ خواجہ حسن بصریؒ	3
977ھ	حضرت سید گدار حسن ثانی سرحدیؒ	25	156ھ	حضرت خواجہ حبیب عجمی بغدادیؒ	4
989ھ	حضرت سید فضیل قادری ٹھٹھویؒ	26	165ھ	حضرت خواجہ داؤد طائی بغدادیؒ	5
981ھ	حضرت شیخ شاہ کمال کیتھلیؒ	27	200ھ	حضرت خواجہ معروف کرنی بغدادیؒ	6
1023ھ	حضرت شیخ شاہ سکندر کیتھلیؒ	28	253ھ	حضرت شیخ ابوالحسن سری سقطیؒ	7
1034ھ	حضرت شیخ احمد فاروقی مجدد الف ثانیؒ	29	298ھ	حضرت سید الطائفہ جنید بن محمد بغدادیؒ	8
1053ھ	حضرت سید آدم بنوری کاظمی مدنیؒ	30	334ھ	حضرت شیخ ابوبکر شبلی بغدادیؒ	9
1093ھ	حضرت شیخ شاہ حبیب پشاورىؒ	31	371ھ	حضرت شیخ عبدالعزیز تیمی بغدادیؒ	10
1146ھ	حضرت شیخ شاہ شہباز پشاورىؒ	32	425ھ	حضرت شیخ عبدالواحد تیمی بغدادیؒ	11
1184ھ	حضرت شیخ شاہ محمد مؤمن نگریؒ	33	447ھ	حضرت شیخ ابوالفرح محمد یوسف اندکیؒ	12
1189ھ	حضرت حافظ محمد صدیق بویریؒ	34	486ھ	حضرت شیخ ابوالحسن علی قرشی الہنکاریؒ	13
1202ھ	حضرت حافظ محمد بن اسرائیل عمرزیؒ	35	513ھ	حضرت شیخ ابوسعید مبارک مخزی بغدادیؒ	14
1238ھ	حضرت شاہ محمد شعیب تورڈھیریؒ	36	561ھ	حضرت سید الطائفہ عبدالقادر جیلانیؒ	15
1295ھ	حضرت حافظ عبدالغفور اخوند سواتیؒ	37	603ھ	حضرت سید عبدالرزاق جیلانی بغدادیؒ	16
1303ھ	حضرت میانجیو عبدالرحیم سہارنپوریؒ	38	611ھ	حضرت سید شرف الدین قتال مدنیؒ	17
1337ھ	حضرت شاہ عبدالرحیم رائیپوریؒ	39	659ھ	حضرت سید عبدالوہاب یسویؒ	18
1382ھ	حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائیپوریؒ	40	702ھ	حضرت شیخ سید بہاء الدین قندھاریؒ	19
1389ھ	حضرت مولانا محمد انوری لائل پوریؒ	41	742ھ	حضرت شیخ سید عقیل کوکانیؒ	20
			799ھ	حضرت شمس الدین صحرائی قندھاریؒ	21

رحمة الله تعالى عليهم اجمعين رحمة واسعة دائماً ابداً


مشائخ نقشبندیہ مجددیہ سعدیہ غفوریہ

936ھ	حضرت مولانا محمد زاہد الوتشیؒ	20	11ھ	حضرت سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ	1
970ھ	حضرت مولانا درویش محمد الالکنویؒ	21	13ھ	امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیقؓ	2
1008ھ	حضرت خواجگی املکنگیؒ	22	33ھ	حضرت سلمان فارسیؓ	3
1012ھ	خواجہ محمد باقی باللہ دہلویؒ	23	108ھ	قاسم بن محمد بن ابی بکرؓ	4
1034ھ	شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانیؒ	24	148ھ	امام جعفر صادق بن امام محمد باقرؓ	5
1053ھ	سید آدم بنوری کاظمی مدنیؒ	25	279ھ	خواجہ بایزید بسطامیؒ	6
1108ھ	شیخ سعدی بلخاری لاہوریؒ	26	425ھ	خواجہ ابوالحسن علی خرقانیؒ	7
1132ھ	شیخ محمد یحییٰ انکیؒ	27	477ھ	ابوعلی فضل فارمدیؒ	8
1190ھ	شیخ محمد عمر چکنی پشوریؒ	28	535ھ	یوسف بن ایوب ہمدانیؒ	9
1191ھ	سید شاہ محمد سدویؒ	29	575ھ	خواجہ عبدالملق غجدوانیؒ	10
1198ھ	حافظ محمد صدیق بونیریؒ	30	616ھ	خواجہ عارف ریوگریؒ	11
1202ھ	حافظ محمد بن اسرائیل عمر زئیؒ	31	717ھ	خواجہ محمود انجیر فغویؒ	12
1238ھ	شاہ محمد شعیب تورڈھیریؒ	32	715ھ	خواجہ عزیزان علی رامیتنیؒ	13
1295ھ	حافظ عبدالغفور اخوند سواتیؒ	33	755ھ	خواجہ محمد بابا سامیؒ	14
1303ھ	مولانا میا نیجو عبدالرحیم سہارنپوریؒ	34	772ھ	خواجہ شمس الدین میر کلالؒ	15
1337ھ	مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوریؒ	35	791ھ	امام الطریقہ سید بہاء الدین نقشبندؒ	16
1382ھ	مولانا شاہ عبدالقادر رائیپوریؒ	36	802ھ	خواجہ علاء الدین عطارؒ	17
1389ھ	حضرت مولانا محمد انوری لائل پوریؒ	37	851ھ	مولانا یعقوب بن عثمان چرنیؒ	18
			595ھ	حضرت خواجہ عبید اللہ احرارؒ	19

رحمة الله تعالى عليهم اجمعين رحمة واسعة دائماً ابداً


مشائخ چشتیہ نظامیہ قدوسیہ امدادیہ رحمۃ اللہ علیہم

1	حضرت سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ	11ھ	21	حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغؒ	757ھ
2	امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰؑ	40ھ	22	حضرت سید محمد حسینی کیسودرازؒ	825ھ
3	حضرت خواجہ حسن بن یسار بصریؒ	110ھ	23	حضرت شیخ صدر الدین اودھیؒ	860ھ
4	حضرت عبدالواحد بن زیدؒ	170ھ	24	حضرت شیخ علاء الدین اودھیؒ	889ھ
5	حضرت خواجہ فضیل بن عیاضؒ	187ھ	25	حضرت شیخ ابن حکیم اودھیؒ	901ھ
6	حضرت سلطان ابراہیم بن ادم بلخیؒ	166ھ	26	حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہیؒ	944ھ
7	حضرت حدیفہ مرعشیؒ	202ھ	27	حضرت شیخ جلال الدین بن محمودؒ	980ھ
8	حضرت ابوہبیرہ بصریؒ	287ھ	28	حضرت شیخ نظام الدین بن عبدالشکورؒ	1035ھ
9	حضرت ممشاہد علودینوریؒ	299ھ	29	حضرت شیخ ابوسعید گنگوہیؒ	1040ھ
10	حضرت ابواسحاق شامیؒ	329ھ	30	حضرت شیخ محب اللہ الہ آبادیؒ	1058ھ
11	حضرت ابو احمد ابدال چشتیؒ	355ھ	31	حضرت سید شاہ محمدیؒ	1107ھ
12	حضرت ابو محمد ابی احمد چشتیؒ	411ھ	32	حضرت شاہ محمد کی جعفریؒ	1145ھ
13	حضرت ابو یوسف بن سمان چشتیؒ	459ھ	33	حضرت شاہ عضد الدین بن حامدؒ	1172ھ
14	حضرت قطب الدین مودود چشتیؒ	527ھ	34	حضرت شاہ عبدالہادی بن محمدؒ	1190ھ
15	حضرت حاجی شریف زندنیؒ	621ھ	35	حضرت شاہ عبدالباریؒ	1226ھ
16	حضرت خواجہ عثمان ہارونیؒ	617ھ	36	حضرت شاہ عبدالرحیم شہید ولایتیؒ	1246ھ
17	حضرت خواجہ معین الدین حسن اجمریؒ	632ھ	37	حضرت میا نجیو نور محمد جھنجھانویؒ	1259ھ
18	حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکےؒ	634ھ	38	حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کیؒ	1317ھ
19	حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکرؒ	668ھ	39	حضرت امام ربانی رشید احمد گنگوہیؒ	1323ھ
20	حضرت شیخ نظام الدین اولیاء بدایونیؒ	725ھ			



مشائخ چشتیہ صابریہ قدوسیہ امدادیہ رحمۃ اللہ علیہم

715ھ	حضرت شمس الدین ترک پانی پتیؒ	21	11ھ	حضرت سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ	1
725ھ	حضرت جلال الدین کبیر اولیاء پانی پتیؒ	22	40ھ	امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰؑ	2
836ھ	حضرت شیخ احمد عبدالحق رودلوویؒ	23	110ھ	حضرت امام الائمہ خواجہ حسن بصریؒ	3
859ھ	حضرت عارف بن عبدالحق رودلوویؒ	24	170ھ	حضرت خواجہ عبدالواحد بن زیدؒ	4
898ھ	حضرت محمد بن عارف رودلوویؒ	25	187ھ	حضرت خواجہ فضیل بن عیاضؒ	5
944ھ	حضرت عبدالقدوس نعمانی گنگوہیؒ	26	162ھ	حضرت سلطان ابراہیم بن ادھمؒ	6
980ھ	حضرت جلال الدین تھانیسریؒ	27	202ھ	حضرت خواجہ حذیفہ مرعشیؒ	7
1024ھ	حضرت شیخ نظام الدین بلخیؒ	28	287ھ	حضرت خواجہ ابوہبیرہ بصریؒ	8
1040ھ	حضرت شیخ ابوسعید گنگوہیؒ	29	299ھ	حضرت خواجہ ممشاد علودینوریؒ	9
1058ھ	حضرت شیخ محب اللہ آبادیؒ	30	329ھ	حضرت خواجہ ابواسحاق شامیؒ	10
1107ھ	حضرت سید شاہ محمدی اکبر آبادیؒ	31	355ھ	حضرت خواجہ ابوالاحمد ابدال چشتیؒ	11
1145ھ	حضرت شاہ محمد کی جعفری مروہیؒ	32	311ھ	حضرت خواجہ ابو محمد چشتیؒ	12
1172ھ	حضرت شاہ عضد الدین مروہیؒ	33	459ھ	حضرت خواجہ ابو یوسف چشتیؒ	13
1190ھ	حضرت شاہ عبدالہادی مروہیؒ	34	527ھ	حضرت خواجہ قطب الدین موود چشتیؒ	14
1226ھ	حضرت شاہ عبدالباری مروہیؒ	35	616ھ	حضرت خواجہ حاجی شریف زندنیؒ	15
1246ھ	حضرت شاہ عبدالرحیم شہید ولایتیؒ	36	617ھ	حضرت خواجہ عثمان ہارونیؒ	16
1259ھ	حضرت میا نجبونور محمد جھنجھانویؒ	37	632ھ	حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیریؒ	17
1317ھ	سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجرکیؒ	38	634ھ	حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکئیؒ	18
1323ھ	امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہیؒ	39	668ھ	حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکرؒ	19
			690ھ	حضرت علاء الدین علی احمد صابری کلہیؒ	20



مشائخ سہروردیہ بخاریہ ولی اللہیہ امدادیہ

1	حضرت سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ	11ھ	20	حضرت سید عبدالوہاب بخاریؒ	932ھ
2	امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰؑ	40ھ	21	شیخ عبدالعزیز عرف بحر موانج شکر بارؒ	975ھ
3	حضرت امام الأئمہ خواجہ حسن بصریؒ	110ھ	22	حضرت سید جلال الدین اکبر آبادیؒ	969ھ
4	حضرت خواجہ حبیب عجمیؒ	156ھ	23	حضرت سید بدر الدین اکبر آبادیؒ	998ھ
5	حضرت خواجہ داؤد بن نصر طائیؒ	165ھ	24	حضرت سید عظمت اللہ اکبر آبادیؒ	1074ھ
6	حضرت خواجہ معروف کرنیؒ	200ھ	25	حضرت الامام شاہ عبدالرحیم دہلویؒ	1131ھ
7	حضرت خواجہ سری سقطیؒ	250ھ	26	حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ	1176ھ
8	سید الطائفہ خواجہ جنید بن محمد بغدادیؒ	297ھ	27	حضرت شاہ عبدالعزیز دہلویؒ	1239ھ
9	حضرت خواجہ ممشاد علودینوریؒ	299ھ	28	حضرت سید احمد شہید رائے بریلویؒ	1246ھ
10	حضرت شیخ احمد اسود دینوریؒ	367ھ	29	حضرت میا نجیو نور محمد جھنجھانویؒ	1259ھ
11	حضرت شیخ ابو محمد بن عبداللہؒ	373ھ	30	سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجرکیؒ	1317ھ
12	حضرت شیخ وجیہ الدین عمر سہروردیؒ	465ھ	31	امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہیؒ	1323ھ
13	حضرت شیخ ضیاء الدین عبدالقادر سہروردیؒ	563ھ	32	حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیریؒ	1352ھ
14	حضرت شہاب الدین سہروردیؒ	632ھ	33	حضرت مولانا محمد انوری لائل پوریؒ	1389ھ
15	حضرت شیخ بہاء الدین زکریا ملتانیؒ	666ھ			
16	حضرت شیخ صدر الدین عارف ملتانیؒ	684ھ			
17	حضرت شیخ رکن الدین ابوالفتح ملتانیؒ	735ھ			
18	سید جلال الدین بخاری مخدوم جہانیاںؒ	785ھ			
19	حضرت سید صدر الدین راجو قتالؒ	827ھ			

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رحمۃً واسعۃً دائماً ابداً

خاندانی شجرہ سہروردیہ مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ

حضرت شاہ کرمان ابوالفیاض المعروف میر سید احمد کرمانی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ

↓
حضرت سید محمد مسافر کرمانی ابن شاہ کرمان رحمۃ اللہ علیہ

↓
حضرت شاہ مسعود زوری رحمۃ اللہ علیہ (نزورہ کشمیر)

↓
حضرت سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ

↓
حضرت سید بابا علی رحمۃ اللہ علیہ

↓
حضرت سید عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ

↓
حضرت سید پیر حیدر رحمۃ اللہ علیہ

↓
حضرت سید پیر اکبر رحمۃ اللہ علیہ

↓
حضرت سید شاہ عبدالخالق رحمۃ اللہ علیہ

↓
حضرت شاہ عبدالکبیر رحمۃ اللہ علیہ

↓
حضرت مولانا معظم شاہ رحمۃ اللہ علیہ (ورنو کشمیر)

↓
حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ 1352ھ (دیوبند)

↓
حضرت مولانا محمد انوری قادری لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ 1389ھ (فیصل آباد)

حضرت شاہ صاحب مرحوم کے آباء واجداد دو سو سال قبل بغداد سے

ہندوستان پہنچے اور مختلف مقامات پر قیام کرنے کے بعد کشمیر میں سکونت اختیار کی۔

آپ کا پورا سلسلہ اولیاء اللہ اور کاملین سے سرفراز ہے۔ خصوصاً ”شاہ فتح اللہ“ اور ”شاہ مسعود نزوری“ ہر دو کے مزارات کشمیر میں مرجع خاص و عام ہیں۔ شیخ مسعود نزوری رحمۃ اللہ علیہ جن تک حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیشتر اپنا نسب پہنچایا ہے۔ سری نگر کے ایک دور افتادہ محلہ ”نزورہ“ میں رہائش پذیر تھے۔ ان کا شمار کشمیر کے متمول لوگوں میں تھا۔ اور اس قدر وسیع کاروبار تھا کہ ”ملک التجار“ کے لقب سے شہرت پائی۔ حضرت شاہ کرمان ابوالفیاض رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی، یہ وہی شاہ کرمان ہیں جو میر سید کرمانی رئیس الاولیاء کے نام سے مشہور ہیں.....

میر سید کرمانی قدس سرہ کے حالات مشہور ہیں بلکہ کشمیر کے ہر مؤرخ نے ان کے تفصیلی حالات کا ذکر کیا ہے۔ 976ء میں شاہ کرمان نے شیخ مسعود نزوری کو ایک خاص تحریر خلافت کے ساتھ کچھ تبرکات عطا فرمائے اور دستاویز خلافت میں لکھا ”یہ تبرکات مجھے میرے بزرگوں سے حاصل ہوئے ہیں اور اب میں انہیں شیخ مسعود نزوری کے سپرد کرتا ہوں۔“ (نقش دوام، ص 25)

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

کتبہ: ابو حذیفہ عمران فاروق غفرلہ
شعبان المعظم ۱۴۳۸ھ مئی 2017ء



نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم

بِاسْمَائِهِ الْمُبَارَكَةِ
 مِنْ حُجَّةِ الْإِسْلَامِ الْإِمَامِ السَّيِّدِ
 مُحَمَّدِ انورِ شَاهِ الْكَشْمِيرِيِّ الدِّيُونَدِيِّ
 قَدَّسَ اللَّهُ أَسْرَارَهُمْ -

حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصیدہ اپنے رسالہ ”متبرکہ“ چہل حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں اردو ترجمہ کے ساتھ ۱۲ جمادی الثانی ۱۳۸۶ھ 29 ستمبر 1966ء کو شائع کیا تھا۔ اس قصیدہ میں اشعار کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتر (72) اسماء گرامی درج ہیں۔ اللہ کے شکر کے ساتھ انتہائی مسرت ہے کہ یہ نعتیہ قصیدہ دوبارہ شائع کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ؛

اس قصیدہ کو روزانہ پڑھنے کی تاثیر یہ ہے کہ عموماً پڑھنے والا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا رہتا ہے۔



<p>قَسِيمٌ جَسِيمٌ بَسِيمٌ وَسِيمٌ</p>	<p>شَفِيعٌ مُطَاعٌ نَبِيٌّ كَرِيمٌ</p>
<p>آپ ﷺ صاحب جمال ہیں۔ آپ ﷺ خوش قامت ہیں۔ آپ ﷺ تبسم فرمانے والے ہیں۔ آپ ﷺ خوبصورت ہیں۔</p>	<p>آپ ﷺ شفاعت فرمانے والے ہیں۔ آپ ﷺ کی فرمانبرداری فرض ہے۔ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، آپ ﷺ اللہ کے نزدیک مکرم ہیں۔</p>
<p>كَرِيمٌ الْكَرَامِ نَبِيُّ الْاَلَانِيهِ</p>	<p>شَفِيعُ الْاَنَامِ مُطَاعُ الْمَقَامِ</p>
<p>آپ ﷺ کریموں کے کریم ہیں، آپ ﷺ مخلوق کے نبی ہیں۔</p>	<p>آپ ﷺ مخلوق کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ آپ ﷺ کا مقام یہ ہے کہ سب آپ کی اطاعت کریں۔</p>
<p>صَبِيحٌ مَلِيحٌ مُطِيبُ الشَّمِيمِ</p>	<p>اَسِيْلُ رَسِيْلٍ كَجِيْلٍ جَمِيْلٍ</p>
<p>آپ ﷺ بہت خوشبو دہندے ہیں۔ آپ ﷺ عمدہ خوشبو والے ہیں۔ (آپ ﷺ کے بدن مبارک سے خوشبو آتی تھی۔)</p>	<p>آپ ﷺ نرم بدن مبارک والے ہیں۔ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ آپ ﷺ سرگیں آنکھوں والے ہیں۔</p>
<p>بَشْعَرٍ بَسِيْمٍ كَدَرٍ يَتِيْمٍ</p>	<p>مَقَاضُ الْحَبِيْنِ كَبَدْرٍ مُبِيْنٍ</p>
<p>آپ ﷺ تبسم فرمانے والے، ان دانٹوں سے جو نایاب موتی کی مانند ہیں۔</p>	<p>آپ ﷺ کشادہ پیشانی والے ہیں۔ آپ ﷺ روشن بدر کی طرح ہیں۔</p>
<p>بِشْرِ الْمَحْيَا وَنَشْرِ الْحَيِّمِ</p>	<p>شَفَاءُ الْعَلِيْلِ رَوَاءُ الْعَلِيْلِ</p>
<p>آپ ﷺ خوش چہرے والے ہیں۔ (پیشانی) کی کشادگی کی رو سے اور خصائل نیک پھیلانے سے۔</p>	<p>آپ ﷺ بیمار کے لیے باعث شفا ہیں۔ پیاسے کو سیراب کرنے کا ذریعہ ہیں۔</p>

<p>رَسُولٌ وَصَوْلٌ وَوَلِيٌّ حَفِيٌّ آمِينَ مَكِينٌ عَزِيزٌ عَظِيمٌ</p>	<p>رَسُولٌ وَصَوْلٌ وَوَلِيٌّ حَفِيٌّ آمِينَ مَكِينٌ عَزِيزٌ عَظِيمٌ</p>
<p>آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے بہت ملنار ہیں۔ آپ ﷺ مددگار (دوست) ہیں۔ آپ ﷺ بہت مہربان ہیں۔</p>	<p>آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے بہت ملنار ہیں۔ آپ ﷺ مددگار (دوست) ہیں۔ آپ ﷺ بہت مہربان ہیں۔</p>
<p>عَرُوفٌ عَطُوفٌ رَوْفٌ رَحِيمٌ</p>	<p>صَدُوقٌ فَرُوقٌ فَصِيحٌ نَصِيحٌ</p>
<p>آپ ﷺ عارف (بہت جاننے والے) ہیں، آپ ﷺ بہت زیادہ نرم پہلو ہیں، بہت زیادہ ترس کھانے والے، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔</p>	<p>آپ ﷺ نہایت ہی سچے ہیں، حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ آپ ﷺ فصیح اللسان ہیں۔ آپ ﷺ مخلوق کے خیر خواہ مخلص ہیں۔</p>
<p>صَفُوحٌ نَصُوحٌ عَفُوءٌ حَلِيمٌ</p>	<p>شَفِيقٌ رَقِيْقٌ خَلِيْقٌ طَلِيْقٌ</p>
<p>آپ ﷺ درگزر فرمانے والے ہیں۔ آپ ﷺ خیر خواہ ہیں، آپ ﷺ معاف فرمانے والے ہیں۔ آپ ﷺ صاحب حلم (بردار) ہیں۔</p>	<p>آپ ﷺ مخلوق پر شفقت فرمانے والے ہیں۔ آپ ﷺ نہایت نرم دل ہیں آپ خوش اخلاق ہیں، آپ ﷺ خندہ پیشانی والے ہیں۔</p>
<p>حَسِيْبٌ نَسِيْبٌ وَنُوْرٌ قَدِيْمٌ</p>	<p>هُجِيْبٌ مُنِيْبٌ نَقِيْبٌ نَجِيْبٌ</p>
<p>آپ ﷺ خاندانی شرافت والے ہیں۔ آپ ﷺ عالی نسبت ہیں۔ آپ ﷺ کا نور سب سے پہلے ظاہر ہوا۔</p>	<p>آپ ﷺ درخواست قبول فرمانے والے ہیں، آپ ﷺ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ آپ ﷺ سردار ہیں، آپ ﷺ شریف الاصل ہیں۔ (آپ ﷺ کا قول فعل لائق ستائش ہے)۔</p>

<p>خَبِيرٌ بَصِيرٌ دَلِيلٌ عَلِيمٌ</p> <p>آپ ﷺ سب سے زیادہ خبر رکھنے والے ہیں۔ آپ ﷺ نور بصیرت (فراست) والے ہیں۔ آپ ﷺ راہنما ہیں، آپ ﷺ سب سے زیادہ علم والے ہیں۔</p>	<p>بَشِيرٌ نَذِيرٌ سِرَاجٌ مُنِيرٌ</p> <p>آپ ﷺ بشارت سنانے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، آپ ﷺ روشن چراغ ہیں۔</p>
<p>وَحَيْرٌ الْعِبَادِ ثَمَالُ الْعَدِيمِ</p> <p>آپ ﷺ باری تعالیٰ کے بہترین بندوں میں سے ہیں۔ آپ ﷺ مفلس کے غمخوار ہیں، غریبوں کے فریادرس ہیں۔</p>	<p>دَلِيلٌ وَهَادٍ سَبِيلَ الرَّشَادِ</p> <p>آپ ﷺ رہبر و راہنما ہیں اور صراطِ مستقیم کی ہدایت کرنے والے ہیں۔</p>
<p>وَجِيهٌ نَبِيهٌ مُبِينٌ حَكِيمٌ</p> <p>آپ ﷺ عند اللہ صاحبِ وجاہت ہیں، آپ ﷺ کی شان بلند ہے آپ ﷺ حق کے ظاہر کرنے والے ہیں۔ آپ ﷺ دانشمند ہیں۔</p>	<p>تَقِيٌّ نَقِيٌّ صَفِيٌّ وَ فِيٌّ</p> <p>آپ ﷺ تقویٰ والے ہیں، آپ ﷺ نچافت پسند ہیں، آپ ﷺ برگزیدہ ہیں، آپ ﷺ پورا حق دینے والے ہیں۔</p>
<p>صَبُورٌ شَكُورٌ مُقَفِّ مُقِيمٌ</p> <p>آپ ﷺ نہایت متحمل (صابر) ہیں، آپ ﷺ نہایت قدردان (شکر گزار) ہیں، آپ ﷺ ہمیشہ کے لئے آخری نبی ہیں، آپ ﷺ صراطِ مستقیم پر چلانے والے ہیں۔</p>	<p>هُدَى مُقْتَدَى مُصْطَفَى الْأَصْفِيَاءِ</p> <p>آپ ﷺ عظیم الشان ہادی ہیں آپ ﷺ مقتدا ہیں، آپ ﷺ برگزیدوں کے برگزیدہ ہیں۔</p>

سَعِيدٌ رَشِيدٌ خَلِيلٌ كَلِيمٌ	مُزْمَلٌ ثُمَّ مُدَّتْرٌ
آپ ﷺ صاحب سعادت ہیں، آپ ﷺ صاحب رُشد ہیں، آپ ﷺ خلیل (اللہ کے دوست) ہیں، آپ ﷺ کلیم (اللہ سے ہم کلامی کرنے والے) ہیں۔	آپ ﷺ کسبل اوڑھنے والے ہیں، آپ ﷺ چادر اوڑھنے والے ہیں۔
هُوَ الْقُدْوَةُ الْأَسْوَةُ الْمُسْتَقِيمُ	عَفِيفٌ حَنِيفٌ حَبِيبٌ خَطِيبٌ
آپ ﷺ ہی کی اقتداء کرنی چاہیے۔ آپ ﷺ درست نمونہ ہیں۔	آپ ﷺ پاک دامن ہیں، آپ ﷺ ایک اللہ تعالیٰ کے ہو رہنے والے ہیں، آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، آپ ﷺ خطیب الانبیاء ہیں۔
وَطَهُ وَيَسُ فَيْضٌ عَمِيمٌ	نَبِيُّ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ
آپ ﷺ طہ ہیں، آپ ﷺ یاسین ہیں، آپ ﷺ کا فیض عام ہے۔	آپ ﷺ تمام نبیوں کے نبی ہیں اور رسولوں کے بھی نبی ہیں۔
نَجِيُّ الْإِلَهِ جَلِيلٌ فَخِيمٌ	نَبِيُّ الْوَرَى سَيِّدُ الْأَنْبِيَاءِ
آپ ﷺ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے والے ہیں، آپ ﷺ بڑے باعظمت ہیں۔ آپ ﷺ کی شان بڑی ہے۔	آپ ﷺ ساری مخلوقات کے نبی ہیں، آپ ﷺ انبیاء علیہم السلام کے سردار ہیں۔

غِيَاثُ الْوَرَى مُسْتَعَاثُ الْهَضِيمِ	إِمَامُ الْهُدَى رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کے فریادرس ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی فریاد سننے والے اور مددگار ہیں۔	آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے امام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لئے رحمت ہیں۔
وَخَيْرُ الْبَرَآيَا بِفَضْلِ جَسِيمِ	أَحِيدٌ وَوَحِيدٌ فَحِيدٌ حَمِيدٌ
ساری مخلوقات میں بے مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔	آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات میں بے مثال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکتائے عالم ہیں۔ آپ بزرگ ہیں، تعریف کے لائق ہیں۔
كَنُورٌ تَجَلَّى بِلَيْلٍ بَهِيمِ	وَأَسْرَى بِهِ رَبُّهُ فِي السَّمَاءِ
ایسے جیسے کہ نور چمکتا ہو اندھیری رات میں۔	آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے رب نے راتوں رات آسمانوں میں سیر کرائی۔
وَ أَوْحَى إِلَيْهِ يَوْحِي رَقِيمِ	وَآتَاهُ مَا شَاءَهُ مِنْ عِلَاءٍ
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی لکھی ہوئی محفوظ۔	آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند مراتب جو چاہا سو عطا فرمائے۔
وَ عَزَّ عَزِيزٌ وَوَجَاهٌ قَوِيمِ	فَأَكْرَمَهُ بِشَانٍ سَنِيٍّ بَهِيمِ
اور کس قدر غالب ہے عزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شان دار مرتبہ ہے۔	اور کس قدر بلند شان والے ہیں اور مکرم ہیں جمال اور عظمت والے نبی ہیں۔
مَثَى فَاحٍ طَيْبٌ وَوَأَفَى نَسِيمِ	فَيَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ
جب تک خوشبو مہکتی رہے اور باد صبا چلتی رہے۔	سو اے میرے رب! درود اور سلام بھیج آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔

وَأَنْ عَافِيَنِي وَأَعْفِيَنِي مِنْ أَثَامِي	إِلَهِي بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ
اور یہ کہ مجھے عافیت بخش اور گناہوں کو معاف فرما۔	یا اللہ! بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

1934ء میں جب ہم نے کتاب ”نفحات الطیب النبی الحبيب صلی اللہ علیہ وسلم“ شائع کی تو قصیدہ متبرکہ بھی شائع کیا۔ بے حد مقبول ہوا۔ خصوصاً حضرت مولانا سید احمد رضاؒ برادر بزرگ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ کی خدمت میں کتاب ارسال کی تو علمائے مدینہ نے کتاب کو بے حد پسند فرمایا۔ اور حضرت مولانا کی خواہش پر ہم نے ساڑھے تین سو نسخے مدینہ طیبہ بھیج دیئے۔ مولانا موصوف نے علمائے مدینہ کی خدمت میں ایک ایک نسخہ تقسیم کر دیا۔ اور کتاب کو مدرسۃ العلوم الشریعہ میں داخل نصاب فرمایا۔ اور عالیشان تقریظ سے نوازا۔ الحمد للہ علی احسانہ کہ دربار رسالت میں کتاب داخل نصاب ہوئی۔ اور کئی سال پڑھائی جاتی رہی۔ چنانچہ مدرسہ کی روئیداد سالانہ میں کتاب کا تذکرہ بھی آتا رہا۔ حسرت ہی رہ گئی کہ ملکی انقلاب کے وقت کتاب وہیں رائے کوٹ ضلع لدھیانہ رہ گئی۔ اب صرف احقر کے پاس ایک نسخہ تبرکاً باقی رہ گیا۔ اس قصیدہ کو روزانہ پڑھنے کی تاثیر یہ ہے کہ عموماً قاری زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوتا رہتا ہے۔

والحمد لله على ذلك۔

(رسالہ متبرکہ چہل حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ص 33 تا 39)



<p>سنہ وفات بمطابق ہجری و عیسوی حضرت اقدس مولانا محمد انوری قادری لائل پوری نور اللہ مرقدہ</p>	
<p>(۱) جدا ہوئے شیخ انوری غمزدہ ہوئے اہل خیر کہنے لگے ملائکہ ہوئی آج عاقبت بخیر ۱۳۸۹ھ</p>	
<p>(۲) ٹوٹ گیا مہکتا گل اداس ہوئے سب اہل چمن مرقد ترا تا قیامت رہے اب غایت روشن ۱۹۷۰ء</p>	
<p>(۳) قطاریں تھیں فرشتوں کی نور تھا آسمان تا فرش آجا ضرور مقبول مقام ترا سایہ تختِ عرش ۱۳۸۹ھ ۱۹۷۰ء</p>	
<p>(۴) کون سی صفات تھیں اور کیسے تھے حضرت انوریؒ مستنیر ، تبخر ، حق گو و جری باطل پر تھے شمشیر برہنہ اپنوں پہ رحیم و کریم مثل تھے آپ وانک لعلی خلق عظیم ۱۹۷۰ء</p>	

نتیجہ فکر: ابو حزیفہ عمران فاروق غفرلہ

۲۸ ذی الحجہ ۱۴۳۸ھ 20 ستمبر 2017ء

بروز بدھ

تواریخ وفات حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ

فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى جَلَّ عِلْمُهُ أَبَدًا: «وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ»

$$1920 = 892 + 1028$$

لَقَالَ تَعَالَى: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

$$1389 = 412 + 977$$

فَأَيُّهَا قَالَ جَلَّ مَجْدُهُ: فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ

$$1920 = 1582 + 338$$

از مفتی محمد حامد صاحب، فیصل آباد

مختصر سوانح

حضرت مولانا محمد ایوب الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ

نام و نسب:

محمد ایوب الرحمن بن مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ بن مولانا فتح الدین رحمۃ اللہ علیہ

ولادت:

آپ 11 اپریل 1946ء کو رائے کوٹ ضلع لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔
آپ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔
تعلیم:

ابتدائی تعلیم گھر سے ہی حاصل کی اور حافظ برکت اللہ صاحب کے پاس حفظ قرآن مجید کا آغاز کیا اور اپنے برادر اکبر مولانا حافظ عزیز الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ سے حفظ کی تکمیل فرمائی۔ ابتدائی کتب کی تعلیم اپنے والد گرامی کے زیر سایہ ان کے قائم کردہ مدرسہ تعلیم الاسلام سنت پورہ میں حاصل کی۔ کچھ کتب برادر اکبر مولانا عزیز الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ اور باقی دوسرے اساتذہ کرام سے پڑھیں۔ دورہ حدیث اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مکمل فرمایا۔ 1965ء میں فارغ التحصیل ہوئے۔ پھر 1966ء میں ایبٹ آباد شیخ البانڈی میں حضرت مولانا عبدالواحد رحمۃ اللہ علیہ سے اعزازی طور پر مکرر مشکوٰۃ شریف پڑھی۔ مولانا ایوب الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ کتب دینیہ کے خریدنے اور ان کے مطالعہ کا خاص ذوق رکھتے تھے اور دینی مسائل میں اپنے اکابر علماء دیوبند کی رائے کو حرف آخر سمجھتے تھے۔ حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف چھپوا کر اہل علم تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ مولانا سلیمان احمد بن مولانا سید محمد اظہار الحق سہیل نے بھی آپ کو ۲ شعبان ۱۴۱۵ھ، 29 جنوری 1995ء کو تحریری سند حدیث عطا

کی اس کے علاوہ دیگر علماء سے بھی سند حدیث کی اجازت ہے۔ آپ کو عربی زبان پر بھی عبور حاصل تھا جس کی بدولت عربی کتابوں کا ترجمہ با آسانی کر لیتے تھے، عربی میں فی البدیہہ تقریر کرنے کا ملکہ بھی حاصل تھا، عرب ممالک سے آئی ہوئی تبلیغی جماعتوں کی ترجمانی بھی فرماتے تھے۔ آپ کی عربی اتنی فصیح تھی کہ امام کعبہ شیخ عبداللہ بن سُبَیْل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ آپ سے پوچھا: ”أنت سعودی؟“۔

دینی خدمات:

اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ مدرسہ تعلیم الاسلام سنت پورہ میں تدریس کا آغاز کیا۔ پھر حیدرآباد لطیف آباد نمبر 10 میں مولانا عبدالعلیم ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد و مدرسہ میں کچھ عرصہ تدریس کی۔ 1979ء میں مدینہ مسجد کلفٹن میں تقریباً پانچ سال امامت و خطابت کی خدمات سرانجام دیں۔ پھر فیصل آباد منتقل ہو گئے اور ذاتی کوششوں سے تین مساجد تعمیر کروائیں۔ مسجد اشرفیہ عاصم ٹاؤن میں امامت و خطابت سنبھالی۔ کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر اگست 1998ء میں دوبارہ کراچی منتقل ہو گئے اور ایک مسجد میں اعزازی طور پر خطابت فرمائی۔

بیعت و خلافت:

آپ کو آپ کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہی بیعت کروادیا تھا بچپن میں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں کھیلے اور لڑکپن میں بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت و صحبت سے بہرہ ور ہوتے رہے، تقریباً بارہ برس حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی۔ آپ کو بہت سے علماء و مشائخ سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا اور اجازت و خلافت سے بھی نوازے گئے جن مشائخ سے اجازت حاصل ہوئی ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

1- ابن الانور حضرت مولانا سید محمد انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ مجاز حضرت

- مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ و حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ و دیگر مشائخ۔
- 2- حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ مجاز شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ و حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ۔
- 3- حضرت فتاری محفوظ الحق رحمۃ اللہ علیہ (کراچی)، خلیفہ مجاز حضرت مولانا ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ (ہردوئی)۔
- 4- حضرت مولانا انیس الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ مجاز حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ و داماد حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ۔
- 5- حضرت مولانا عبدالعزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ چک نمبر 11 خلیفہ مجاز مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔
- 6- حضرت مولانا عبدالجلیل قادری رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ مجاز حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ و خلیفہ و داماد حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ۔
- 7- حضرت سید نفیس الحسنی شاہ رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ مجاز حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔
- 8- حضرت صوفی احمد دین رحمۃ اللہ علیہ (راولپنڈی) خلیفہ مجاز حضرت مولانا عبدالوحید رحمۃ اللہ علیہ ڈھڈیاں و حضرت مولانا سعید احمد رحمۃ اللہ علیہ ڈونگا بونگہ۔
- 9- حضرت مولانا محمد ایوب ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ (ایبٹ آباد) خلیفہ مجاز خواجہ عبدالمالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ (خانیوال)۔
- 10- حضرت مولانا غلام مؤمن شاہ رحمۃ اللہ علیہ (لاہور) خلیفہ مجاز حضرت مولانا غلام ربانی رحمۃ اللہ علیہ۔

اس کے علاوہ مشائخ کثیر سے اوراد و وظائف کی اجازت حاصل تھی کراچی میں خانقاہی نظام قائم فرما کر بہت سی جگہوں پر مجالس ذکر شروع کروائیں

ملک کے دیگر شہروں میں بھی خانقاہی نظام و مجالس ذکر کی سرپرستی فرمائی۔
حج و عمرہ:

آپ نے پہلا حج 1957ء میں اپنے والد گرامی کے ہمراہ فرمایا اور
دوسرا حج 1985ء میں کیا اس کے علاوہ کئی بار عمرہ کے سفر پر تشریف لے گئے۔

تصانیف:

- 1- اپنے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ اربعین کی شرح تحریر فرمائی جو 800 صفحات پر مشتمل تھی لیکن صد افسوس کہ حوادثِ زمانہ کی نذر ہو گئی۔
 - 2- ایک مختصر چہل حدیث
 - 3- نماز کے بعد اذکار پر ایک رسالہ ”الاربعین فی وظائف بعد الصلاة للنبی الامین“
 - 4- ”اتحاد بین المسلمین کا اخلاقی پہلو“ کے عنوان پر احادیث جمع فرمائیں۔
 - 5- الاربعین فی اکرام المسلمین -
 - 6- ”انوار الوظائف“ کے نام سے ایک کتاب مرتب فرمائی۔
- اسکے علاوہ مختلف جرائد و ماہناموں میں مضامین کی اشاعت ہوتی رہی۔

وصال پُر ملال:

انتقال سے تقریباً دو سال پہلے مختلف امراض نے گھیر لیا تھا جس کی وجہ سے سفر ترک فرما دیا تھا وصال سے ہفتہ پہلے طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی۔ ۱۲ رمضان المبارک ۱۴۳۶ھ کو بعد نماز تراویح غشی طاری ہو گئی اور تادم حیات حالت استغراق میں رہے۔ ہسپتال بھی منتقل کیا گیا لیکن حالت بدستور رہی۔ پی این ایس شفاء میں کمانڈر عمر ضیاء صدیقی صاحب کے اثر و رسوخ کی وجہ سے کافی سہولت رہی آپ کے چھوٹے بیٹے محمد راشد انوری اور داماد مولانا عبدالحق صاحب ہر طرح

خدمت سرانجام دیتے رہے۔ پھر عزیز واقارب کے مشورہ سے کراچی سے فیصل آباد منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چنانچہ ۱۹ رمضان المبارک کو بعد افطار ایسبولینس پر روانگی ہوئی آپ کے ہمراہ آپ کے دو صاحبزادے محمد طیب اور محمد راشد اور بیٹی اور داماد مولانا عبدالحق تھے۔ آپ کے سر اور چہرے کے قریب چھوٹے بیٹے محمد راشد بیٹھے تھے دوران سفر اس حالت میں آپ ان کے سر پر وقفہ وقفہ سے اپنا شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے رہے۔ اگلے روز تقریباً ۱۲ بج کر ۴۰ منٹ پر کہروڑ پکا پہنچے تو کچھ دیر کے لیے آنکھیں کھولیں اور پڑھا..... اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدا ورسوله لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ..... اور روح قفسِ عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

جنازہ و تدفین:

بعد عصر فیصل آباد پہنچے مسجد انوری کے ملحق کمرے میں آپ کے بھتیجے مولانا خلیل الرحمن انوری نے غسل دیا ساتھ آپ کے صاحبزادوں محمد طیب اور محمد راشد نے مدد کی۔ زم زم سے بھگوئے ہوئے کپڑے میں کفن دیا گیا جو کہ آپ کی چھوٹی صاحبزادی نے بھیجا تھا۔ بعد نماز تراویح بڑے قبرستان غلام محمد آباد میں آپ کے برادر محترم مولانا مقبول الرحمن انوری نے نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے والد محترم کے احاطہ قبور میں دونوں بھائیوں مولانا عزیز الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مسعود الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان میں تدفین ہوئی۔

وصیت:

چونکہ آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے محمد راشد انوری تادم حیات آپ کے ساتھ ہی رہے انہیں آپ نے وصیت کی تھی کہ اگر میرا انتقال کراچی میں ہو گیا تو میری تدفین دارالعلوم کراچی کے اندر قبرستان میں کی جائے چنانچہ صاحبزادہ

نے حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ سے اس کی اجازت بھی لے لی تھی مگر جو اللہ کو منظور.....

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴿٥٥﴾ (سورۃ طہ: ۵۵)

”اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے ایک مرتبہ پھر تمہیں نکال لائیں گے۔“

دوسری وصیت جو اکثر فرماتے تھے کہ، آپ کے پاس حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی لنگی تھی جس میں حضرت رائے پوری کا انتقال ہوا تھا اور اسی لنگی میں آپ کے والد محترم حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا۔ فرمایا کرتے کہ میرے کفن پر ڈال دینا۔ اور ایک رومال تھا جو حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے پوری 1950ء میں حج سے واپسی پر لائے اور آپ کے والد گرامی کو ہدیہ فرمایا تھا وہ بھی سر کی طرف ڈال دیا گیا۔

اولاد:

پسماندگان میں بیوہ، تین بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں:
1- محمد قاسم 2- محمد طیب 3- محمد راشد
آپ نے تمام اولاد کو دینی علوم سے بہرہ مند فرمایا۔

خلفاء و مجازین:

آپ نے جن حضرات کو سلسلہ کی اجازت و خلافت سے نوازا، ان میں سے جن کے اسمائے گرامی دستیاب ہو سکے وہ مندرجہ ذیل ہیں:

کراچی:

(1) مفتی طاہر امام نیوٹاؤن، (2) قاری محمد اقبال ناظم بنوری ٹاؤن، (3) برگید سیر

- (ر) قاری فیوض الرحمن، (4) حافظ عبدالقیوم نعمانی، (5) مفتی محمد نوید ظفر،
 (6) مولانا اعجاز مصطفیٰ امیر ختم نبوت کراچی، (7) بھائی عبداللطیف داماد حضرت
 لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، (8) مفتی حبیب الرحمن لدھیانوی داماد حضرت لدھیانوی
 شہید رحمۃ اللہ علیہ، (9) مولانا محمد یحییٰ لدھیانوی ابن حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ،
 (10) مولانا محمد طیب لدھیانوی ابن حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، (11) کمانڈر
 عمر ضیاء صدیقی، (12) مولانا رشید احمد درخواستی، (13) قاری عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ
 دارالعلوم کراچی، (14) مولانا محمد احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ شہید، (15) بھائی سلیم پریس والے،
 (16) قاری عبدالحی دین پوری نیوٹاؤن، (17) قاری خدا بخش آفیسر کالونی گارڈن،
 (18) قاری محمد بخش، (19) مولانا مشتاق عباسی، (20) مفتی عبدالقدوس استاذ
 سائٹ بنوریہ، (21) مفتی احسان، (22) مولانا اعجاز اشرف، (23) مولانا حُسن
 الرحمن، (24) قاری رفعت الحق، (25) قاری عبدالرحمن دارالعلوم کراچی،
 (26) اقبال احمد جمال

کمالیہ:

(27) مولانا محمد احمد لدھیانوی

کبیر والا:

(28) مولانا عبدالغفار رحمۃ اللہ علیہ

فیصل آباد:

- (29) حضرت حافظ حبیب احمد اختر رحمۃ اللہ علیہ (چک ۱۶۹ گ/ب)، (30) مولانا
 محمد نعیم الرحمن، (31) حافظ غیور الاسلام، (32) مولانا محمد شاہد معاویہ،
 (33) میاں محمد کاشف رشید، (34) مولانا محمد ذیشان، (35) قاری عبداللطیف،
 (36) مولانا عاصم اسلام، (37) ابو حذیفہ عمران فاروق، (38) قاری نصر اللہ رحیمی۔

خان بیلہ:

39- فقیر اللہ بخش

معمولات:

- 1- قرآن مجید کے روزانہ چھ پارے۔
 - 2- الحزب الاعظم کی ایک منزل روزانہ (جو کہ 1957ء سے آپکا معمول تھا)
 - 3- دلائل الخیرات ایک منزل روزانہ اور بروز جمعہ مکمل۔
 - 4- اوراد فتحیہ۔
 - 5- الحزب البحر۔
 - 6- منزل۔
 - 7- ذکر جہری سلسلہ قادریہ۔
- عمر مبارک کے آخری سالوں میں اس کے ساتھ دیگر وظائف و اوراد کی بھی بہت کثرت فرمائی۔





اکابر علماء و مشائخ سے ملاقاتیں

نسبت کے قدردان

ذاتی یادداشتیں

حضرت مولانا محمد ایوب الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ

ابن حضرت اقدس مولانا محمد انوری لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ



1۔ برکتہ العصر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ:

احقر نے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی زیارت فیصل آباد میں حضرت مولانا انیس الرحمن لدھیانوی ابن حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ والی مسجد خالصہ کالج (موجودہ جامعہ ملیہ اسلامیہ) میں کی۔

1962-63ء کی بات ہے وہاں جب حضرت کا قیام ہوا تو پورا شہر ہی اُڈ آیا تھا۔ میں نے حضرت شیخ کو پہلے دیکھا ہوا نہیں تھا۔ جب حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو ہاتھ میں لمبا عصا تھ فرہ جسم مگر سادہ حلیہ۔ گرمی کا موسم تھا۔ رات کو میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کروانا چاہتا تھا چنانچہ میں نے حضرت شیخ کے چہیتے شاگرد اور اپنے بہنوئی حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب سے عرض کیا۔ وہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے دعائیں عرض کرتے رہے۔ اور حضرت آمین فرماتے رہے پھر مجھے فرمایا کہ میں کل آپ کی طرف آؤں گا اور آپ کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نیاز حاصل کرتا ہوا جاؤں گا۔ (یعنی ملاقات کے لیے حاضر ہوں گا) حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں دو مرتبہ حضرت شیخ فیصل آباد آئے دونوں مرتبہ حضرت والد صاحب سے ملاقات کے لیے گھر تشریف لائے میں بغیر اطلاع کے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اب حضرت کے ارشاد پر مجھے فکر لاحق ہوئی کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت کا یہ پیغام کیسے پہنچاؤں۔ پھر میں نے حضرت مولانا عبدالجلیل سے عرض کیا کہ کسی شخص کے ذریعہ والد صاحب تک پیغام پہنچادیں کہ صبح حضرت شیخ تشریف لائیں گے۔ تو حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب نے کسی کے ذریعہ پیغام بھیجا۔ صبح حضرت شیخ مع علماء و احباب تشریف لائے جن میں مولانا احسان الحق صاحب رائیونڈ والے، مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بھی تھے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ استقبال

کے لیے باہر تشریف لائے تو حضرت شیخ نے فرمایا آپ باہر کیوں تشریف لائے آپ اندر ہی تشریف لے جائیں۔

1978ء میں مدینہ منورہ میں ملاقات:

”عشاء کے بعد مدرسہ علوم شریعہ میں جہاں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا قیام تھا ملاقات کے لیے حاضر ہوا وہاں پہنچا تو خدام نے کہا کہ کل بعد عصر تشریف لائیں یہ ملاقات کا وقت نہیں کچھ خدام تو مجھ سے ناواقف تھے لیکن بعض نے واقف ہونے کے باوجود بھی روکا جن میں حضرت صوفی محمد اقبال صاحب بھی تھے جس پر مجھے حیرت تھی۔ میں نے عرض بھی کیا کہ کل میری پاکستان واپسی ہے کل کیسے بعد عصر آسکتا ہوں۔ میں نے صرف حضرت سے مصافحہ کرنا ہے میں خدام کی سنی ان سنی کر کے اندر چلا گیا۔ اندر ایک بڑا لمبا کمرہ تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ چار پائی پر تشریف فرما تھے، دسترخوان بچھایا جا رہا تھا بہت سے حضرات نیچے تشریف فرما تھے جن میں حضرت قاضی عبدالقادر صاحب جھواریاں والے اور مولانا عبید اللہ دہلی والے بھی موجود تھے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ مجھے پہچان نہ پائے اور مجھے فرمایا بھائی! آپ کس کے اعمال نامہ میں ہیں“ اس پر میں نے عرض کیا کہ حضرت! میں تو صرف مصافحہ کے لیے حاضر ہوا تھا جب میں مصافحہ کر کے رخصت ہو رہا تھا اور دروازہ تک پہنچ گیا تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قاضی عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کون تھے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے۔ یہ سنتے ہی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے باواز بلند تیزی سے تین بار فرمایا بلاؤ، بلاؤ، بلاؤ! میں نے جاتے جاتے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ سن تو لیے مگر میں عجلت میں مدرسہ سے باہر آ گیا۔ وہی خدام جو مجھے پہلے اندر جانے سے روک رہے تھے اب میرے پیچھے بھاگے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھے نہیں

کسی اور کو بلایا ہوگا۔ اس پر وہ واسطے دے کر اصرار کرنے لگے کہ اندر تشریف لے جائیں ورنہ حضرت ہم سے بہت ناراض ہوں گے۔ چنانچہ میں جب واپس کمرے میں داخل ہوا تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے الفاظ کے ساتھ مجھ سے معذرت فرمائی کہ میں خود بہت نادم ہوا کہ اس سے بہتر تھا مجھے پہلے ہی خود تعارف کروانا چاہیے تھا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ نے بھی نہ بتایا میری تو نظر کمزور ہے آپ کے جانے کے بعد میں نے قاضی جی سے پوچھا کہ کون تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے اب آپ اوپر چارپائی پر میرے ساتھ بیٹھ جائیں۔

چنانچہ میں نے حکم کی تعمیل کی، پھر فرمایا کھانا کھائیں گے؟ میں نے عرض کیا، کھا چکا ہوں تو فرمایا کہ تبرک کے طور پر میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ حضرت کے سامنے کئی اقسام کے کھانے موجود تھے حضرت شیخ کو کھانا کھلانے کے لیے خادم تیار تھا فرمایا میں تو پرہیزی کھانا کھاتا ہوں اور حضرت مجھے اپنے دست مبارک سے کھانا عنایت فرما رہے تھے کہ تھوڑا سا یہ بھی لے لیں۔ تھوڑا سا یہ بھی لے لیں۔ کھانے کے دوران حضرت کی توجہ میری جانب تھی اور وقفہ وقفہ سے گرم چپاتی منگواتے رہے۔ میں نے سیر ہو کر کھایا۔ کھانے کے بعد اداً میں چارپائی سے نیچے اتر کر بیٹھ گیا۔ خادم حضرت کو کھانا کھلانے میں مصروف ہو گیا فراغت کے بعد حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور نام لمبا کھینچ کر فرمایا لائل پور ہی قیام ہے؟ (لائل پور فیصل آباد کا پہلا نام ہے) میں نے عرض کیا جی لائل پور ہی قیام ہے۔ اس کے بعد باقی بھائیوں کی خیریت اور مدرسہ و مسجد کے بارے پوچھا اس کے بعد خادم کو آواز دی کہ مولانا کے لیے کتابیں لائے ہو؟ خادم نے عرض کیا کہ جی حضرت ابھی لایا۔ کتابیں آنا شروع ہو گئیں۔ میں نے خادم سے پوچھا کہ اس

میں تذکرۃ الخلیل بھی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ حضرت شیخ رحمہ اللہ خود فرمائیں تو ملتی ہے۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے بھی سن لیا اور خادم سے پوچھا کیا فرما رہے ہیں؟ خادم نے عرض کیا کہ تذکرۃ الخلیل کا پوچھ رہے ہیں حضرت نے قدرے حبلال سے فرمایا۔ لائے نہیں تم! عرض کیا جی حضرت ابھی لایا اور وہ کتاب بھی آگئی اس کے بعد میں نے عافیت اسی میں جانی کہ اب حضرت سے اجازت لے کر رخصت ہو جاؤں چنانچہ حضرت سے اجازت طلب کی اور عرض کیا کہ کل میری پاکستان واپسی ہے۔

تو حضرت شیخ رحمہ اللہ نے بہت دعاؤں سے نوازا اور فرمایا اگر موقع ملے تو دوبارہ ضرور تشریف لائیں۔ چنانچہ میں نے اپنے سرخ رومال میں ساری کتابیں باندھیں مصافحہ کیا اور رخصت ہو گیا۔“

2۔ حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری مہاجر مدنی رحمہ اللہ:

اگلی صبح فجر میں مسجد نبوی شریف میں حضرت مولانا عاشق الہی سے ملاقات ہوگئی گذشتہ رات کا سارا واقعہ میں نے انہیں بیان کیا تو فرمایا۔ جو کچھ پہلے ہوا وہ بہت برا ہوا لیکن حضرت شیخ نے جو اس کی تلافی کی وہ بہت اچھی کی کیونکہ میرے شیخ نے آپ کو کتابیں دی ہیں اس لیے میں نے بھی آپ کو کتابیں دینی ہیں چنانچہ میرے ساتھ گھر چلے اور ناشتہ میرے ساتھ کریں۔ اور خدام کے رویہ کے بارے میں مزاحاً فرمایا کہ یہ شرعی بدمعاش ہیں۔ اور جو آپ کو پہچانتے تھے انہیں تو کم از کم ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔

چنانچہ مولانا مجھے گھر لے گئے راستہ میں مولانا فداء الرحمن درخواستی (صاحبزادہ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ) بھی مل گئے تو انہیں بھی ساتھ لے لیا پر تکلف ناشتہ کے بعد مجھے کافی کتب عنایت فرمائیں۔ ان دنوں وہ طحاوی کی

شرح لکھ رہے تھے میں نے طحاوی کی شرح کے متعلق عرض کیا تو فرمایا وہ اس وقت نہیں ہے کراچی سے آپ کو مل جائے گی پھر کراچی میں موجود اس شخص کے نام خط لکھ کر مجھے عنایت فرمایا۔

(حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں والد صاحب فرماتے تھے کہ ”درخواستی تو میرے بھتیجے لگتے ہیں“ کیونکہ حضرت درخواستی کے استاذ مولانا حبیب اللہ گمانوی رحمۃ اللہ علیہ (خلیفہ مجاز حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ) میرے حضرت والد صاحب کے ہم سبق تھے۔)

3۔ حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ (کندیاں شریف):

یہ غالباً 1996ء یا 1997ء کی بات ہے کہ احقر کا میا نوالی مولانا محمد رمضان صاحب جمعیت علماء اسلام والوں کے ہاں جانا ہوا جو میرے بڑے بھائی مولانا عزیز الرحمن انوری کے ساتھیوں میں سے تھے۔ وہاں سے کندیاں شریف خانقاہ سراجیہ حاضری ہوئی۔ ظہر سے قبل پہنچے خادم خانقاہ نے ہمیں کھانا کھلایا۔ میرے ساتھ چھوٹا بیٹا محمد راشد بھی تھا۔ کھانے کے بعد آرام کے لیے دو چار پائیاں ہمیں فراہم کیں۔ ظہر کی نماز میں حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی حضرت نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ زیارت و ملاقات کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تو فرمایا میں اس قابل کہاں (یہ حضرت کی کسر نفسی تھی) نماز کے بعد حضرت نے تسبیح خانہ کھولنے کا حکم فرمایا جو کہ بڑے حضرت مولانا خواجہ ابوالسعد احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات و عبادت کی جگہ ہے۔ حضرت خواجہ صاحب نے اپنے گھر سے دو بستر منگوا کر وہاں بچھوائے اور انتظامات کو بذاتِ خود ملاحظہ فرمایا اور ہمیں فرمایا کہ آپ کا قیام اسی کمرے میں ہوگا اور خدام کو تاکید فرمائی کہ صبح کا ناشتہ دوپہر کا کھانا شام کی چائے اور رات کا کھانا میرے گھر سے آئے گا۔

اس دوران کسی اور چیز کی طلب ہو تو مجھے اطلاع کریں۔ تسبیح خانہ کے متصل کتب خانہ جس میں نایاب کتب موجود ہیں۔ اس کا جو دروازہ تسبیح خانہ کی طرف کھلتا ہے کھولنے کا فرمایا۔ کتب خانہ سے کافی استفادہ کا موقع میسر ہوا میں نے ایک کتاب کے بارے میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے استفسار کیا کہ وہ یہاں نظر نہیں آئی تو فرمایا میں نے اپنی جہالت کے صدقہ پہلی بار اس کتاب کا نام سنا ہے۔

تین دن قیام رہا۔ بروز جمعہ علی الصبح اجازت چاہی۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی سفر کے لیے روانگی تھی چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معمول کے مطابق قبور مشائخ جو مسجد سے متصل ہے حاضر ہو کر فاتحہ پڑھی اور مجھ سے معاف فرما کر روانہ ہو گئے۔ عصر کے بعد حضرت کی عمومی مجلس ہوتی تھی۔ جس میں حضرت مجھے اپنے برابر چارپائی پر بٹھاتے۔ اسی ملاقات میں احقر نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے خانقاہ کنڈیاں سے چھپنے والی دلائل الخیرات کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت نے فرمایا وہ تو ختم ہو چکی ہے البتہ ایک ہی نسخہ موجود ہے جو حضرت نے مجھے عنایت فرمادیا جو غالباً حضرت کا ذاتی نسخہ تھا۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر حضرت مولانا عبداللہ لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ میرے والد حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ اس نسبت سے بھی خواجہ صاحب میرا بہت احترام فرماتے تھے۔

یہ 1970ء کی بات ہے کہ میں چیچہ وطنی گیا ہوا تھا میرے میزبان صوفی محمد طفیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے مجھے کشفِ قبور کا وظیفہ و طریقہ عنایت کیا تھا ان کے ہمراہ بعد از مغرب حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے جہاں ان کا قیام تھا حضرت کھانا تناول فرما رہے تھے۔ ہم نے ملاقات کرنا مناسب نہ سمجھا اور واپس ہوئے بعد عشاء دوبارہ حاضر ہوئے تو حضرت خواجہ صاحب آرام کے لیے لیٹ چکے تھے کچھ خدام حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دوبارہ تھے صوفی

صاحب نے آگے بڑھ کر میرے بارے میں پوچھا کہ حضرت آپ ان کو جانتے ہیں؟ تو خواجہ صاحب نے فرمایا جی یہ فلاں مسجد کے امام ہیں تو صوفی صاحب نے عرض کیا کہ یہ فلاں مسجد کے امام نہیں بلکہ حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ ہیں بس یہ الفاظ سننے کی دیر تھی کہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چارپائی سے نیچے تشریف لے آئے اور مجھے چارپائی پر بیٹھنے کا حکم فرمایا تو میں نے عرض کیا کہ آپ میرے ساتھ اوپر تشریف فرما ہوں میں حضرت کے ساتھ اوپر بیٹھ گیا۔ گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا دورانِ گفتگو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آپ کے والد محترم حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک کتاب لے کر حاضر ہوا تھا جو مجھے مولانا عطاء محمد صاحب نے آپ کے والد صاحب کی خدمت دے کر بھیجا تھا تو میں نے عرض کیا کہ وہ کتاب میں نے خود دیکھی ہے جس کے شروع میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے ہاتھ سے یہ تحریر موجود ہے (مولانا عطاء محمد صاحب بدست مولانا خان محمد صاحب) یہ سن کر حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے۔

4- حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ (چکوال):

کندیاں سے سیدھے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں چکوال حاضر ہوئے جب ہم پہنچے تو جمعہ کے بعد حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے باہر والے کمرے میں مجلس جاری تھی اس سے پہلے حضرت سے کافی ملاقاتیں ہو چکی تھیں۔ جب ہم حاضر ہوئے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا اور اپنے برابر میں جگہ دی۔ مجلس میں سے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کا تعارف کروایا یا جو پہلے رافضی تھے اور اب تائب ہو چکے ہیں یہ ہر جمعہ مجھ سے ملنے آتے ہیں۔ عصر کی اذان سے کچھ قبل مجلس برخواست ہوئی تو فرمایا نماز کے بعد

گھر تشریف لے آئیں اور کھانے کا دریافت فرمایا جس پر میں نے عرض کیا کہ ہم عبدالوحید حنفی کے ہاں کھالیں گے تو حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نماز کے بعد گھر آجائیے گا چنانچہ ہم مسجد پہنچے تو نماز میں ابھی کچھ وقت تھا۔ عبدالوحید صاحب نے بھی ہمیں کھانے کا پوچھا جس پر میں نے حضرت کا ارشاد نقل کر دیا انہوں نے دسترخوان بچھا دیا تو ہم انکار نہ کر پائے نماز کے بعد حضرت کے گھر حاضر ہوئے تو خدام نے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع کی تو حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ کھانا بچھوایا۔ چونکہ ہم کھانا کھا چکے تھے اس لیے میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو جو ابھی نابالغ تھے خادم کے ساتھ اندر بچھوایا اور پیغام بھیجا کہ ہم کھانا کھا چکے ہیں یہی کھانا ہم رات کو تناول کریں گے۔ بہت بار حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری ہوئی تو حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت شفقت فرماتے اور ہم کھانا ہمیشہ حضرت کے گھر کھاتے تھے۔ ایک بار حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ ان کے گاؤں ”بھیں“ میں بھی حاضری ہوئی اور وہاں بھی ہمارے قیام کے لیے خصوصی انتظام فرمایا۔ ایک روز ہمیں دو پہر کو تاخیر ہو گئی سب لوگ کھانا کھا چکے تھے۔ ظہر کے بعد حضرت سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت نے کھانے کا خود ہی پوچھ لیا۔ جس پر میں نے صورت حال عرض کر دی۔ اسی دوران حضرت کا کھانا آ گیا اور حضرت نے ہمیں بھی ساتھ شامل کر لیا اور خود بہت مختصر تناول کیا۔ یہ حضرت کی شفقت اور محبت تھی۔ ایک بار میں نے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میں آپ کو علماء دیوبند کا صحیح ترجمان سمجھتا ہوں حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے مختلف اوراد و وظائف اور تعویذات کی اجازت بھی مرحمت فرمائی اور فرمایا کہ اپنے بزرگوں کے سلسلہ کو چلائیں۔

ایک مرتبہ عرصہ دراز کے بعد چکوال کے ایک مذہبی اجتماع میں شرکت

ہوئی وہاں سے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہاں حضرت قاضی عبداللطیف جہلمی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے انہیں جب ہمارے بارے میں معلوم ہوا اور میرا تعارف حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کروایا تو قاضی عبداللطیف جہلمی رحمۃ اللہ علیہ نے احقر کو تاکیداً فرمایا کہ قاضی صاحب کی خدمت میں آیا کریں۔

احقر نے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فتویٰ تکفیر قادیان پیش کیا جو قاضی صاحب کے علم میں نہیں تھا جس پر احقر نے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا کرم دین رحمۃ اللہ علیہ کے دستخط بھی دکھائے جسے دیکھ کر حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے۔ یہ 1974ء کی بات ہے۔

فتویٰ تکفیر قادیان کی روئیداد^(۱):

اس فتویٰ میں قادیانیوں (مرزائیوں) کے کفر پر ہندو پاک کے پچیس شہروں کے ایک سوسولہ جید علماء و مشائخ کے دستخط ثبت ہیں جن میں سے چند مشہور اسمائے گرامی مندرجہ ذیل ہیں:

شیخ الادب مولانا اعزاز علی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رسول خان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا نور محمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ وغیر ہم۔

یہ اگست 1974ء کی بات ہے کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے احباب

(۱) یہ فتویٰ 1974ء میں قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا اور مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو جو کتاب قادیانیوں کے خلاف پیش کی تھی اس میں یہ فتویٰ بھی شامل تھا۔ 26 اگست 1974ء کو جب قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو ہر ممبر کے سامنے اس فتویٰ کی کاپی موجود تھی۔

اس فتویٰ کی واحد کاپی جو احقر کے پاس تھی تین دن کے وعدے پر لے گئے مگر چالیس دن گزرنے پر بھی واپس نہ کی تو احقر کو مجبوراً راولپنڈی کا سفر کرنا پڑا، چنانچہ لیاقت باغ کے اڈے سے اتر کر سکول والی مسجد میں وضو کی غرض سے گیا تو وہاں مولانا یوسف لدھیانوی جو ہمارے عزیز تھے اور رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تھے مشکوٰۃ شریف پڑھا رہے تھے طلباء میں حضرت صوفی احمد دین رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے میں نے راولپنڈی آنے کا مقصد بیان کیا تو مولانا یوسف صاحب نے فرمایا کہ میں بھی آپ کے ساتھ دفتر ختم نبوت چلتا ہوں۔ چنانچہ ہم دفتر ختم نبوت پہنچے تو داخل ہوتے ہی ایک صاحب آئے اور انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ ہیں۔

تو میں نے کہا جی! آپ نے کیسے پہچانا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے چہرہ سے۔ اور اپنا تعارف کروایا کہ میرا نام رحمت اللہ ہے اور آپ کے والد صاحب کا شاگرد ہوں۔ ہم نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو انہوں نے اس سلسلہ میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ کتابوں کا اسٹاک مولانا عبدالرحیم اشعر کے پاس تھا۔ مولانا رحمت اللہ کی کوشش سے رسالہ (فتویٰ) واپس مل گیا۔

شام کو جامعہ اسلامیہ کشمیر روڈ راولپنڈی قاری سعید الرحمن صاحب ابن حضرت مولانا عبدالرحمن کیمبل پوری رحمۃ اللہ علیہ (موجودہ اٹک) کے مدرسہ میں حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے فتویٰ دکھایا تو حضرت نے فرمایا میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے آپ اس کو ہم سے نہ لے جائیں۔ تو احقر نے عرض کیا کہ حضرت اسے چھپوانے کا پروگرام ہے میں آپ کو اس کی فوٹو کاپی بھجوادوں گا۔ اور بعد میں حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فوٹو کاپی بھجوا بھی دی۔ ابھی اس بات کو چند دن ہی

گزرے تھے کہ احقر حضرت مولانا تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے کچھ حضرات تشریف لائے مجھے وہاں پا کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے ہی لائل پور (موجودہ فیصل آباد) کا سفر کیا ہے اور فرمایا کہ آپ حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی ضمانت لے لیں اور اصل فتویٰ عنایت فرمادیں۔ ہم نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیش کرنا ہے اور ساتھ ہی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام دیا کہ اگر یہ ہو بہو اسی طرح چھاپ دیا جائے تو بہت اچھا ہوگا، اس پر میں نے عرض کیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے کسی کی ضمانت کی کوئی ضرورت نہیں آپ یہ لے جائیں۔ اس کو چھپوانے کے لیے تگ و دو شروع کی اس وقت قادیانیوں کے خلاف کچھ بھی چھاپنے کی پابندی تھی پولیس کے چھاپے پڑ رہے تھے۔ میں نے مولانا اللہ وسایا کے ساتھ مل کر لاہور کے کئی چکر لگائے تاکہ یہ فتویٰ چھپ جائے مگر کسی نے حامی نہ بھری۔ آخر کار فیصل آباد میں ایک پریس والے کو تیار کیا کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ رات کو پریس کے باہر تالے لگا کر اندر چھپائی کا کام شروع کر دیا۔ ساتھ ہی فولڈنگ والا بھی بلا لیا اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک رات میں تین ہزار کاپیاں چھاپ دیں۔ غالباً 24 اگست 1974ء کی صبح چار بجے مولانا اللہ وسایا صاحب کو پانچ سو نسخے دے کر روانہ کر دیا تاکہ مفتی محمود صاحب کو پہنچا دیں۔ ختم نبوت والوں کے پاس جب یہ فتویٰ پہنچا تو انہوں نے مختلف جلسوں میں میرا نام لے کر تحسین و داد سے نوازا۔

نیوٹاؤن مدرسہ میں ایک استاذ جو یزیدی خیالات کے تھے ایک بار حضرت قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ نیوٹاؤن تشریف لائے اور بیان کیا۔ جس پر وہ استاذ خفا ہو گئے اور استغفیٰ پیش کر دیا۔ حضرت مفتی احمد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مہتمم تھے

انہوں نے کہا کہ ”آپ استغنیٰ کیوں دیتے ہیں یہ جو عقیدہ قاضی صاحب نے بیان کیا ہے یہی ہمارے اکابر کا عقیدہ ہے ہم یزید کو فاسق و فاجر سمجھتے ہیں، لیکن انہوں پھر بھی استغنیٰ دے دیا۔

حضرت قاری طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اختلاف تو ہمارا رافضیوں سے ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے تو نہیں ہے تم رافضیوں کے مقابل یزید کی تعریف کیوں کرتے ہو؟

5- حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ (کراچی):

1979ء میں احقر مدینہ مسجد کلفٹن کراچی میں خطیب تھا کبھی کبھار حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں علاقہ پاپوش میں حضرت کے مطب پر ملاقات کے لیے حاضر ہوتا تھا۔ حضرت احقر کو اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا فرماتے۔ حال احوال کے بعد وہ تمام سوالات جو میں نے ذہن میں سوچ کر رکھے ہوتے تھے کہ ان کے جوابات حضرت سے پوچھنے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود ہی بات شروع کرتے اور دوران گفتگو وہ تمام جوابات ارشاد فرمادیتے اس طرح مجھے پوچھنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ ایک بار حضرت والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کی تمام دستیاب تصانیف حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیں جس پر حضرت بہت خوش ہوئے اسی کے ساتھ ہی فتویٰ تکفیر قادیان بھی دیا جسے دیکھ کر حضرت نے فرمایا کہ یہ ہمارے مذاق کے خلاف ہے جس پر احقر نے حضرت ڈاکٹر صاحب کے شیخ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دستخط دکھائے جو انہوں نے ۱۳۳۶ھ میں اس فتویٰ پر مثبت فرمائے تھے جسے دیکھ کر حضرت ڈاکٹر صاحب نے فتویٰ رکھ لیا۔

6- حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ (کراچی):

اسی زمانے میں احقر مدرسہ بنوری ٹاؤن میں بھی حاضر ہوتا تھا جہاں

حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہم سے ملاقات ہوتی تھی۔ حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے تو دوستانہ تعلق تھا۔ اور حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت تھی اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز بیعت بھی تھے۔ بانی انجمن اشاعت قرآن عظیم سید جمیل صاحب اکاؤنٹنٹ جنرل مشرقی پاکستان جو حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، احقر پر بے حد شفقت فرماتے۔ جب احقر حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو حضرت احقر کے والد صاحب کی نسبت کا لحاظ فرماتے ہوئے کھڑے ہو جاتے۔

احقر کی اپنے والد محترم حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ 1962ء میں عمرہ کی سعادت کے لیے بذریعہ ریل کراچی روانگی ہوئی والدہ محترمہ بھی ہمراہ تھیں۔ جب گاڑی لائڈھی اسٹیشن پہنچی تو حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ علماء کے وفد کے ساتھ ہمارے استقبال کے لیے موجود تھے۔ جن میں سید محمد جمیل، زکریا کادار، مولانا طاہرین داماد حضرت بنوری، حضرت مفتی احمد الرحمن سابق مہتمم بنوری ٹاؤن وغیرہ۔ سٹی اسٹیشن تک ہمارے ہمسفر رہے اور ہمیں قیام گاہ پہنچا کر رخصت ہوئے۔ ہمارا قیام بابو جی عبدالعزیز کے ہاں ہوا۔ ان دنوں حضرت اقدس رائے پوری کا قیام لاہور میں تھا بابو صاحب حضرت کی خدمت میں حاضر تھے جب میں والد صاحب کے ساتھ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بابو عبدالعزیز کو کراچی میں اپنے گھر ہمارے قیام کے متعلق تاکید فرمائی۔ چنانچہ روزانہ بعد عصر حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے رہے ان کے ہمراہ اکثر سید محمد جمیل کے والد سید خلیل بھی ہوتے اور مغرب تک علمی و روحانی مجلس جاری رہتی اسی

سفر میں والد صاحب کو جامعہ بنوری ٹاؤن بھی لے کر گئے۔ اس کے بعد ان کے داماد مفتی احمد الرحمن ابن مولانا عبدالرحمن کیمبل پوری سے میرا دوستانہ تعلق رہا ایک مرتبہ حضرت والد صاحب کی تالیف کردہ اربعین پیش کی تو بہت سراہا اور تین سو نسخے طلب کیے اور علماء میں بھی یہ اربعین تقسیم فرماتے تھے۔

7- حضرت مولانا قاری شریف احمد رحمۃ اللہ علیہ (کراچی):

(خطیب مسجد سٹی اسٹیشن و خلیفہ حضرت مولانا حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ مدنیہ لاہور) احقر کا حضرت قاری صاحب سے بڑا دوستانہ تعلق رہا اکثر احقر سے ملاقات کے لیے مدینہ مسجد کلفٹن تشریف لاتے۔ اور میں خود بھی ملاقات کے لیے دکنی مسجد اور بعد میں مسجد سٹی اسٹیشن حاضر ہوتا تھا، احقر کی حضرت قاری صاحب سے خط و کتابت بھی تھی اپنی تصنیف کردہ کتب ہدیہ فرماتے احقر نے بھی والد صاحب کی تصانیف ارسال کیں۔

8- حضرت مولانا عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ (کراچی):

(خلیفہ مجاز حضرت مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ) احقر سے مدینہ مسجد کلفٹن ملاقات کے لیے تشریف لاتے اور احقر کو بھی اپنے ہاں آنے کا فرماتے، میں نے ایک مرتبہ حضرت شاہ صاحب سے تصوف کی حقیقت کے بارے استفسار کیا تو حضرت نے نہایت مختصر اور جامع جواب عنایت فرمایا کہ ”تصوف نام ہے اتباع شریعت کا۔“

مسجد فیض الغفور شاہ فیصل میں پہلی بار جب حاضر ہوا تو مسجد کے صدر دروازے پر ایک بورڈ آویزاں تھا ”یہاں پر تبلیغی جماعت کا داخلہ ممنوع ہے“ احقر کو حیرت ہوئی تو حضرت شاہ صاحب سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا ”تبلیغی جماعت بھی ہماری ہے اور اس کے اکابر بھی ہمارے ہیں لیکن ان

کے رویہ کی وجہ سے یہ پابندی لگائی ہے۔“

9- حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ (کراچی):

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا ملاقات کا شرف حاصل ہوا یہ اس زمانہ کی بات ہے جب حضرت عمدۃ الفقہ تصنیف فرما رہے تھے حضرت نے اپنی دیگر تصنیفات بھی عنایت فرمائیں۔ ایک بار مدینہ مسجد کلفٹن تشریف لائے خدام بھی ساتھ تھے۔ تو میں نے عرض کیا حضرت آپ نماز کی امامت کروائیں تو فرمایا کہ نماز تو ہم آپ ہی کے پیچھے پڑھیں گے۔

10- حضرت مولانا محمد مظہر بقا انصاری رحمۃ اللہ علیہ (کراچی):

حضرت مولانا کی احقر کے قریب ہی رہائش تھی جب حضرت سے پہلی ملاقات ہوئی تعارف ہوا تو احقر کے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کو فوراً پہچان گئے احقر پر بے حد مشفق تھے بہت زیادہ مہمان نوازی فرماتے اپنی تصنیفات عنایت فرمائیں۔

11- حضرت مولانا ابرار الحق کلیانوی رحمۃ اللہ علیہ (کراچی):

(خليفة مجاز حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ)

غالباً 2001ء کی بات ہے احقر کو حضرت کی مسجد قبا میں جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا میرا حضرت سے تعارف نہیں تھا۔ حضرت کا کافی حلقہ مریدین تھا بعد نماز جمعہ تمام مریدین سے مصافحہ کرتے۔ پہلی بار جب حاضر ہوا نماز جمعہ کے بعد جب مصافحہ کرنے لگے تو مجھ پر نظر پڑی میں ایک طرف بیٹھا ہوا تھا سب کو چھوڑ کر نہایت محبت سے مجھے آکر ملے اور فرمایا میرا دل کہہ رہا تھا کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے اور مجھ سے دعا کی درخواست کی۔ اور اپنے خادم خاص کو ہمارے کھانے کی تاکید کی پھر جب بھی حاضری ہوئی تو سارے معمول چھوڑ کر احقر کے پاس آجاتے حضرت خود بہت زبردست عامل بھی تھے ایک بار حاضر ہوا تو مجھے علیحدگی میں فرمایا

کہ آپ میرا علاج سحر کر دیں۔

ایک بار ملاقات کے بعد فرمایا میری کل حج کے لیے روانگی ہے دعا فرمائیں اور ایک عدد سرخ رومال ہدیہ فرمایا حضرت کا مجھ سے تعلق دیکھ کر ان کے کچھ مریدین نے بھی مجھ سے روحانی علاج کروایا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے الحمد للہ فائدہ بھی ہوا۔

12- حضرت مولانا حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ (کراچی):

احقر کی حضرت حکیم صاحب سے اکثر ملاقات ہوتی رہی جب کہ اس وقت خانقاہ و مسجد ابھی تعمیر نہ ہوئی تھی آخری عمر میں حق الیقین صاحب کے ساتھ بہت سی ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک بار حضرت کی ملاقات کے لیے حاضر ہوا جب کہ حضرت کو فالج کا حملہ ہو چکا تھا۔ تو حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں میں نے عرض کیا جی کرتا ہوں۔ حضرت نے اپنی کچھ تصانیف بھی عنایت کی تھیں۔

13- حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ (کراچی):

میں 1964ء سے حضرت مولانا کو جانتا ہوں ہمارے گھر بھی تشریف لاتے رہے۔ جب احقر مدینہ مسجد کراچی میں خطیب تھا تو حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے اکثر مدرسہ نیوٹاؤن حاضر ہوتا تھا آپ عمر میں مجھ سے بڑے تھے لیکن حضرت کا مجھ سے دوستانہ تعلق تھا اکثر مجھ سے فرماتے کہ مجھے ذکر کا وقت نہیں ملتا۔ تو احقر حضرت اقدس رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص متعلقین جو ختم نبوت کے لیے دن رات سرگرم عمل رہتے تھے کی مثال دے کر حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ کو تسلی دیتا کہ حضرت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد علی جالندھری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ

حضرات حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرتے تھے کہ ہمیں ذکر کا وقت نہیں ملتا جس پر حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے آپ جو ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں یہی آپ لوگوں کا ذکر ہے، میں کبھی کبھار فلاح مسجد نصیر آباد بھی حضرت شہید سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتا، حضرت کی رہائش مسجد سے کچھ فاصلہ پر تھی۔ حضرت کھانے کے لیے احقر کو اپنے ساتھ گھر لے جاتے۔

احقر کراچی کو چھوڑ کر فیصل آباد منتقل ہو گیا۔ 1998ء کے آخر میں تقریباً تیس سال بعد احقر پھر کراچی منتقل ہو گیا طبیعت کی ناسازی اور مصروفیت کی بنا پر حضرت شہید کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا۔ 15 مئی بروز ہفتہ 1999ء، 28 محرم الحرام 1420ھ کو دفتر ختم نبوت مسجد باب الرحمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا بہت شفقت اور محبت سے پیش آئے احقر نے بیعت کے لیے درخواست کی تو فرمایا آپ پہلے کس سے بیعت ہیں تو احقر نے عرض کیا کہ حضرت اقدس رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوا حضرت کے انتقال کے بعد حضرت شیخ الحدیث سے تعلق رہا یہ سن کر حضرت شہید نے کچھ توقف کے بعد فرمایا۔ ”چھوٹا منہ بڑی بات کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں“۔ اس کے بعد حضرت شہید نے مناجات مقبول پڑھنے کا فرمایا تو میں نے عرض کیا کہ حزب الاعظم پڑھتا ہوں تو بہت خوش ہوئے پھر ذریعہ الوصول کا فرمایا تو میں نے عرض کیا کہ دلائل الخیرات پڑھتا ہوں تو بے حد خوش ہوئے۔ اور تین بار ماشاء اللہ کہا اور فرمایا پھر کسی اور چیز کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ان شاء اللہ ذریعۃ الوصول بھی پڑھوں گا۔

حضرت شہید کے خادم خاص اطہر عظیم نے احقر سے عرض کیا کہ اپنے کچھ حالات ارشاد فرمائیں تاکہ رسالہ میں چھاپ دیں احقر نے معذرت کر لی۔ یہ

واقعہ قبل از ظہر کا ہے بعد نماز ظہر حضرت نے اپنے صاحبزادے طیب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے اہتمام سے کھانا منگوا یا۔ کھانے کے بعد جب ہم دوبارہ حضرت شہید کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مولانا سعید احمد جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی نشست پر موجود تھے۔ تو حضرت نے احقر کا تعارف مولانا جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کروایا اور اجازت کا بھی بتلایا۔ عصر سے قبل جب حضرت فلاح مسجد کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو اسی وقت مفتی جمیل خان شہید دفتر میں داخل ہوئے تو حضرت نے ان سے بھی احقر کا تعارف کروایا اس کے بعد حضرت سے بے شمار بار ملاقات ہوئی۔

احقر جب بھی دفتر ختم نبوت حاضر ہوتا تو حضرت اپنے کام میں مصروف ہوتے احقر کو حضرت اپنے برابر میں بیٹھا لیتے اور فرماتے آپ کے بیٹھنے سے میرا کوئی حرج نہیں ہوتا آپ بیٹھے رہا کریں۔ حضرت شہید کی شہادت کے کچھ دنوں بعد احقر کی فلاح مسجد میں 6 اکتوبر 2000ء بروز جمعہ صاحبزادہ مولانا یحییٰ لدھیانوی سے ملاقات ہوئی اس سے پہلے ان سے شناسائی نہ تھی انہوں نے ملتے ہی کہا کہ آپ اباجی کے خلیفہ معلوم ہوتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا تو انہوں نے کہا میرا دل کہتا ہے پھر انہوں نے بتایا ایک دن اباجی گھر تشریف لائے اور مجھے فرمایا کہ خلفاء کی فہرست والا رجسٹر لاؤ۔ اور بڑے اہتمام سے آپ کا نام درج کروایا تو آپ وہی معلوم ہوتے ہیں۔ مجھے حضرت نے تقریباً اپنی تمام تصانیف عنایت فرمائی تھیں۔ احقر ایک مرتبہ حضرت کی خدمت میں حاضر تھا کچھ احباب حضرت کی ملاقات کے لیے آئے تو دوران گفتگو حضرت نے فرمایا تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ سب نے حضرت کی بات کی تائید کی لیکن احقر نے سوال عرض کیا کہ حضرت کس کے پیچھے؟ اس پر حضرت میری طرف متوجہ ہوئے میں نے عرض کیا جب ہم نماز پڑھنے کے بعد امام سے ملاقات کرتے ہیں تو

وہ یزیدی نکل آتا ہے دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو وہ حیات النبی کا منکر ممانی نکلتا ہے تیسرے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو وہ مودودی نکلتا ہے چوتھے نے (سیاہ) خضاب لگایا ہوتا ہے۔ حضرت بڑے غور سے ٹیک لگائے میری بات سن رہے تھے جب میں نے خضاب والی بات کی تو حضرت سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور دائیں ہاتھ کی مٹھی بند کر کے جلال میں فرمایا: ”جو شخص خضاب لگاتا ہے اس کے پیچھے ہرگز ہرگز نماز نہیں ہوتی“۔ اس پر میں نے عرض کیا کہ نمازیں لوٹا لوٹا کے میرے تو گھٹنے درد کرتے ہیں۔ اس کے بعد مولانا سید عطاء الحسن بخاری کا خط نکال کر دکھایا جس کا عنوان تھا۔ یزیدی کون؟ حضرت نے فرمایا بس میں یہ آپ کو دکھانا چاہتا تھا۔

ایک مرتبہ ہم نے فاروق اعظم مسجد نار تھ ناظم آباد میں جمعہ ادا کیا نماز کے بعد مولانا عزیز الرحمن استاذ الحدیث دارالعلوم کراچی سے ملاقات ہوئی۔ ان سے کسی نے خضاب کے متعلق مسئلہ پوچھا۔ وہ ابھی سمجھا ہی رہے تھے کہ احقر نے حضرت لدھیانوی شہید کا جواب نقل کر دیا جس پر مولانا عزیز الرحمن بھی اسی جواب پر پختہ ہو گئے۔ اور ساتھ ہی فرمایا جو خضاب لگاتا ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔

14۔ حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی مدظلہ (صدر دارالعلوم کراچی):

یہ 2003ء کی بات ہے احقر کی تقریباً تیس سال کے بعد دارالعلوم کراچی حاضری ہوئی حضرت مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ بہت ہی خوشی کا اظہار فرمایا۔ احقر نے والد صاحب کی تالیف کردہ ”اربعین“ کے پانچ سو نسخے دورہ حدیث کے طلباء کے لیے ہدیہ کیے۔ حضرت مفتی صاحب نے اسی وقت کھول کر ملاحظہ کیا اور پسند کیا پھر فرمایا کہ آپ ہمیں آٹھ سو نسخے دیں اور اپنے معاون خصوصی اشرف ملک صاحب کو بلا کر اربعین کی تقسیم کی ترتیب خود بتائی اور تاکید کی

کہ اسے ”البلاغ“ میں چھاپ دیں حضرت نے اکرام بھی فرمایا اور چھوٹے بیٹے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اپنی کچھ تصانیف ہدیہ کیں جس میں نوادر الفقہ بھی تھی۔ احقر اگلے روز مزید تین سو نسخے لے کر حاضر ہوا حضرت مفتی صاحب بہت زیادہ ممنون ہوئے اسی طرح حضرت مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ سے بھی تشریحی تعلق رہا بارہا دارالعلوم کراچی میں ملاقاتیں ہوئیں۔

جب احقر کلفٹن کی مدینہ مسجد میں خطیب تھا تو مفتی صاحب حضرت والد صاحب کے ساتھی مولانا محمد بن موسیٰ جنوبی افریقہ کے صاحبزادے مولانا ابراہیم میاں کے ہمراہ ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ بہت اچھی علمی مجلس رہی۔

15۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر مدظلہ (کراچی):

حضرت ڈاکٹر صاحب سے کئی سال بعد پہلی ملاقات ہوئی احقر نے اپنا تعارف کروایا تو بہت ہی خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ ہمارے استاذ محترم حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد محترم حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ کا اکثر ذکر خیر فرماتے تھے کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں نمایاں مقام حاصل تھا۔ احقر جب بھی ملاقات کے لیے حاضر ہوتا ہے تو دفتر میں داخل ہوتے ہی احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں احقر نے کئی مرتبہ ”اربعین“ طلباء میں تقسیم کے لیے دی تو بڑے اہتمام سے تقسیم کروائی اور احقر کو اپنی تصانیف بھی عنایت فرمائی اس کے علاوہ عطر گلاب کا مخصوص ہدیہ بھی کئی بار عنایت فرمایا۔

ایک بار اربعین وصول کرنے کے بعد اس کا ہدیہ دریافت فرمایا تو احقر نے عرض کیا کہ یہ ویسے ہی ہدیہ ہے اور فرمایا کہ آپ مجھے اسے جدید انداز میں چھاپنے کی اجازت دے دیں۔ جب احقر کو معلوم ہوا کہ حضرت ڈاکٹر صاحب کا تعلق قادری سلسلہ کے بزرگ حضرت شیخ عبدالقادر عیسیٰ سے ہے۔ شیخ کا تعلق شام

کے شہر حلب سے تھا۔ حنفی مسلک کے پیروکار اور سلسلہ قادریہ کے بزرگ تھے مکہ مکرمہ حرم پاک میں ان سے ملاقات ہوئی تعارف ہوا تو سب سے پہلے انہوں نے حضرت شاہ عبدالقادر راہپوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پوچھا کہ ”شیخ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ جانتے ہیں؟“ تو میں نے عرض کیا ”هُوَ جَدُّنَا“ (وہ ہمارے دادا جان کی طرح ہیں) پھر انہوں نے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق دریافت فرمایا۔ تو میں نے عرض کیا ”هُوَ عَمِّيْنَا“ (وہ ہمارے چچا کی طرح ہیں) اس پر شیخ عبدالقادر عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی خوش ہوئے اور محبت فرمانے لگ گئے۔ میں نے جب ڈاکٹر صاحب کو بتایا تو بہت ہی خوش ہوئے پھر حضرت شیخ سے اپنے تعلق اور ان کے طریقہ تربیت ظاہری و باطنی پر سیر حاصل گفتگو ہوئی جب بھی احقر حاضر ہوا تو بغیر اکرام کے واپس نہ جانے دیا۔

16۔ حضرت مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ (کراچی):

حضرت کا درس جو اتوار کے روز بنوری ٹاؤن میں ہوتا تھا، احقر وہاں حاضر ہوا، درس کے بعد ملاقات ہوئی تعارف ہوا تو بہت ہی خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا نکتہ العنبر میں بھی حضرت بنوری نے آپ کے والد محترم کا ذکر کیا ہے۔ میں نے حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کی فہرست میں آپ کا نام تو پڑھا تھا اب زیارت بھی ہوگئی پھر فرمایا: ”شامزئی خود ملاقات کے لیے حاضر ہوگا“ میں نے اربعین ہدیہ کی تو بہت ہی خوش ہوئے۔

17۔ حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ (کراچی):

حضرت مفتی صاحب سے ہماری عزیز داری بھی ہے احقر ایک بار حضرت سے ملاقات کے لیے دارالافتاء والارشاد ناظم آباد حاضر ہوا قواعد و ضوابط کی وجہ سے ملاقات میں تاخیر ہوئی جب ملاقات ہوئی تو میں نے عرض کیا آپ کے

ہاں قواعد و ضوابط بہت ہیں۔ اس پر مفتی صاحب نے فرمایا قواعد و ضوابط عوام کے لیے ہیں آپ کے لیے نہیں، پھر خادم کو بلا کر ڈانٹا اور اسے تاکید کی کہ جب بھی مولانا تشریف لائیں تو مجھے فوراً اطلاع کریں۔ اپنی تصانیف بھی عنایت فرمائی جس میں ارشاد القاری بھی تھی یہ ۱۳۹۵ھ کی بات ہے۔

اس کے بعد بھی کئی بار حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا، ایک بار دورانِ گفتگو فرمایا کہ مفتی رفیع عثمانی اور مفتی محمد تقی عثمانی دونوں میرے شاگرد ہیں نماز فجر کے لیے میری ایک ہی آواز پر دونوں فوراً اٹھ جاتے تھے۔

18- حضرت شیخ مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ (کراچی):

حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جامعہ فاروقیہ حاضری ہوئی حضرت کے صاحبزادے نے دفتر میں بٹھایا تو وہاں حضرت موجود نہیں تھے صاحبزادہ نے احقر سے کہا کہ آپ اباجی سے حال احوال کر لیں۔ تو میں نے حیرانی سے پوچھا کہ کمرہ تو خالی ہے اور حضرت موجود نہیں۔ اس پر انہوں نے کہا آپ بات تو کریں میں نے سلام عرض کیا تو حضرت کا جواب آیات معلوم ہوا کہ کیلنڈر کے پیچھے مائیک موجود ہے جس کے ذریعے بات چیت ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد حضرت تشریف لے آئے حضرت سے کچھ دیر ملاقات رہی پھر رخصت ہوا۔

ایک عرصہ بعد 2010ء میں حضرت سے ملاقات ہوئی، حضرت مولانا سعید احمد جلال پوری کی شہادت پر دفتر ختم نبوت میں تعزیتی جلسے پر تشریف لائے تو مجھے فرمایا کہ آپ کا قیام کراچی میں ہے؟ عرض کیا جی تو فرمایا آپ تشریف کیوں نہیں لاتے؟ عرض کیا ان شاء اللہ ضرور حاضر ہوں گا۔ ناسازی طبیعت و دیگر مصروفیات کی وجہ سے جلد حاضر نہ ہو سکا، پھر 2012ء میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا بعد عصر بہت ہی خوشی کا اظہار فرمایا۔

احقر نے مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت کی رائے دریافت کی تو فرمایا میرا عقیدہ وہی ہے جو ”المہند علی المہند“ میں اکابر علماء دیوبند کا ہے۔ اور مزید فرمایا کہ میں منکرین حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہوں کہ میرے مدرسہ میں نہ آیا کریں اور نہ ہی اپنے ادارے میں مجھے بلائیں۔“

اذان مغرب پر حضرت ﷺ نے فرمایا کہ آپ امامت کروائیں گے تو احقر نے معذرت کی کہ میں گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھتا ہوں حضرت والد صاحب کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوئی اور بعد ازاں عشاء سے پہلے واپسی ہوئی۔

19- حضرت مفتی محمد زرولی خان مدظلہ (کراچی):

حضرت مفتی صاحب سے ملاقاتیں تو اس دور میں بھی ہوتی رہیں جب میں مدینہ مسجد کلفٹن میں خطیب تھا پھر فیصل آباد سے دوبارہ کراچی منتقل ہوا تو پھر ملاقات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 2003ء کی بات ہے جب ”اربعین“ لے کر بعد مغرب حاضر ہوا تو حضرت نے پہچانتے ہی بہت عزت افزائی فرمائی۔ جب اربعین کے تین سو نسخے پیش کیے تو فرمایا کہ مزید عنایت فرمائیں احقر کی رہائش چونکہ قریب ہی تھی؛ اس لیے مزید نسخے لے کر بوقت عشاء دوبارہ پہنچے۔ حضرت مفتی صاحب نے بعد نماز عشاء حضرت والد صاحب کا تعارف اور اربعین کی اہمیت و افادیت پر گفتگو فرمائی اور احقر سے فرمایا کہ دلی خواہش تو یہ ہے کہ آپ اپنے دست مبارک سے طلباء میں تقسیم کریں اور احقر کو اپنی مسند خاص پر بٹھایا اور خود قریب ہی صوفے پر تشریف فرما ہوئے۔ اربعین تقسیم ہونے کے بعد حضرت مفتی صاحب بذات خود اندر تشریف لے گئے اور دو عدد کپڑے کے تھان بطور ہدیہ مجھے اور بیٹے محمد راشد انوری کو عنایت کیے۔ اور بے حد اکرام کیا اور فرمایا کہ آپ کا اپنا ادارہ ہے تشریف لایا کریں۔ حضرت مفتی صاحب حضرت علامہ انور شاہ کشمیری ﷺ کے

عاشق زار ہیں احقر سے بھی زیادہ لگاؤ اسی وجہ سے ہے کہ احقر کے والد صاحب حضرت شاہ صاحب کشمیری کے تلمیذ خاص ہیں۔ احقر سے ایک ملاقات میں حضرت والد صاحب کی تصنیف ”انوار انوری“ کے متعلق دریافت کیا جس پر میں نے اگلی ملاقات میں پیش کر دی تو بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد کی ملاقات میں والد صاحب کی دیگر تصانیف بھی پیش کیں تو انتہائی خوش ہوئے اور فرمایا کہ آپ اس پیرانہ سالی میں ہمیں علمی دستاویزات فراہم کر رہے ہیں اور احقر سے انوار انوری کی اشاعت کی خواہش ظاہر کی تو میں نے بخوشی اجازت دے دی۔ اور پھر انوار انوری شائع بھی ہوئی، بارہا انوار انوری حصہ دوم کا تقاضا فرمایا جس پر احقر نے عرض کیا کہ وہ حوادث زمانہ کی نذر ہو گیا ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے اپنی تصانیف بھی عنایت فرمائی۔

20- حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ:

احقر ایک بار حضرت مفتی زرولی خان صاحب سے ملاقات کے لیے احسن العلوم حاضر ہوا تو مجھے فرمایا کہ مولانا منظور چنیوٹی بھی آئے ہوئے ہیں۔ ان کا مسجد میں بیان جاری تھا۔ حضرت چنیوٹی سے ملاقات ہوئی ایک ساتھ کھانا کھایا۔ مولانا سے کافی دیر علمی گفتگو ہوتی رہی۔ مولانا کا اگلے روز بنگلہ دیش کا سفر تھا مولانا کی تصنیف ”ردّ قادیانیت کے زریں اصول“ جو کہ حضرت مفتی صاحب نے شائع کی تھی جس کا ابھی ایک ہی نسخہ آیا تھا حضرت مفتی صاحب نے مجھے عنایت فرمایا۔

21- حضرت مولانا خواجہ عزیز احمد بہلوی رحمۃ اللہ علیہ:

5/ اگست 2012ء، ۱۶/ رمضان المبارک ۱۴۳۳ھ کو مفتی زرولی خان صاحب کے ہاں افطاری تھی۔ افطار سے کچھ قبل خواجہ صاحب مع احباب بھی تشریف لائے۔ احقر سے تعارف ہوا بعد نماز حیات النبی اور ذکر اللہ پر گفتگو ہوئی۔

احقر نے ان کے والد حضرت مولانا محمد عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ جو مسئلہ حیات النبی پر ہے بھیجنے کی درخواست کی۔

دورانِ گفتگو بیٹھ کر نماز پڑھنے کے متعلق مولانا عزیز احمد بہلوی نے حضرت خواجہ خان محمد صاحب کا ایک واقعہ سنایا کہ آخری عمر میں بھی خواجہ صاحب حتی الامکان کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ بیٹھ کر پڑھ لیا کریں۔ جس پر حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا اگر میں بیٹھ کر پڑھوں گا تو مریدین لیٹ کر پڑھیں گے۔ جس پر مفتی صاحب نے کہا کہ خواجہ صاحب خاموش رہتے ہیں لیکن پھر بھی فیض جاری ہے۔

اس سے قبل ان کے بڑے بھائی جانشین حضرت بہلوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا خواجہ عبدالحی بہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے فیصل آباد میں کئی بار ملاقات ہوئی۔ ایک مرتبہ فیصل آباد میں ایک مدرسہ کے سالانہ جلسہ پر تشریف لائے بعد میں ملاقات ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ آپ جہاں تشریف لائے تھے وہ منکرین حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جس پر انہوں نے لاعلمی کا اظہار فرمایا۔

22- حضرت مولانا عبدالمعجود رحمۃ اللہ علیہ:

حضرت مولانا کی نسبت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ سے تھی احقر کی ان سے پہلی ملاقات مکہ مکرمہ میں ہوئی نام تو پہلے بھی سن رکھا تھا۔ فندق الامین میں قیام پذیر تھے جو حرم کے قریب تھا۔ جب زیارت کے لیے حاضر ہوا تو اکیلے ہی تشریف فرما تھے ایسے معلوم ہوا کہ جیسے کوئی فرشتہ بیٹھا ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ مولانا عبدالمعجود ہیں تو (عاجزی میں) فرمایا میں تو عبداللہ ہوں (یعنی اللہ کا بندہ ہوں) احقر نے مکرر عرض کیا کہ آپ ہی مولانا عبدالمعجود ہیں اس پر وہ خاموش رہے اور گفتگو کا سلسلہ چل نکلا۔ احقر کے والد محترم کو بھی جانتے تھے تعارف ہونے

پر بہت محبت فرمانے لگے۔ مولانا نے لمبی عمر پائی تقریباً 160 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ 135 حج ادا کئے دو مرتبہ بال سیاہ ہوئے دو مرتبہ دانت دوبارہ آئے۔ آبائی علاقہ وادی ہنزہ تھا۔ بعد میں اسلام آباد مقیم ہو گئے تھے۔ صدر جنرل ضیاء الحق بھی ان کی خدمت میں دعا کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ مولانا جب کراچی میں فیڈرل بی ایریا میں تشریف لائے تو احقر زیارت و ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت نے احقر کی امامت میں نمازیں بھی ادا کیں۔ کچھ اور ادو وظائف کی اجازت بھی عنایت فرمائی۔ میں نے اپنی زندگی میں دو اشخاص ایسے دیکھے جن کے بدن سے خوشبو پھوٹی تھی ایک میرے حضرت والد صاحب اور دوسرے حضرت مولانا عبدالمعبدو صاحب۔ حضرت مولانا نے خود احقر کو سنایا کہ میں ایک بار تین دن کے لیے ممبئی بھارت گیا پاکستان سے روانگی پر وضو کیا تھا اور واپس پاکستان آ کر وضو کیا بہت سے اکابر جن کی حضرت نے خود زیارت کی ہوئی تھی ان کے واقعات سنائے۔

23۔ ابن انور حضرت مولانا سید محمد انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ:

حضرت مولانا سے ہمارا بہت گہرا اور قریبی تعلق ہے ان کے والد حضرت علامہ سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے گھرانے کی کفالت حضرت والد صاحب نے اپنے ذمہ لے لی تھی۔ حضرت مولانا ہمارے ہاں بہت بار تشریف لاتے رہے۔ حضرت والد صاحب ان کا بہت اکرام فرماتے تھے۔ عرصہ دراز کے بعد احقر کا حضرت مولانا سے رابطہ ہوا 8 فروری 2005ء 28 ذی الحجہ 1425ھ کو حضرت سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ تفصیلی گفتگو ہوئی بہت ہی خوشی کا اظہار کیا۔ فرمایا کہ تین دن بعد میرا بیٹا احمد خضر کراچی آ رہا ہے اس کے ہاتھ آپ کے لیے کتابیں بھجوا رہا ہوں۔ میں نے تفسیر ابن کثیر کا جو ترجمہ حضرت مولانا نے کیا تھا اسے چھاپنے کی اجازت چاہی تو بخوشی اجازت مرحمت فرمائی اور

فرمایا کہ میں ان مکتبہ (فیض القرآن، دیوبند) والوں سے براہ راست بھی آپ کی بات کروادوں گا۔ 11 فروری کو مولانا سید احمد خضر شاہ سلمہ اللہ نے کراچی پہنچتے ہی احقر سے رابطہ کیا تو احقر خود ملاقات کے لیے ان کی قیام گاہ پہنچ گیا انہوں نے مولانا انظر شاہ صاحب کی طرف سے بھیجی گئی کتب ہدیہ کیں۔ میں نے بھی والد محترم کی تصانیف ہدیہ کیں۔ جتنے دن قیام رہا تقریباً روزانہ ہی ملاقات رہی۔ 14 فروری کو الوداعی ملاقات ہوئی واپس پہنچ کر انہوں نے اپنے ماہنامہ محدث عصر میں اپنا سفر نامہ تحریر کیا جس میں احقر کا ذکر بہت عمدہ الفاظ میں کیا احقر کو رسالہ اعزازی طور پر جاری کر دیا۔

احقر نے دیوبند حاضری کی خواہش کا اظہار کیا تو مولانا احمد خضر نے خوشی کا اظہار فرما کر کہا کہ ضرور تشریف لائیں ہمارے لیے باعث سعادت ہوگا۔ آپ پاسپورٹ بنا کر اطلاع فرمادیں باقی انتظامات احقر کے ذمہ، میں نے اپنے بیٹے محمد راشد انوری کی دیوبند میں تعلیم کے لیے بھیجنے کی مشاورت کی تو فرمایا آپ ان کو بھجوادیں ہم مکمل عالم و فاضل بنا کر بھیج دیں گے۔

میں نے حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے حیرت سے فرمایا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں؟ وہ آپ کے ہی والد محترم حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ 21 نومبر 2006ء، 29 شوال 1427ھ کو حضرت مولانا انظر شاہ صاحب سے دیوبند میں ان کے گھر ٹیلی فون پر رابطہ ہوا حضرت نے اپنی بیعت و خلافت کی تفصیل بتائی اور احقر کو احبازت و خلافت سے سرفراز فرمایا اور فرمایا کہ آپ اپنا فیکس نمبر ارسال کر دیں میں آپ کو تحریری اجازت نامہ فیکس کر دوں گا۔

مولانا سید احمد خضر شاہ صاحب نے کراچی کے اس سفر کی روئیداد ماہنامہ

محدث عصر میں ان الفاظ کے ساتھ تحریر فرمائی:

”راقم الحروف اپنے نجی پروگرام کے تحت گذشتہ دنوں مختصر وقت کے لئے کراچی، پھر دہلی پہنچا۔ کراچی کا حاصل سفر حضرت مولانا ایوب الرحمن صاحب انوری مدظلہ ابن حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ لائل پوری سے ملاقات تھی۔ مولانا نے قدیم تعلقات اور خانوادہ انوری سے مضبوط و استوار رشتوں اور علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے والہانہ محبت و عقیدت کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اس ذرہ بے مقدار کو اپنی توجہات سامیہ سے نوازا۔ متعدد تالیفات اور کتابوں سے سرفراز فرمایا۔ اور ناچیز کی قیام گاہ پر صاحبزادہ محترم (محمد راشد انوری) کے ہمراہ تقریباً روزانہ ہی تشریف فرما ہوتے رہے۔ فجزاہم اللہ احسن الجزاء۔“ (ص 43 ماہنامہ محدث عصر دیوبند مارچ 2005ء)

24- حضرت مولانا عبد الحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ:

مولانا عبد الحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم جناب ملک عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میری بڑی بے تکلفی تھی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جب انہیں اجازت و خلافت سے نوازا تو ملک عبدالحق صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ”میں تو گدھا ہوں“ اس پر حضرت شیخ الحدیث نے جواباً فرمایا کہ ”مجھے تیسرے جیسے گدھے ہی چاہئیں۔ گدھے تھے تو میرے قابو آگئے چست چالاک ہوتے تو میرے ہاتھ کہاں آتے“۔

جب ان کا قیام فیصل آباد میں تھا تو اکثر ملاقات ہوتی انہوں نے میرے حضرت والد صاحب سے احقر کے رشتہ کے سلسلہ میں بھی بات کی تھی۔ ان

کے خاندان کے اکثر نکاح حضرت والد صاحب نے پڑھائے۔ اس کے بعد جب بھی حرمین شریفین کا سفر ہوا تو مکہ مکرمہ ملاقات ہو جاتی اور کئی بار محبت بھری ناراضگی کا اظہار فرماتے کہ آپ میرے ہاں کیوں نہیں قیام کرتے۔ بعض اوقات زبردستی ساتھ لے جاتے اور بہت اکرام فرماتے۔ مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی وہیں ملاقات ہوتی یہ بھی میرا بہت احترام فرماتے۔ پاکستان میں بھی کافی ملاقاتیں ہوئیں۔ عرصہ بعد 2007ء میں تقویۃ الایمان مسجد کراچی میں ملاقات ہوئی احقر کو پہچانتے ہی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میں نے انوار الوظائف ہدیہ کی بہت خوش ہوئے چوما اور شکریہ ادا کیا۔ اور فرمایا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں واپسی پر تفصیلی ملاقات ہوگی۔ پھر 15 فروری 2007ء کو بعد از ظہر تقویۃ الایمان مسجد ملاقات ہوئی اربعین، ملفوظات حضرت رائے پوری ہدیہ کیس۔ اس کے بعد تخلیہ میں احقر نے اپنے بیٹے محمد راشد انوری کو بیعت کرنے کی درخواست کی حضرت نے بڑے پس و پیش کے بعد قبول فرمایا۔ اور فرمایا کہ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے ورنہ آپ کی نسبت بہت اونچی ہے اگلے دن کی ملاقات میں فتویٰ تکفیر قادیان پیش کیا تو بہت مسرت کا اظہار فرمایا اور فرمایا یہ بہت نایاب چیز ہیں میں نے حضرت سے خواہش ظاہر کی سعودیہ سے چھپنے والی تفسیر عثمانی کا ایک نسخہ آسانی ہو تو بھجواد بیجیے گا۔ پھر حضرت نے تفسیر عثمانی اور کچھ دیگر کتب بھجوائیں۔ جب انوار الوظائف کا نیا ایڈیشن چھپ کر آیا تو حضرت کراچی تشریف لائے ہوئے تھے احقر ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا تو خدام نے روکا تو بیٹے نے حضرت کے نمبر پر رابطہ کیا تو حضرت نے فوراً اندر بلا لیا۔ جب اندر پہنچے تو حضرت لیٹے ہوئے تھے۔ ہمیں دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا آپ محسوس نہ فرمائیں گھٹنوں میں تکلیف کی وجہ سے کھڑے ہو کر نہیں مل سکا۔ جب واپسی کی اجازت چاہی تو پیشانی کا بوسہ لیا۔ اس

کے بعد بھی جب حضرت کراچی تشریف لاتے تو ملاقات ہو جاتی۔
 25- حضرت سید انور حسین نفیس الحسنی شاہ رحمۃ اللہ علیہ (لاہور):

جب حضرت شاہ صاحب حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تو اس وقت ان کا قیام فیصل آباد میں ہی تھا۔ حضرت اقدس رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا فیصل آباد اور قرب جوار میں تشریف لاتے تو بیعت ہونے والے حضرات کو تاکید فرماتے کہ مولانا محمد انوری لائل پوری سے رابطہ رکھیں۔ چنانچہ حضرت شاہ صاحب بھی حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق حضرت والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ حضرت شاہ صاحب نے کالج تک تعلیم فیصل آباد میں ہی حاصل کی تھی ملک واحد بخش صاحب انہیں انگریزی پڑھاتے تھے۔

ملک واحد بخش صاحب نے مولانا احمد سعید دہلوی سبحان الہند کی کتاب معلم الحجاج حضرت والد صاحب سے سبقاً سبقاً پڑھی تھی۔ ملک واحد بخش ہماری مسجد انوری کے جنرل سیکرٹری بھی تھے ملک صاحب کو مسائل حج پر اتنا عبور تھا کہ انہوں نے بڑے بڑے حضرات کی تصانیف میں بعض غلطیوں کی نشاندہی کی۔

پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور منتقل ہو گئے اور کبھی کبھار والد صاحب کی خدمت میں آتے رہے۔ میری 1994ء تا 1998ء کے عرصہ میں حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں اکثر حاضری رہی۔ دو تین بار عید الاضحیٰ کے موقع پر احقر نے حضرت شاہ صاحب کے ساتھ عید کی جس پر حضرت شاہ صاحب نے بہت زیادہ مسرت کا اظہار فرمایا۔ حضرت کے ہاں اونٹ کی قربانی ہوتی تھی۔ احقر کا حضرت کے ہاں کئی روز قیام رہتا۔ ٹھہرنے کا انتظام گھر کے سامنے جامعہ مدنیہ میں ہوتا تھا۔ اور طعام حضرت کے گھر ہوتا تھا۔

ناشتہ سے فراغت کے بعد اکثر اوقات میں مزار حضرت علی ہجویری

چلا جاتا اور ذکر اور معمولات پورے کر کے شام کے وقت حضرت کی خدمت میں آجاتا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ احقر سے فرماتے کہ میرا بھی وہاں سلام عرض کر دیں۔ میں جب مجلس میں حاضر ہوتا تو بے حد احترام فرماتے اور خدام سے فرماتے کہ مولانا کو اوپر بٹھائیں۔ اور جو علماء کرام ملاقات کے لیے آتے ان سے تعارف کرواتے۔

ایک مرتبہ موسم سرما میں حضرت اپنے گھر کریم پارک بالمقابل جامعہ مدنیہ اوپر والی منزل پر دھوپ میں تشریف فرما تھے۔ بیٹا محمد راشد انوری بھی میرے ساتھ تھا۔ احقر سے احوال ذکر معلوم کیے سن کر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا میری طرف سے اجازت ہے کوئی اللہ کا نام پوچھے تو بتا دیا کریں۔

26- حضرت مولانا عبدالمجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ (کھروڑیکا):

یہ ۱۱ ذی الحجہ ۱۴۱۷ھ بمطابق 19 اپریل 1997ء کی بات ہے کہ حضرت مولانا عبدالمجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ مع رفقاء حضرت نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ دورانِ گفتگو حزب الاعظم اور دلائل الخیرات کے متعلق بات ہوئی۔ جس پر احقر نے عرض کیا کہ یہ حضرت اقدس رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ کے معمولات میں شامل ہے۔ جس پر حضرت مولانا عبدالمجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا کہ ہم نے بھی شائع کروائی ہے میں کل آپ کے خدمت میں پیش کروں گا۔ چنانچہ اگلے روز مولانا عبدالمجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نسخہ لے کر آئے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا یہ میرے پاس نہیں ہے چنانچہ جو نسخہ احقر کے لیے لائے تھے وہ حضرت شاہ صاحب کو دے دیا۔ اور اس سے اگلے روز پھر احقر کے لیے نسخہ لائے۔ اس نسخہ میں الحزب الاعظم اور دلائل الخیرات کا ترجمہ حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اور حضرت اقدس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب پر ہے۔ احقر جب کراچی منتقل

ہو گیا تھا تو وہاں حضرت مولانا لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط کے ذریعہ یہی نسخہ بھجوانے کی درخواست کی جس پر حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تین عدد نسخے بذریعہ ڈاک بھجوادیئے۔ ایک مرتبہ مدرسہ بنوری ٹاؤن میں حضرت مولانا عبدالمجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی جو کہ آخری ثابت ہوئی۔

27- حضرت مولانا نعیم الدین مدظلہ (جامعہ مدنیہ لاہور):

10 مئی 1995ء کی بات ہے کہ احقر حضرت نفیس شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر تھا مولانا نعیم الدین صاحب تشریف لائے۔ حضرت شاہ صاحب نے ان سے تعارف کروایا۔ مولانا نعیم الدین صاحب، حضرت مولانا سید حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ کے داماد ہیں۔ احقر کے والد محترم اپنی ذاتی زکوٰۃ جامعہ مدنیہ ہی بھجاتے تھے۔ حضرت والد صاحب کے متعلق گفتگو ہوئی، مولانا کو بتایا کہ والد محترم حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے خلیفہ تھے۔ حضرت والد صاحب کو حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے غایت درجہ قلبی و روحانی تعلق تھا جس پر مولانا نے کہا کہ وہ فنا فی الشیخ ہوں گے۔ تو میں نے کہا کہ اس سے بھی آگے تھے۔ اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ مشہور مقدمہ بہاولپور میں جب حضرت شاہ صاحب کشمیری بہاولپور تشریف لائے تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ رہے۔ اسی سفر میں حضرت شاہ صاحب نے میرے والد رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت عطا کی تھی۔ حضرت شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ میں انخفاء بہت تھا اکثر لوگ انہیں بحیثیت عالم ہی جانتے ہیں۔ حالانکہ آپ کامل صوفی بھی تھے۔ حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت حاصل تھی۔

28- حضرت ڈاکٹر علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ (برطانیہ):

احقر حضرت نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ علامہ

صاحب ملاقات کے لیے تشریف لائے انہوں نے مجھے پہچان لیا بے تکلف گفتگو ہوتی رہی۔ بعد نماز ظہر اکٹھے کھانا کھایا اور دوبارہ مجلس لگ گئی تو میں نے عرض کیا کہ آپ کی کتابیں کہاں سے دستیاب ہوں گی۔ تو فرمایا کہ کل لے کر حاضر ہو جاؤں گا۔ احقر نے اس اشتہار کے بارے میں دریافت کیا جو انہوں نے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ترتیب دیا تھا تو کہنے لگے عرصہ ہوا ختم ہو گیا۔ اگر آپ کے پاس ہو تو اللہ کا واسطہ مجھے بھی دے دیں۔ احقر نے عرض کیا میرے پاس جو تھا وہ حوادثِ زمانہ کی نذر ہو گیا۔ اگلے روز کتابیں لے کر آئے تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا یہ تو میرے پاس بھی نہیں ہیں مجھے بھی ضرورت ہے تو میں نے حضرت شاہ صاحب سے کہا کہ آپ رکھ لیں۔

29- حضرت مولانا اجمل خان رحمۃ اللہ علیہ (لاہور):

مولانا بعد عصر حضرت نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرا تعارف کروایا تو مولانا فرمانے لگے کہ آپ ان کا تعارف کرواتے ہیں حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہم نے ان کے والد حضرت مولانا محمد انوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی ہے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جب بھی کوئی علمی مسئلہ درپیش ہوتا تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع فرماتے حتیٰ رائے ان کے والد کی ہوتی۔ میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں ہمارے اکابر کی اولاد ہیں۔

30- حضرت مولانا محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ (بھکر):

14 نومبر 1995ء کی بات ہے کہ احقر حضرت نفیس شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا جامعہ مدنیہ میں مولانا محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ بعد عشاء کتاب ”ارشادات حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ“ احقر کو دکھائی کہ یہ میں نے ترتیب

دی ہے۔ میں نے کہا یہ سب سے پہلے مجھے دینی چاہیے تھی چنانچہ ایک نسخہ عنایت کیا اور فرمایا کہ سب سے پہلا نسخہ آپ کو دے رہا ہوں۔ ایک مرتبہ فیصل آباد جمعیتہ علماء اسلام کے اجلاس میں ملاقات ہوئی۔

31- حضرت مفتی محمد انور اوکاڑوی مدظلہ:

حضرت نفیس شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہی مفتی صاحب سے ملاقاتیں ہوتی رہیں اس وقت تک میرا ان سے تفصیلی تعارف نہ تھا بس اتنا معلوم تھا کہ ان کا تعلق حضرت مولانا عبدالعزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ چک 11 چیچہ وطنی والوں سے ہے جبکہ مفتی صاحب کو میرے بارے میں معلوم تھا۔ حضرت کے بہت سے واقعات اور ملفوظات سناتے، بہت سے ایسے واقعات سناتے کہ ہم بہت محظوظ ہوتے۔ احقر کے سر کی مالش کرتے اور بدن دباتے تھے۔ پھر احقر کراچی منتقل ہو گیا تو ایک عرصہ ملاقات نہ ہوئی۔ احقر کا مولانا امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت تعلق تھا اسی نسبت سے جب یہ معلوم ہوا کہ ان کے بھائی آئے ہوئے ہیں۔ تو بنوری ٹاؤن کے مہمان خانہ میں ملاقات کے لیے گیا۔ مفتی صاحب لیٹے ہوئے تھے مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور بہت محبت سے ملے، بات چیت شروع ہوئی تب پتہ چلا یہ حضرت اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی مفتی انور اوکاڑوی ہیں جن سے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ملاقات ہوتی تھی میں نے حضرت والد صاحب کی تالیف کردہ اربعین ہدیہ کی تو بہت خوش ہوئے۔

32- حضرت مولانا امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ:

حضرت اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ سے میرا دوستانہ تعلق تھا جب احقر مدینہ مسجد کلفٹن میں خطیب تھا تو مولانا کراچی تشریف لاتے تو قیام میرے ہاں ہوتا تھا۔ اکثر مولانا فضل الرحمن دھرم کوٹی ان کے ساتھ ہوتے۔ ایک مرتبہ آئے ہوئے تھے کہ مجھے بتانے لگے کہ آج ہم مفتی عبدالقہار (غریب الہدیث) کو تنگ کر کے آئے ہیں۔ مفتی

عبدالقہار کی مسجد کا دروازہ اور مولانا شاہ احمد نورانی کی مسجد کا دروازہ آمنے سامنے تھا۔ نورانی صاحب کی اس مسجد کا نام جناح مسجد ہے وہ رمضان میں تراویح میں مسیوں وہیں قرآن سناتے تھے مزے کی بات یہ ہے کہ شاہ احمد نورانی صاحب کی اس مسجد میں قائم مدرسہ میں پڑھانے والے اکثر استاذ دیوبندی پانی پتی ہیں انہیں علم دیوبندیوں سے ہی ملتا ہے۔ پھر اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دن کا واقعہ سنانے لگے کہ:

”ہوایوں کہ اسے معلوم نہیں ہوا کہ میں امین صفر ہوں اور ایک سائل بن کر وحید الزمان کی ایک بات نقل کر کے مسئلہ دریافت کیا جس کا عبدالقہار نے جواب دیا تو میں نے کہا اس کے مقابلہ میں حنفی یہ جواب دیتے ہیں اس کے ہر جواب پر ہم نیا سوال کھڑا کر دیتے۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ آخر کار تنگ آ کر مفتی عبدالقہار اپنے ہی ہم مسلک وحید الزمان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ہم نے وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت جانی کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ یہ حنفی ہیں اور مجھے تنگ کرنے آئے ہیں۔“

مولانا امین صفر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف کردہ اربعین کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ اور طلباء کو اس کی ترغیب دیتے کہ اس اربعین کو یاد کرو۔

33- حضرت میاں جمیل احمد میواتی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (رائے ونڈ):

حضرت سے مکی مسجد غلام محمد آباد (فیصل آباد) میں ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ اور میں بھی ملاقات کے لیے رائے ونڈ حاضر ہو جاتا۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قیام گھر پر چند دن ہوتا زیادہ تر خانقاہی اسفار پر ہی رہتے تھے۔ بہت جگہ مجالس ذکر قائم کیں۔ ایک بار مکی مسجد سے واپسی پر احقر کے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر

پر حاضری دی میں بھی ساتھ تھا۔ پھر انوری مسجد سنت پورہ میں نماز پڑھی اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے مفتی محمد سعید دہلوی مدظلہ سے بھی ملاقاتیں رہیں۔ احقر کا بہت احترام فرماتے۔

حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد میں نے ان کی قبر پر مراقبہ کیا (کشف قبور) تو قبر میں ہر طرف اسم ذات اللہ لکھا ہوا چمکتا نظر آیا جب اٹھنے کا ارادہ کیا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جھلک نظر آئی ماشاء اللہ اچھی حالت میں تھے (یہ مجالس ذکر قائم کرنے کی برکت ہے)۔

34- حضرت مولانا قاضی زاہد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ (اٹک):

احقر ایک مرتبہ حسن ابدال گیا ہوا تھا وہاں سے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے اٹک حاضر ہوا۔ قبل زوال کا وقت تھا۔ حضرت مدرسہ میں موجود تھے۔ ملاقات ہونے پر تعارف کروایا بہت خوش ہوئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کھانے کا وقت ہے کھانا کھائیں گے۔ بلا تکلف بتائیں میں نے سعادت سمجھتے ہوئے انکار نہ کیا۔ حضرت نے گھر سے کھانا منگوایا۔ حضرت نے ہمارا نظم دریافت فرمایا۔ جس پر میں نے عرض کیا کہ زیارت و ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تھے فرمایا بہت اچھا اور اپنی تصانیف عنایت فرمائیں۔ قبل ظہر واپسی ہوئی۔ اس کے بعد احقر کئی بار ایبٹ آباد انوار منزل حاضر ہوا جہاں حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ موسم گرما میں قیام فرماتے تھے۔ جمعرات کی شب مجلس ذکر بھی ہوتی تھی۔ کافی مجمع ہوتا تھا۔ اس میں بھی شرکت کی سعادت حاصل رہی۔

حضرت کا قیام ایبٹ آباد میں ہی تھا اور مسجد کی محراب کے ساتھ تشریف فرما تھے میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وظائف کی کتاب ”دامانِ رحمت“ عنایت کی اور کچھ تعویذات بھی دیئے۔

اور دونوں کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔ یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے آخری ملاقات ثابت ہوئی۔

35۔ حضرت مولانا حافظ غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ (چکوال):

حضرت مولانا سے پہلی بار ملاقات مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی۔ جب تعارف ہوا تو فرمانے لگے کہ ”میں جب حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو بیٹھا تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ہوتا تھا اور زیارت آپ کے والد صاحب مولانا انوری رحمۃ اللہ علیہ کی کرتا رہتا“ مغرب کے بعد اٹھے حرم سے نکلے تو میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے راستے میں ڈاک لینی ہے تو فرمایا چلتے ہیں۔ جب ڈاکخانہ آ گیا۔ تو فرمانے لگے آپ ڈاک لے آئیں۔ حضرت باہر ہی اپنے مریدین کے ہمراہ میرے انتظار میں رہے۔ میں ڈاک دیکھ کر جلد ہی واپس ہوا پھر قیام گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کسی نے بتایا کہ حضرت کی قیام گاہ کے قریب پہنچ گئے ہیں تو میں نے عرض کیا حضرت مجھے اجازت دیں تو فرمایا آپ کو قیام گاہ تک پہنچا کرو واپس آؤں گا راستہ میں چھوڑنا خلاف ادب ہے۔ چنانچہ مجھے قیام گاہ تک پہنچا کرو واپس ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں اس کے بعد بھی ملاقاتیں رہیں احقر ایک بار ملاقات کے لیے چکوال حاضر ہوا۔ خوشی کا اظہار فرمایا۔ میں نے عرض کی کہ آج آپ کے ہاں قیام کروں گا۔ کل واپسی ہے۔ حضرت احقر کے لیے اپنے گھر سے بذاتِ خود کھانا لائے۔ بہت احترام فرمایا۔ حضرت کے صاحبزادے مولانا عبدالرحمن قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی احقر کا بہت خیال رکھا۔

حضرت سے میں نے عرض کی کہ مجھے صبح اٹھ کر نہانے کی عادت ہے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سرکاری نل میں صبح چار بجے پانی آجاتا ہے صبح بیدار ہو کر میں نہانے کے لیے چلا گیا۔ نہا کر جب باہر نکلا تو حضرت بذاتِ خود موجود تھے

ایک ہاتھ میں تیل کی شیشی اور دوسرے ہاتھ میں تولیہ لے کر کھڑے تھے میں نے عافیت اسی میں جانی کہ فوراً ان کے ہاتھ سے دونوں اشیاء لے لوں۔ یہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کی وجہ سے میرا اتنا اکرام فرمایا۔

جب حضرت فیصل آباد تشریف لاتے تو میں ملاقات کے لئے حاضر ہوتا ایک مرتبہ ملاقات کے لئے حاضر ہوا تو حضرت کچھ ارشاد فرما رہے تھے کہ فلاں پتھری ہے فلاں پتھری..... جس پر میں نے عرض کی کہ یہ پتھری کیا چیز ہے۔ تو فرمایا:

”میں منکرین حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم (مماتی) کو پتھری کہتا ہوں۔ یہ پتھر دل اور پتھر دماغ کے لوگ ہیں۔ ہم اپنے اکابر کے تابع ہیں اور حیات انبیاء کے قائل ہیں۔“

بعض اوقات حضرت جب فیصل آباد تشریف لاتے تو احقر کو ملاقات کے لیے خود بلوا لیتے اس مقصد کے لیے مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی کو بھیجتے کہ مولانا کو لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ عاصم ٹاؤن ڈی ٹائپ کالونی احقر کی تعمیر کردہ مسجد اشرفیہ پہنچتے۔ گاڑی کچھ فاصلے پر کھڑی کرتے کیونکہ سڑک اور مسجد کے درمیان کھیت تھی۔ مجھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے جاتے اور واپس بھی پہنچاتے۔ حضرت سے میری خط و کتابت بھی رہی جن میں سے ایک خط محفوظ ہے۔

36- حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی مدظلہ:

اپنے شیخ و مرشد کا مجھ سے تعلق دیکھ کر مولانا بھی میرا بہت احترام فرماتے ہیں جب فیصل آباد آتے ہیں تو احقر کو بھی اپنے پروگراموں میں شامل رکھتے ہیں۔ گاڑی خود چلاتے اور احقر کو آگے برابر سیٹ پر بٹھاتے اپنے پیر و مرشد کی اتباع میں عصا ساتھ ہوتا ہے، اپنی کچھ تصانیف بھی ہدیہ کیس جب سے احقر کراچی منتقل

ہوا پھر ملاقات نہیں ہوئی۔

37- حضرت مولانا محمد ایوب نقشبندی ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ (دھمتوڑ، ایبٹ آباد):

(خلیفہ مجاز حضرت مولانا عبدالمالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ)

حضرت مولانا سے احقر کا تعلق تقریباً 1966ء سے ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس وقت سکول میں تدریس فرماتے تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب جامع مسجد ایبٹ آباد کے خطیب حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے۔ احقر ایک بار حضرت مولانا عبدالواحد رحمۃ اللہ علیہ شیخ البانڈی کی خدمت میں حاضر تھا وہاں حضرت مولانا محمد ایوب ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلی بار ملاقات ہوئی۔ مولانا عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے اعزازی طور پر مشکوٰۃ شریف پڑھی۔ پھر حضرت مولانا ایوب صاحب سے ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ حضرت مولانا ایوب صاحب ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ فاضل دیوبند تھے۔ احقر کے والد صاحب کی نسبت کی وجہ سے بہت احترام فرماتے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہت قوی النسبت اور روحانی تصرف کے مالک تھے۔ ایک بار میں حضرت کی خدمت میں حاضر تھا۔ حضرت مدرسہ میں تشریف فرما تھے۔ کہ دفعۃً مجھے حضرت مولانا کے چہرہ کی بجائے اپنے والد صاحب کا چہرہ نظر آنا شروع ہو گیا۔ حضرت صاحب کشف بھی تھے میرے قلب میں کوئی بات یا اشکال آتا تو خود ہی باتوں باتوں میں ارشاد فرما دیتے۔ حضرت سے خط و کتابت بھی رہی احقر نے سلسلہ نقشبندیہ کے اسباق بھی حاصل کیے بعدہ حضرت نے سلسلہ نقشبندیہ میں تحریری اجازت و خلافت عنایت فرمائی۔

حضرت کے شیخ و مرشد حضرت مولانا عبدالمالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے گھر تشریف لائے تھے۔ مولانا ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا 23 مارچ 1997ء کو انتقال ہوا۔ (حضرت کے مزید حالات کے

لیے ملاحظہ کریں۔ ”پروفیسر قاضی محمد احمد ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ“ صفحہ 311 از بریگیڈیئر حافظ فیوض الرحمن)

38۔ حضرت مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ:

ایک بار احقر بھی سفر حرمین میں والد صاحب کے ہمراہ تھا۔ مدینہ طیبہ میں حضرت مولانا عباسی رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کے لیے قیام گاہ تشریف لائے پھر اپنے گھر ہماری ضیافت بھی کی اور خاص طور پر گاڑی بھیجی حالانکہ رہائش حرم کے قریب ہی تھی۔ ان کے صاحبزادے مولانا عبدالحق بھی موجود تھے حضرت عباسی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد مولانا عبدالحق صاحب سے احقر کا تعلق رہا۔ ”تقبل اللہ“ ان کا تکیہ کلام تھا۔

39۔ حضرت مولانا محمد ادریس انصاری رحمۃ اللہ علیہ (صادق آباد):

حضرت مولانا فیصل آباد میں مسجد جامعہ طیبہ قاری محمد ابراہیم صاحب والی میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ مسجد کے قریب ہی گھر میں ملاقات ہوئی جہاں حضرت قیام فرما تھے۔ تعارف ہوا بہت خوش ہوئے۔ صاحبزادہ مولانا سعید انصاری بھی ہمراہ تھے۔ دوران گفتگو حضرت نے فرمایا کہ حضرت شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ سلہٹ بنگلہ دیش میں بھی ہیں۔ حضرت انصاری نے نام بھی بتایا تھا جو اب میرے ذہن میں نہیں ہم رات حضرت قاری محمد ابراہیم کے ہاں ٹھہرے اور صبح حضرت انصاری نے عمرہ کے لیے لاہور ایئر پورٹ سے روانہ ہونا تھا۔ ہم بھی ساتھ ہو لیے۔ راستہ میں ستارہ والوں کی فیکٹری میں بھی کچھ دیر کیلئے رُکے۔ محمد صدیق صاحب ایف ڈی اے والے جو حضرت والد صاحب سے بیعت تھے وہ بھی ہمارے ساتھ ہمسفر تھے۔ لاہور ایئر پورٹ پر حضرت کو رخصت کر کے فیصل آباد واپسی ہوئی۔

40- حضرت مولانا غلام مؤمن شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ (شاہدہ لاہور):

آپ نقشبندیہ مجددیہ سلسلہ میں حضرت مولانا غلام ربانی اور حضرت غازی شاہ صاحب کے خلیفہ مجاز تھے۔ آبائی علاقہ تحصیل آلائی ضلع بنگرام ہے۔ آپ کے شیخ و مرشد بھی اسی علاقہ کے تھے جو جید عالم دین ہونے کے ساتھ علم طب میں بھی خاص مقام رکھتے تھے۔ دارالعلوم ڈابھیل میں بھی تعلیم حاصل کی۔ عربی، پشتو، فارسی کے قادر الکلام شاعر تھے۔ ان کا 4 مئی 1997ء کو اسلام آباد میں 120 سال کی عمر میں انتقال ہوا مزار کان بقرہ کلکٹریٹنگ ضلع بنگرام میں ہے۔ سلسلہ طریقت یہ ہے حضرت مولانا غلام مؤمن شاہ صاحب از مولانا غلام ربانی از خواجہ سید شمس الدین کشمیر از خواجہ فقیر محمد از خواجہ محمد صفا از خواجہ عبدالرزاق از خواجہ عبدالشکور از خواجہ یحییٰ از شیخ سعدی بخاری لاہوری رحمۃ اللہ علیہ از خواجہ سید آدم بنوری مدنی از حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ۔

میں حضرت غلام مؤمن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں شاہدہ بہت بار حاضر ہوا بہت محبت فرماتے اور تحریری خلافت نامہ بھی عنایت فرمایا۔ اس میں یہ بھی لکھا کہ روحانی توجہ دے سکتے ہیں۔ بہت سادہ مزاج بزرگ تھے۔ جامعہ قاسمیہ لاجپت روڈ شاہدہ کے سرپرست رہے۔ ادھر ہی انتقال فرمایا پہلی اہلیہ سے دو بیٹے جن میں مولانا محمد شفیع رائے ونڈ میں مقیم ہیں۔

41- حضرت حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ (رائے ونڈ):

حضرت حاجی صاحب سے عرصہ دراز سے شناسائی ہے۔ حضرت والد صاحب کے ساتھ اس دور سے تعلق تھا جب یہ دعوت و تبلیغ میں نئے نئے لگے تھے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب بانی تبلیغی جماعت نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو حضرت والد صاحب مولانا کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔

حضرت حاجی صاحب ہمارے پیر بھائی بھی ہیں حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے مجاز بھی ہیں۔ بارہا ہمارے گھر سنت پورہ تشریف لائے۔

احقر ایک بار حضرت حاجی صاحب سے ملاقات کے لیے رائے ونڈ حاضر ہوا۔ بہت ہی خوش ہوئے صبح کا وقت تھا حضرت نے اہتمام سے ناشتہ کروایا۔ ناشتے کے بعد اجازت چاہی تو فرمانے لگے کہ عوام کے لیے مہمان نوازی تین دن ہے اور خواص کے لیے پانچ دن ہے لہذا پانچ دن سے پہلے آپ کو اجازت نہیں۔ احقر کو معلوم بھی نہ ہوا کہ حاجی صاحب نے کب میرا سامان حضرت مولانا جمشید صاحب کے ذریعہ خاص مہمان خانہ میں پہنچا دیا۔ چنانچہ حاجی صاحب کی محبت کے سامنے میری ایک نہ چلی اور میں نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میرا قیام کا انتظام حضرت حاجی صاحب کے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں تھا۔ مرکز کی دو اہم شخصیات حضرت مولانا جمشید صاحب کو خدمت اور مولانا احسان الحق صاحب کو دعوت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ تین دن بعد بمشکل تمام اجازت لے کر واپسی ہوئی۔

اس طرح احقر ایک بار مرکز رائے ونڈ حاضر تھا لیکن میں نے حاجی صاحب کو اطلاع نہ کی، شام کی چائے کے لیے میں غلطی سے غیر ملکی احباب کی کینٹین میں چلا گیا۔ وہاں ڈیوٹی پر موجود خان صاحب نے بجائے سمجھانے کے کہ آپ مقامی حضرات والی کینٹین پر جائیں اچھا خاصا ڈانٹ دیا۔ احقر کی طبیعت پر اس کا کافی اثر ہوا کہ یہ طریقہ درست نہیں۔ اگلے روز فجر سے قبل احقر وضو سے فراغت کے بعد اپنے کمرہ میں موجود تھا کہ اچانک ایک صاحب میرے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گئے دیکھا تو حاجی صاحب تھے۔ ساتھ خادم بھی تھا مجھ سے مصافحہ کیا۔ فرمایا کہ ”جی میں آیا کہ خدمت میں حاضری دوں معلوم ہوا تھتا کہ آپ

تشریف لائے ہوئے ہیں آپ نے مجھے اطلاع کیوں نہ کی اور عمومی کمرہ میں کیوں قیام کیا۔“ میں نے عرض کیا کہ اس لیے اطلاع نہیں دی کہ آپ بہت زیادہ اہتمام و تکلف فرماتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد جائے قیام پر جانے لگا تو ایک۔ باباجی میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے کہ مجھے معاف کر دیں دیکھا تو وہی خان صاحب تھے جنہوں نے مجھے ڈانٹا تھا۔ میں نے اسے کہا کوئی بات نہیں میں نے معاف کیا۔ اصل میں ہوا یوں کہ خان صاحب نے حضرت حاجی صاحب کو میرے سامنے دوزانو بیٹھے دیکھ لیا تھا اور گفتگو بھی شائد سن لی تھی۔ اسی کمرے کے امیر باباجی میرے پاس آئے اور کہنے لگے: ”بابا! آپ کون ہیں؟ حاجی صاحب تو جلدی کسی سے بات نہیں کرتے اور آپ سے کہہ رہے تھے کہ جی مسیں آیا کہ خدمت میں حاضری دوں“ جب بستر پر پہنچا تو حاجی صاحب کا خادم پہلے سے موجود تھا۔ میرا ضروری سامان سمیٹ چکا تھا۔ اور کہنے لگا اس کے علاوہ آپ کا اور کوئی سامان ہے تو بتائیے میں نے کہا کیوں؟ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا حاجی صاحب نے فرمایا ہے کہ ان کا خاص کمرہ میں بستر لگاؤ۔ وقت طعام حاجی صاحب اکثر تشریف لے آتے۔ ساتھ کھانا کھاتے اور مجھے کھلاتے۔ یہاں مجھے حضرت حاجی صاحب کے معمولات دیکھنے کا موقع ملا، میرا قیام حضرت حاجی صاحب کے برابر والے کمرے میں تھا۔ حاجی صاحب تہجد کے لیے بیدار ہوتے نوافل سے فراغت پر ذکر جہر کرتے۔ ایک بار راتے ونڈ حضرت میاں جمیل احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مفتی سعید صاحب کے پاس قیام تھا۔ اور نماز کے لیے مرکز آجاتا تھا اس طرح بیان بھی سننے کا موقع مل جاتا تھا۔ ایک دن راستہ میں اچانک حضرت حاجی صاحب سے آشنا سامنا ہو گیا تو فوراً فرمایا ارے بھائی ایوب السلام علیکم آپ کب تشریف لائے؟ قیام کہاں ہے؟ تو احقر نے بتایا کہ میاں جمیل صاحب کے ہاں۔

تو فرمایا یہ تو آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی یہاں قیام کیوں نہیں کیا۔
 تبلیغی جماعت کا کام حضرت اقدس رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہی فیض ہے
 حضرت مولانا قاضی عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ جھاوریوں، حضرت حاجی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
 حضرت شفیع قریشی رحمۃ اللہ علیہ راولپنڈی، حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب
 حضرات حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین میں سے ہیں۔
 42- حضرت مولانا ظاہر شاہ رحمۃ اللہ علیہ (رائے ونڈ):

رائے ونڈ مرکز میں ایک بار احقر حاضر تھا حضرت شاہ صاحب نماز ایک
 بڑے جائے نماز پر پڑھتے تھے۔ نماز فجر کے لیے میں ان کے برابر کھڑا ہو گیا۔
 اور میرا ایک پاؤں جائے نماز پر آ گیا نماز کے بعد میں اپنے وظائف میں مشغول
 ہو گیا اور خیال نہ رہا کہ جائے نماز کا کچھ حصہ میرے نیچے ہے حضرت شاہ صاحب
 پیچھے کھڑے ہو کر انتظار میں رہے جب میں اٹھ کر جانے لگا تو میرا ہاتھ تھام کر
 فرمایا: ”کہاں جا رہے ہو؟“ تب پتہ چلا کہ جائے نماز حضرت کا تھا۔ پھر مجھے اپنے
 ساتھ اپنے کمرے میں لے گئے برنی کھلائی چائے پلائی اسی دوران مولانا احسان
 الحق صاحب آ کر کوئی کارگزاری سنانے لگ گئے۔

ایک موقع پر میں رائے ونڈ میں موجود تھا، حضرت شاہ صاحب جماعتوں
 کو ہدایات دے کر رخصت فرما رہے تھے۔ میں بیٹے محمد راشد کے ساتھ وہاں سے
 گزر رہا تھا کہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ اور فوراً ایک ساتھی کو ہمارے پاس بھیجا کہ
 شاہ صاحب آپکو بلا رہے ہیں۔ ہم حضرت سے ملے انہوں نے ہمارا اکرام کیا ہماری
 واپسی تھی اس لیے رخصت چاہی۔ حضرت شاہ صاحب نے بمشکل اجازت دی۔

43- حضرت مولانا سعید احمد خاں رحمۃ اللہ علیہ (مدینہ منورہ):

حضرت مولانا ہمارے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے بہت بار

تشریف لائے۔ ایک بار میں نے حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حرمین شریفین کا سفر کیا۔ پہلے مدینہ منورہ حاضر ہوا وہاں سے مکہ مکرمہ گیا ایام حج میں چار پانچ دن باقی تھے۔ مجمع بہت زیادہ تھا۔ رہائش کے سلسلے میں مدرسہ صولتیہ میں مولانا یامین صاحب کے پاس جانا ہوا جو کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں تھے۔ حج کے سلسلہ میں مدرسہ صولتیہ والوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مکہ مکرمہ میں مختلف جگہ پر مکانات لے لیتے تھے تاکہ ہندوپاک سے آئے ہوئے علماء و مشائخ کو ٹھہرانے میں آسانی رہے۔ احقر مولانا یامین صاحب کی خدمت میں حاضر تھا تو انہوں نے بتایا کہ مولانا سعید احمد خاں صاحب آنے ہی والے ہیں آپ تھوڑا انتظار کر لیں۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت مولانا مع چند احباب تشریف لے آئے ملاقات ہوتے ہی حضرت نے سب سے پہلے پوچھا: ”مولانا آپ کہاں ہیں؟ ہم نے آپ کے لیے مکان رکھا ہوا ہے اور آپ ہمیں مل نہیں رہے۔“ حضرت کے ساتھ ان کا نواسہ بھی تھا۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ اس کا قرآن سنئے۔ کچھ دیر بچے نے سنایا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ آپ کتنے ساتھی ہیں؟ تو میں نے عرض کیا اکیلا ہی ہوں۔ فرمایا کہ اگر کہیں تو مکان آپ کو دے دیں ورنہ مدرسہ کے اوپر والی منزل میں کمرہ موجود ہے جس میں ایک صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں باقی کمرہ خالی ہے۔ تو احقر نے مدرسہ صولتیہ کے اوپر والی منزل کے کمرہ میں قیام مناسب سمجھا۔ جب سامان لے کر اوپر کمرہ میں پہنچا تب معلوم ہوا کہ جو صاحب پہلے ہی ٹھہرے ہوئے ہیں وہ مولانا محمد موسیٰ خان رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ والے ہیں ان سے تعارف ہوا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب کی زیارت و ملاقات حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہوئی تھی غالباً چالیس دن قیام رہا۔ مدرسہ صولتیہ میں جہاں جا کر جوتے اتارتے تھے وہاں سے مہمان علماء و قراء

کے بستر شروع ہو جاتے تھے۔ ہر بستر تقریباً دو فٹ جگہ پر تھا۔ اس میں سے پہلا بستر قاری اظہار احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ میں پہلے تو ان کو پہچان نہ سکا۔ پھر ایک دن قاری محمد رفیع صاحب مہتمم مدرسہ تجوید القرآن رنگ محل لاہور قاری اظہار احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے انتظار میں بیٹھے تھے میں وہاں سے گزرا تو انہوں نے مجھے پہچان لیا اور اٹھ کر ملے بتایا کہ میں قاری صاحب سے مسئلہ پوچھنے آیا تھا۔ تب احقر کو معلوم ہوا یہ پہلا بستر قاری اظہار احمد تھانوی صاحب کا ہے۔ قاری محمد رفیع صاحب نے کہا کہ مسئلہ اب آپ بتادیں تو میں نے مسئلہ بتا بھی دیا اور کتاب سے نکال کر دکھا بھی دیا۔ اتنی دیر میں قاری صاحب بھی آگئے پھر ان سے ملاقات ہوئی۔

44- حضرت مولانا سالم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ (دیوبند):

حضرت مولانا جامعہ اشرفیہ میں مجلس صیانتہ المسلمین کے جلسہ میں تشریف لائے ہوئے تھے وہاں ملاقات ہوئی۔ احقر نے اپنا تعارف کروایا تو بہت خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا آپ کے والد محترم تو ہمارے محسن تھے اور بھی بہت سے حضرات مولانا قاسمی سے ملاقات کے لیے منتظر تھے مگر حضرت میری طرف متوجہ رہے۔ اس کے بعد مصافحہ ہوا اور بیٹے محمد راشد کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا۔ اس سے قبل حضرت اپنے والد محترم حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ ہمارے والد محترم سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے۔

45- حضرت مولانا عبدالہادی دین پوری رحمۃ اللہ علیہ:

حضرت والد صاحب کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد میں نے حضرت والد صاحب کی قبر پر مراقبہ کیا اور حضرت والد صاحب سے پوچھا کہ اب کس سے رابطہ کریں۔ تو فرمایا ”ہادی حسن“ اس پر میں نے عرض کیا کہ مولانا عبدالہادی صاحب، تو فرمایا ہاں! میں نے پہلے حضرت مولانا عبدالہادی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت نہیں کی ہوئی

تھی۔ کچھ عرصہ بعد معلوم ہوا کہ حضرت شیر انوالہ لاہور تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ غالباً 1970ء کی بات ہے چنانچہ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے کمرہ میں خالی فرش پر لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے سلام کیا اور اپنا تعارف کروایا تو حضرت فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے بہت خوش ہوئے میں نے آنے کا مقصد بیان کیا تو عاجزی سے فرمایا میری داڑھی دیکھ کر دھوکے میں نہ آجانا، اور میرے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا میں اس قابل کہاں کچھ دیر ملاقات رہی پھر میں اجازت لے کر واپس ہوا۔

46- حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ:

یہ غالباً 1955ء کی بات ہے حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا قیام صوفی عبدالحمید صاحب کی کوٹھی B/32 مزنگ چوگئی میں تھا، سردی کا موسم تھا، حضرت باہر دھوپ میں تشریف فرما تھے، اس وقت ایک باباجی تشریف لائے لمبی سفید داڑھی اور تیزی سے چلتے ہوئے، سادہ لباس ایک پھرتیلا خادم ان کے پیچھے تھا دیسی سرخ رنگ کا جوتا پہنا ہوا تھا، وہ آئے سلام کیا اور مراقب ہو کر بیٹھ گئے۔ تقریباً پون گھنٹہ بیٹھے اور اجازت لے کر چلے گئے۔ میں انہیں نہیں جانتا تھا تو میں نے مولانا عبدالجلیل صاحب سے پوچھا کون بزرگ تھے؟ تو انہوں نے بتایا مولانا احمد علی صاحب تھے۔ میں نے پوچھا خدام الدین والے فرمایا جی! خدام الدین والے یہ حضرت کی پہلی زیارت تھی۔ اس کے بعد مولانا احمد علی لاہوری کی بہت بار زیارت ہوئی۔ دھوبی گھاٹ میں جلسہ ہوا تھا، ایکشن قریب تھا، مولانا غلام غوث ہزاروی بھی تھے اور حضرت لاہوری بھی تشریف لائے، حضرت لاہوری مٹھی بسند کر کے ہاتھ بلند کرتے اور کلمہ پڑھا کر وعدہ لے رہے تھے کہ ووٹ جمعیت علماء الاسلام کو دو گے، ہزاروں کا مجمع تھا۔

47- حضرت مولانا میاں محمد اجمل قادری مدظلہ:

لاہور میں ایک بار حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ کسی تقریب میں جانے کا اتفاق ہوا وہاں مولانا اجمل قادری بھی مدعو تھے ملاقات ہوئی مسرت کا اظہار فرمایا اور فرمایا: آپ ہمارے ہاں کیوں نہیں آتے؟ تو میں نے کہا ان شاء اللہ حاضر ہوں گے۔ یہ غالباً 1996ء یا 1997ء کی بات ہے۔ چنانچہ کچھ عرصہ بعد ملاقات کے لیے گئے تو معلوم ہوا کہ میاں صاحب گھر پر ہیں۔ ہم گھر پہنچے تو پرتپاک استقبال کیا عصر کے بعد کا وقت تھا چائے بسکٹ کیک سے ضیافت کی۔ پھر خادم کو ہمارے ساتھ بھیجا اور فرمایا کہ آپ کا قیام مسجد سے ملحق حضرت لاہوری والے کمرے میں ہوگا۔ اور خادم سے فرمایا کہ ان کا بستر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی چارپائی پر لگائیں، چنانچہ خادم نے کمرہ کھلوا کر ہمارے قیام کا انتظام کیا۔

ہم نے کئی روز قیام کیا اس دوران میاں صاحب سفر پر روانہ ہو گئے۔ اس دوران جمعہ بھی آگیا تو انہوں نے فون پر پیغام بھیجا کہ جمعہ میں پڑھاؤں چنانچہ احقر کو مسجد شیرانوالہ میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے منبر پر جمعہ پڑھانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد بھی مختلف اوقات میں ملاقاتیں ہوتی رہیں اور ہمارا قیام ہمیشہ اسی کمرہ میں ہوتا۔ 1998ء میں آخری بار جانا ہوا۔ ہمارا قیام اسی کمرہ میں تھا کہ حضرت مولانا سید جاوید حسین شاہ صاحب مع احباب تشریف لائے۔ شاہ صاحب نے بھی ہمارے ساتھ اسی کمرہ میں چند روز قیام کیا۔ اس سے قبل فیصل آباد میں شاہ صاحب سے قریبی تعلق رہا۔ میں نے شاہ صاحب سے عرض کیا کہ آپ اوپر چارپائی پر آرام کر لیں تو فرمایا ہرگز نہیں اوپر آپ ہی آرام فرمائیں۔ یہ سب نسبت کا احترام ہے۔

48- حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ:

حضرت مفتی صاحب سے تعلق تو اس زمانہ سے تھا جب مفتی صاحب حضرت والد صاحب کی خدمت میں آیا کرتے تھے پاکستان ہجرت کرنے کے بعد حضرت والد صاحب نے عملی طور پر سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ مفتی صاحب اور مولانا غلام غوث ہزاروی اکثر ہمارے ہاں حضرت والد صاحب سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے تھے یہ دونوں حضرات حضرت والد صاحب سے اصرار فرماتے کہ آپ ہمارے ساتھ عملی طور پر شامل ہوں جس پر حضرت والد صاحب فرماتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں اور دعا گو ہیں پھر مفتی صاحب نے عرض کیا کہ اپنا کوئی بیٹا ہی ہمیں دے دیں۔ حضرت والد صاحب کے انتقال کے بعد بڑے بھائی مولانا عزیز الرحمن انوری جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو گئے۔ پھر تو آئے دن حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبداللہ درخواسی رحمۃ اللہ علیہ کا آنا جانا لگا رہتا۔ غالباً 1974ء کی بات ہے کہ مجھے مفتی صاحب کے ساتھ حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ ہمارا خیمہ اور گاڑی بھی ایک ہی تھی۔ میرا بہت خیال فرماتے۔ عرفات سے مزدلفہ میں رات تاخیر سے پہنچے۔ عشاء کی جماعت حضرت مفتی نے کروائی تو معلوم ہوا کہ مفتی صاحب بہترین قاری بھی ہیں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد مفتی صاحب نے تمام احباب میں سوہن حلوہ تقسیم کیا مفتی صاحب کے روزانہ کے معمولات میں الحزب الاعظم شامل تھی کیونکہ حضرت مفتی صاحب قد آور سیاسی شخصیت تھے اس لیے مملکت سعودیہ کے شاہ نے ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ چنانچہ مفتی صاحب نے اپنے ہمراہ کچھ احباب کو لے کر بادشاہ سے ملنے جانا تھا۔ مجھے بھی اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی لیکن احتسار نے معذرت کر لی۔

جب احقر کراچی منتقل ہوا تو نیوٹاؤن مدرسہ میں بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ ایک بار مدینہ مسجد کلفٹن میں تشریف لائے تقریر کی اور خطبہ دیا۔ پھر نماز جمعہ کے لیے مجھے فرمایا کہ نماز آپ پڑھائیں۔ ایک روز میں اپنے محترم دوست مولانا قاری شریف احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے گیا تو معلوم ہوا کہ وہ نیوٹاؤن مدرسہ چلے گئے ہیں کیونکہ مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں بھی فوراً مدرسہ نیوٹاؤن پہنچ گیا۔

49۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن مدظلہ:

حضرت مولانا سے حضرت مفتی صاحب کے زمانہ سے ہی شناسائی تھی۔ ایک بار سفر حرمین سے واپسی پر ہوائی جہاز میں ملاقات ہوئی جہاز تاخیر سے کراچی پہنچا تو میرے ہمراہ ہی مدینہ مسجد کلفٹن آگئے رات قیام کیا۔ اس کے بعد بڑے بھائی مولانا عزیز الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی آتے رہے۔ جب جمعیت دو حصوں میں تقسیم ہوگئی تو بھائی صاحب مولانا سمیع الحق گروپ سے منسلک ہو گئے اس کے باوجود مولانا فضل الرحمن نے تعلق برقرار رکھا اور آتے رہے۔ ایک بار آئے تو بھائی صاحب نے سیاسی بنیاد پر کچھ سرزنش کی لیکن مولانا نے نظر انداز کیا اور ادباً خاموش رہے۔ اگلے روز گورونانک پورہ اجلاس میں میں بھی حاضر ہوا۔ تو مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بھکروالوں نے مولانا سے کہا کہ آپ ان کو جانتے ہیں یہ مولانا عزیز الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ہیں فرمایا بہت اچھی طرح جانتا ہوں ہمارے دوست ہیں اور بھائی مولانا عزیز الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر تعزیت کے لیے بھی آئے۔

جامعہ مدنیہ لاہور میں بہت بار ملاقاتیں ہوئیں جامعہ مدنیہ ہی کی بات ہے کہ جمعیت کی مرکزی مجلس شوریٰ کا اجلاس جاری تھا کہ میں کمرے میں داخل ہوا

تو مولانا نے فرمایا آپ تشریف لے آئیں اور اپنے ساتھ بٹھایا۔ کچھ ارکان نے مولانا سے بے لفظوں میں کہا کہ یہ تو جمعیت کے عہدیدار نہیں ہیں تو مولانا نے جواب دیا کہ یہ بااعتماد آدمی ہیں۔

ایک بار میں حضرت سید نفیس شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ مولانا ملاقات کے لیے آئے حضرت شاہ صاحب نے فوری اکرام کا انتظام کیا حضرت شاہ صاحب نے میرا تعارف کروایا تو مولانا نے فرمایا، یہ ہمارے مخلص دوست ہیں۔ اس کے بعد ایک عرصہ ملاقات نہ ہو سکی۔ پھر احقر دوبارہ کراچی منتقل ہو گیا۔ یہ 1998ء کی بات ہے۔ 3 جون 1999ء جامعہ مدنیہ گلشن اقبال میں قاری حسین احمد درخواستی کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا تو بعد مغرب مولانا سے ملاقات ہوئی پہچان گئے بہت خوش ہوئے۔ جمعیت کے اجلاس میں اپنے ساتھ ہی لے گئے اور ساتھ ہی بٹھایا۔ نماز عشاء مولانا نے پڑھائی تو معلوم ہوا کہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی طرح مولانا بھی بہترین قاری ہیں اور قاری طاہر رحیمی صاحب کے شاگرد ہیں۔ نماز کے بعد مولانا ذرا جلدی اوپر اجلاس والے کمرے میں جا رہے تھے ہم ذرا پیچھے رہ گئے تو انتظامیہ کے نمائندے جو مجھ سے ناواقف تھے مجھے روک لیا۔ مولانا کچھ فاصلہ پر تھے دیکھتے ہی واپس آئے اور ڈانٹ کر کہا کہ ”جانتے نہیں ہو یہ کون ہیں؟ آنے دو“ کھانے پر جماعتی احباب سے تعارف بھی کروایا۔ اس کے بعد حضرت لدھیانوی شہید کی شہادت کے کچھ روز بعد جب مولانا فلاح مسجد میں جمعہ پڑھانے آئے تو نماز کے بعد ملاقات ہوئی تو مفتی جمیل خان شہید نے میرا تعارف کروایا کہ ہمارے حضرت شہید کے خلیفہ ہیں اس پر مولانا نے فرمایا کہ معلوم نہ تھا کہ حضرت شہید کے خلیفہ بھی ہیں پھر فرمایا اب تو ہمارے پیر بھائی ہیں، اس کے بعد بھی کراچی میں ملاقاتیں ہوتی رہیں۔

50- حضرت شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ (جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد):

حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا ہمارے گھر سے قریبی تعلق رہا آپ کے بڑے بھائی مولانا محمد طفیل قیوم نے والد صاحب سے دورہ حدیث ہمارے مدرسہ تعلیم الاسلام سنت پورہ سے مکمل کیا۔ احقر مولانا نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے جامعہ امدادیہ جب حاضر ہوتا تو بہت مسرت کا اظہار فرماتے اور بے حد احترام و اکرام فرماتے۔ حضرت والد صاحب کی تالیف کردہ اربعین بارہا دورہ حدیث کے طلباء میں تقسیم کروائی بعض اوقات ایسا ہوا کہ میں جب ملاقات کے لیے مدرسہ پہنچتا تو حضرت مولانا حدیث پڑھا رہے ہوتے تو مجھے دیکھ کر مائیک میں ہی فرماتے حضرت اندر تشریف لے آئیں۔ پھر طلباء سے تعارف کرواتے اور درس جاری رکھتے۔

1998ء میں احقر کے بڑے بھائی مولانا عزیز الرحمن انوری کا جب انتقال ہوا تو سب سے پہلے شہر کی بڑی شخصیات میں سے شیخ نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہاں پہنچے۔ تقریب تکمیل بخاری شریف میں بھی مدعو فرماتے۔ اور خاص مہمانوں میں بٹھاتے۔ اپریل 2004ء جب میں کراچی سے فیصل آباد آیا ہوا تھا۔ تو عزیزم عمران فاروق کو لے کر حضرت سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا معلوم ہوا کہ طبیعت ناساز ہے اور گھر میں ہی ہیں اس لیے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ میں نے خادم سے کہا کہ حضرت کو جا کر میرا نام بتا دو۔ چنانچہ حضرت نے فوراً ہی اندر بلا لیا۔ جب کمرے میں داخل ہوئے تو خادم دوپلا رہا تھا فارغ ہوتے ہی سلام اور مصافحہ ہوا۔ فرمایا طبیعت تو ناساز ہے مگر آپ کو دیکھتے ہی سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ دل باغ باغ ہو گیا۔ کچھ دیر ملاقات رہی پھر رخصت لی۔ اسی سفر میں کراچی واپسی سے قبل احقر پھر ملاقات کے لیے حاضر ہوا طبیعت بدستور ناساز تھی بعد عصر ملاقات پر بہت خوش ہوئے میرے ہمراہ بیٹا محمد راشد انوری اور بھائی اشرف صاحب بھی تھے۔

حضرت مولانا نے اشرف صاحب سے پوچھا۔ آپ کا تعارف کیا ہے؟ اور میرے بارے میں فرمایا کہ مولانا تو جہاں دیدہ آدمی ہیں کچھ دیر ملاقات رہی پھر اجازت چاہی یہ آخری ملاقات ثابت ہوئی۔

51- حضرت مولانا عبدالوحید رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ (ڈھڈیاں شریف):

حضرت مولانا ہمارے حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے اور مجاز ہیں۔ میرے حضرت والد صاحب کے بھی خلیفہ ہے۔ اکثر ڈھڈیاں شریف جانا ہوتا تو حضرت مولانا سے ملاقات ہوتی خوب مجلس جمستی۔ لاہور میں حضرت نفیس شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی ملاقات رہی۔ ایک بار حضرت شاہ صاحب کے ہاں تشریف لائے نماز مغرب کا وقت ہوا تو جامعہ مدنیہ تشریف لے گئے جب مسجد پہنچے تو میں نے بیٹے محمد راشد سے حضرت کے جوتے اٹھا کر رکھنے کا کہا۔ پھر نماز کے بعد اہتمام سے حضرت کے سامنے جوتا رکھا حضرت نے خوشی سے شفقت بھرا ہاتھ بیٹے کے سر پر پھیرا، بعد میں بیٹے نے پوچھا کہ آپ نے مجھے ان کا جوتا اٹھانے کے لیے کیوں کہا جس پر میں نے سمجھایا کہ یہ بزرگوں کا احترام ہے اس طرح بارہا فیصل آباد ہمارے ہاں اور حاجی عبدالوحید صاحب کے گھر بھی ملاقات ہوتی رہی۔

52- حضرت مولانا عبدالجلیل رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ (ڈھڈیاں شریف):

حضرت مولانا ہمارے حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے اور مجاز ہیں۔ حضرت سے ہماری عزیز داری بھی ہے ہماری ہمشیرہ کا نکاح حضرت اقدس رائے پوری کی خواہش پر حضرت مولانا کے ساتھ ہوا۔ حضرت کی خدمت میں ڈھڈیاں شریف جانا ہوتا۔ اکثر قیام بھی ہوتا جب میں کراچی منتقل ہوا تو حضرت سے خط و کتابت جاری رہی اور جب کبھی فیصل آباد آنا ہوتا تو ڈھڈیاں

شریف بھی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا احباب مجلس رائے پوری عزیزم عمران فاروق اور محمد کاشف رشید بھی ہمراہ ہوتے۔ 2006ء میں حضرت سے آخری ملاقات ہوئی تھی۔ 17 فروری 2001ء میں حضرت نے نہایت شفقت فرماتے ہوئے احقر کو تحریری اجازت و خلافت سے نوازا۔ حضرت والد صاحب نے حضرت مولانا عبدالوحید صاحب اور حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب دونوں حضرات کو اجازت و خلافت عنایت فرمائی تھی حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب کی ساری پرورش حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کی اور اپنے ساتھ رکھا۔ مولانا عبدالجلیل صاحب کے والد حافظ خلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تھے نہایت سادہ طبیعت تھی کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ حضرت رائے پوری کے بھائی ہیں اور نہ ہی کبھی حضرت نے تعارف کروانے کی کوشش کی۔

میں حضرت مولانا عبدالجلیل کی خدمت میں حاضر تھا تو یہی تدفین والی بات ہوئی میں نے عرض کیا کہ ہمیں حقیقت حال بتائیں۔ جب حضرت شیخ نے اس تدفین والے واقعہ پر لکھا تو حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب نے نوعد خط حضرت شیخ کو میرے سامنے لکھے تھے، ان میں سے کچھ راستہ میں گم ہو گئے باقی حضرت شیخ کو مل گئے۔

حضرت مولانا عبدالجلیل رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت و خلافت کی تصدیق میرے سامنے مولانا عبدالمنان صاحب نے خود کی۔ فرمایا حضرت کی طرف سے خلافت و اجازت میں نے ہی لکھی تھی اس وقت میرا گوہر علی صاحب کے ہاں راولپنڈی میں موجود تھے۔

53- محدث کبیر حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ (کراچی):

حضرت مولانا اتنا عرصہ کراچی رہے بہت دینی کام کیا حضرت شاہ

عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ ہوں۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جب حضرت والد صاحب نے معلومات اکٹھی کیں تو ان سے بھی رابطہ ہوا آپ نے انہیں اچھی طرح سے پوچھا تو انہوں نے بمشکل تمام بتایا خط کے اندر کہ حضرت نے ایسا ارشاد فرمایا تھا کوئی اللہ کا نام پوچھے تو بتا دینا۔ حضرت والد صاحب نے جواب دیا کہ یہ اجازت ہی ہے۔ ان کے بیٹے نے احقر کو تین خط دکھائے اور پوچھا یہ کس کے لکھے ہوئے ہیں تو میں نے پہچان کر بتا دیا کہ والد صاحب کے ہیں۔ مولانا کا حضرت والد صاحب سے خط و کتابت کے ذریعہ زیادہ رابطہ رہا جب وہ حج پر جانے لگے تو حضرت والد صاحب نے انہیں اپنی تصنیف کردہ کتاب الحج المقبول کا بتایا کہ اگر مل جائے تو ساتھ لے جائیں۔

1999ء میں حضرت سے ملاقات ہوئی تھی، حضرت مولانا سے میں نے الحزب الاعظم اور دلائل الخیرات کی اجازت طلب کی بخوشی عنایت فرمائی اور حصن حصین کی اجازت بھی دی جو انہیں خاندانی طور پر بہت سے بزرگوں سے حاصل ہے اور ایک سو روپے ہدیہ بھی عنایت کیا۔

حضرت مولانا نے الحزب الاعظم کی تخریج کی ہے اور مفید حواشی کا اضافہ کیا ہے جو اب بھی مجلس الدعوة والتحقیق الاسلامی بنوری ٹاؤن سے شائع ہو رہی ہے۔ بہت کم لوگوں کو بیعت فرمایا اور وصیت بھی کی کہ میری قبر ایسی جگہ بسائی جائے جہاں لوگوں کی آمد و رفت کم ہو، نہ کتبہ لگایا جائے اور دوبارہ مٹی بھی نہ ڈالنا۔ اتنی کس نفسی اور اخفا۔ اللہ اکبر.....

54- حضرت مولانا حکیم عبدالصمد صاحب (ایبٹ آباد):

میں ایبٹ آباد مطب ہمدرد میں حکیم عبدالرشید انور سے ملاقات کیلئے گیا

وہ تو موجود نہ تھے البتہ ان کی جگہ جو صاحب موجود تھے ان سے تعارف ہوا معلوم ہوا کہ وہ فاضل دیوبند ہیں اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ چل نکلا اور میں نے بھی اپنا تعارف کروایا اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت شاہ صاحب کشمیری سے تعلق بتایا تو بہت خوش ہوئے اور بے تکلف ہو گئے میں حضرت والد صاحب کے حوالہ سے سنایا کہ حضرت شاہ صاحب قادیانیوں پر تلوار بے نیام تھے اور جب مرزا غلام احمد قادیانی کا نام آتا تو فرماتے یہ لعین قادیانی۔ اس پر مولانا عبدالصمد صاحب نے تصدیق فرمائی۔ اور فرمایا کہ میں نے خود حضرت شاہ صاحب کے پیچھے کئی جمعے پڑھے ہیں فرمایا کرتے تھے یہ لعین قادیانی یا کبھی فرماتے غلام احمد قادیانی جہنمی۔

55- حضرت صوفی احمد دین رحمۃ اللہ علیہ (راولپنڈی):

حضرت صوفی احمد دین رحمۃ اللہ علیہ کا بیعت کا تعلق ہمارے حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے تھا۔ حضرت مولانا محمد سعید ڈونگا بونگہ اور حضرت مولانا عبدالوحید رحمۃ اللہ علیہ ڈھڈیاں نے اجازت دی تھی۔ احقر کا حضرت سے 1970ء سے تعلق ہے بہت بار حضرت کی خدمت میں راولپنڈی جانا ہوا بہت احترام و اکرام فرماتے تھے۔ احقر پر شفقت فرمائی اور اجازت و خلافت عنایت فرمائی۔

56- حضرت صاحبزادہ طارق محمود رحمۃ اللہ علیہ (فیصل آباد):

آپ حضرت مولانا تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند تھے۔ آپ نے مرکزی جامع مسجد تاج محمود نزد ریلوے اسٹیشن میں سالہا سال خطاب کے فرائض سرانجام دیئے اور تحریک ختم نبوت کے عہدہ دار تھے۔ ایک بار نماز جمعہ کے لئے ان کے ہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ جب مسجد میں داخل ہوئے تو خطبہ شروع ہو چکا تھا۔

چنانچہ ہم باہر صحن میں ہی بیٹھ گئے۔ خطبہ مکمل ہوتے ہی صاحبزادہ صاحب میری طرف آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مصلیٰ پر لے گئے کہ آپ امامت کروائیں۔ نماز کے بعد بہت اکرام کیا۔

ان کے والد حضرت مولانا تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ بھی میرا بہت احترام کرتے تھے۔

57- حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ:

میں نے حضرت صوفی صاحب کا نام تو بہت سن رکھا تھا مگر کبھی زیارت و ملاقات کا موقع نہیں ملا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب صوفی صاحب کا قیام سالار والا (دارالاحسان) میں ہوتا تھا۔ میں بذریعہ ریل پہنچا اسٹیشن پر کچھ اور لوگ بھی انہی کی خدمت میں جا رہے تھے میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ آنے والوں کو صوفی صاحب خوب ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ حکم یہ تھا کہ جو کوئی بھی آئے وہ تپائی پر رکھی ہوئی سورہ یس کی تلاوت کرے۔ مسجد کچی تھی اور اس کی محراب میں خود صوفی صاحب بیٹھے ہوئے تھے کچھ لکھنے میں مشغول تھے سرکنڈے کی قلم کو سیاہی والی دوات میں ڈبو کر اپنے کرتے سے ذرا صاف کرتے پھر لکھتے ہم نے بھی بیٹھ کر سورہ یس کی تلاوت شروع کر دی۔ صوفی صاحب کی نظر اٹھتی اور مجھ سے شروع ہو کر گھوم پھر کر مجھ پر ہی آ کر ختم ہوتی۔ دو تین بار ایسے ہی ہوا پھر صوفی صاحب نے اشارہ کر کے مجھے بلا لیا۔ میں پہلے ہی ڈرا ہوا تھا کہ صوفی صاحب بہت ڈانٹتے ہیں میں نے سوچا اب میری خیر نہیں۔ پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا لائل پور (فیصل آباد) سے۔ تو فوراً میرے والد صاحب کا نام لے کر پوچھا آپ ان کو جانتے ہیں میں عرض کیا میں انہی کا بیٹا ہوں۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ صوفی صاحب نے مجھے سینے سے لگالیا اور اپنے

ساتھ ہی محراب میں بٹھالیا۔ باتیں شروع ہو گئیں مجھے فرمایا کہ آپ نہیں مجھے جانتے میں آپ کے گھر کا پرانا غلام ہوں۔ میں نے بیس سال آپ کے والد صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھا ہے اور یہ بھی بتایا کہ میرے بیٹے کا نام آپ کے والد صاحب نے محمد انور رکھا تھا یہ بیٹا حضرت صوفی صاحب کی زندگی میں وفات پا گیا تھا۔ گفتگو کا سلسلہ کچھ دیر جاری رہا پھر خدام کو بلایا اور فرمایا ان کو لے جائیں جہاں مسجد، مدرسہ قرآن محل اور ہسپتال بنا ہے ان سب جگہ پر ان کو پھراؤ فرمایا جہاں جہاں ان کے قدم لگیں گے وہ جگہ برکت والی ہو جائے گی۔ چنانچہ خدام نے مجھے تمام جگہوں پر پھرایا۔ ان کی خانقاہ کا دستور تھا اور اب بھی ہے کہ وہاں تمام لوگ ننگے پاؤں پھرتے ہیں۔ لیکن صوفی صاحب نے مجھے فرمایا کہ آپ جوتا پہن لیں۔ پھر ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو مجھے فرمایا نماز پڑھائیں پھر ایک جنازہ آ گیا تو فرمایا جنازہ بھی پڑھائیں پھر مجھے تہہ خانہ میں لے گئے کھانا کھلایا۔ پھر پوچھا کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کی کہ آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تھا۔ اس وقت لیٹن چائے نئی نئی نکلی تھی اس کی دوٹن پیک اور کچھ نقد ہدیہ عنایت فرمایا اس کے بعد میں نے اجازت چاہی تو فرمایا چلتے ہیں مجھے تھوڑی حیرانی ہوئی تھوڑی دیر بعد فرمانے لگے آؤ چلیں۔ مجھے فرمایا آپ آگے ہو کر چلیں تو میں نے عرض کی کہ میں نے آگے آگے نہیں چلنا آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گا۔ صوفی صاحب اور تمام مریدین اسٹیشن کی طرف ننگے پاؤں چل پڑے۔ حضرت صوفی صاحب ریلوے گارڈ کیبن تک ساتھ آئے راستہ میں آتے ہوئے میں نے عرض کی کہ اگر آپ نے میرے ساتھ یہی سلوک کرنا ہے تو میں آئندہ نہیں آؤں گا اس پر فرمایا کہ چلو ایسے نہیں کریں گے آپ آجایا کریں۔ صوفی صاحب خود تو مل کر واپس تشریف لے گئے اور خدام سے فرمایا کہ ان کی ٹکٹ لے کر ریل پر سوار کروا کر جب چلے

جائیں تو مجھے آکر اطلاع دو۔

اس کے بعد جب بھی ملاقات کے لیے جانا ہوا تو حضرت صوفی صاحب دور سے ہی دیکھ کر جوش میں اونچی اونچی فرماتے۔ او آگئے او آگئے۔ (وہ آگئے ہیں وہ آگئے ہیں) جب پاس پہنچتا تو بغلگیر ہو جاتے۔ بہت احترام و اکرام فرماتے صوفی صاحب نے اپنی مشہور کتاب ”ترتیب شریف“ جب مرتب کروانی شروع کی تو علماء کا ایک بورڈ بنا کر اس پر ایک شاہ صاحب کو نگران مقرر کیا۔ میں جب خدمت میں حاضر ہوتا تو فرماتے آپ ان کو دیکھیں کہ یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں؟ میں حسب حکم کام دیکھتا اور کہیں تصحیح کی ضرورت ہوتی تو نشاندہی کر دیتا اسی مقصد کے لیے مجھے ریل کا پاس بنوا کر دیا کہ آنے جانے میں آسانی رہے۔ اس دوران ایک دن صوفی صاحب نے مجھے فرمایا کہ یہ شاہ صاحب (نگران) مجھے کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے ساتھ کاف (ک) لگا دیں۔ (مطلب انہیں کافر قرار دے دیں) تو میں نے کہا کہ نہ شاہ جی نہ شاہ جی نہ۔ دیوبندیوں کے ساتھ کاف نہیں لگانا۔ پھر جب کتاب چھپ کر آئی تو صوفی صاحب نے لیٹر پیڈ میرے سامنے رکھ دیا اور فرمایا جتنے سیٹ چاہیے لکھ لیں میں نے عرض کی آپ خود ہی لکھ دیں۔ تو سات سیٹ لکھ دیئے جن میں ہر سیٹ سات جلدوں پر مشتمل تھا۔

کتاب کا اسٹاک دالووال میں تھا فرمایا وہاں سے لے لیں۔ اس کے بعد بھی حضرت صوفی صاحب سے ملاقاتیں رہیں صوفی صاحب کو یا ان کے متعلقین میں سے کسی کو کوئی شرعی مسئلہ درپیش ہوتا تو سائل سے فرماتے کہ جاؤ سنت پورہ، فیصل آباد میں حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سے پوچھ کر آؤ۔ چنانچہ ہمارے ہاں سے جو جواب دیا جاتا اسے حرفِ آخر سمجھتے۔ صوفی صاحب کے جنازے میں بھی شرکت ہوئی۔

جنازے میں بھی شرکت ہوئی۔

احقر نے اپنا ایک مضمون ”اتحاد بین المسلمین کا اخلاقی پہلو“ کے عنوان سے حضرت صوفی صاحب کی خدمت میں پیش کیا تا کہ وہ اسے اپنے رسالہ میں شائع کریں۔ صوفی صاحب نے بہت پسند فرمایا اور اپنے خصوصی کاتب و فاروق صاحب کو لکھ کر بھیجا کہ وہ اس کی کتابت کریں اور نیچے اپنے دستخط فرمائے۔ چنانچہ وہ مضمون رسالہ ”دارالاحسان“ میں قسط وار شائع ہوا۔

صوفی برکت علی صاحب کو کسی شخص نے خط لکھا کہ آپ چشتی ہیں اور میرا تعلق فلاں سلسلہ سے ہے اس طرح کی باتیں لکھیں جو اب میں صوفی صاحب نے لکھا کہ

”بیٹا چشتی ہو یا نقشبندی ہو یہ تو بتاؤ کہ ذکر کرتے بھی ہو؟
مقصد تو اللہ کی یاد ہے۔“

58۔ حضرت صوفی محمد دین مدظلہ (گوجرہ):

حضرت صوفی محمد دین مدظلہ کا ہمارے حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا تعلق ہے اور حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرگودھا اور حضرت ہیڈ ماسٹر میاں منظور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گوجرہ والوں سے مجاز ہیں۔ ہمارے حضرت والد صاحب کی خدمت میں بھی تشریف لاتے تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ میرے اوپر جب ذکر کی خاص کیفیت طاری ہوئی تو میں مشورہ کے لیے سنت پورہ آپ کے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے کیفیت سن کر میرا ذکر جہری بند کروا کے ذکر خفی شروع کروا دیا۔ احقر کا حضرت صوفی صاحب کے ساتھ دوستانہ تعلق رہا کئی مرتبہ گوجرہ میں ملاقات ہوئی۔ حضرت کے قائم کردہ مدرسہ عزیز یہ میں قیام کرنے کا اتفاق بھی ہوا۔ بہت احترام و اکرام فرماتے۔

حضرت مولانا خلیل الرحمن انوری ابن حضرت مولانا عزیز الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ

کی رائے گرامی

چچا جان حضرت مولانا محمد ایوب الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ فقیر سے بہت محبت فرماتے تھے۔ کئی باتوں میں مشورہ بھی فرما لیتے تھے۔ مولوی طیب نے قرآن مجید ختم کیا تو فقیر سے فرمایا آخری سبق سن کر دعا کرادیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا انوری مسجد میں دعا کرائی۔ بہت ساری مسنون دعائیں موقعہ کی مناسبت سے پڑھتے تھے۔ مجلس دینی جو کتب و رسائل شائع کرتی تھی حضرت ہی مضامین جمع و ترتیب دیتے تھے۔ اپنے گھر میں پہلے مکتبہ محمدیہ بنایا تھا پھر حفظ کی درسگاہ بنائی تھیں۔ مساجد بنانے کا بہت شوق تھا، عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا جذبہ تھا۔ دنیا کی رغبت نہیں تھی۔ پڑھنے پڑھانے میں زندگی گزار دی۔ مسجد، مدرسہ، خانقاہ، بزرگوں کی خدمت میں حاضری مطالعہ، ذکر و فکر اور دین کی دعوت یہی ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں جگہ دے۔ آمین

اس کے علاوہ جن علماء و مشائخ کی زیارت و ملاقات کا شرف حاصل ہوا ان میں سے چند حضرات کے نام مندرجہ ذیل ہیں: حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی، حضرت مفتی زین العابدین، حضرت مولانا مجاہد الحسنی، حضرت مولانا محمد ظریف، حضرت مولانا ظفر احمد قادری واہگہ، حضرت مولانا عطاء الحسن بخاری، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی، حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی، حضرت مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ، حضرت مولانا عبدالحلیم چشتی، بھائی واصف منظور، حافظ عبدالرشید سورتی، ڈاکٹر نوشاد بیگ، عامل مولانا اعجاز احمد سنگھانوی، حضرت مولانا سبحان محمود، حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی، حضرت مولانا محمد احمد تھانوی سکھر۔

مکتوب حضرت مولانا خلیل الرحمن انوری مدظلہ

بنام حضرت مولانا ایوب الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بخدمت اقدس حضرت چچا جان صاحب دامت برکاتہم العالیہ

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مزاج شریف

طالب خیر بخیریت! ابھی آپ کا خط مبارک ملا پڑھ کر بہت خوشی ہوئی۔
بڑے حضرات تو دنیا سے تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ ان کو درجاتِ رافعہ عالیہ
مرحمت فرمائے، ہمیں ان کے لئے صدقہ جاریہ بنا دے اور کل ان کے سامنے
سرخروئی نصیب فرمائے۔ (آمین)

اب آپ ہی ہمارے بڑے ہیں۔ آپ کی سرپرستی، نصیحتوں اور دعاؤں
کے ہم محتاج ہیں۔ اللہ رب العزت آپ بڑوں کا سایہ مبارک تادیر محبت و عافیت
کے ساتھ ہم پر قائم رکھے اور ہمیں ان کے فیوض و برکات سے پوری طرح منتفع اور
مستفید فرمائے، ان کی خدمت و قدردانی نصیب فرمائے، ان کی محبت و شفقت
نصیب فرمائے۔ (آمین)

کتابیں الماریوں میں رکھ کر تالے لگا کر جیسے آپ نے رکھی تھیں بجز اللہ
ویسے ہی ہیں۔ ویسے چوہے بھی پھرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کتابیں
محفوظ رہیں۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ بے حد شکر و احسان ہے کہ سب گھروں
میں خیریت ہے۔ امید ہے آپ سب چھوٹوں کو دعواتِ صالحہ میں یاد فرماتے
ہوں گے۔ والسلام مع الاکرام

بندہ خلیل الرحمن عفا اللہ عنہ

ارشادات و واقعات

(حضرت مولانا محمد ایوب الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ)

1- نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے کئی مرتبہ خواب میں ہوئی۔ ایک مرتبہ زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ ایک بڑی چارپائی تھی جو حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مخصوص تھی بعد میں میرے استعمال میں بھی آتی رہیں۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر 1948ء سے تشریف لاتے رہے۔ جو مجھے یاد ہے اور 1958ء تک تقریباً دس سال مسلسل قیام ہمارے گھر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ اس چارپائی پر تشریف فرما تھے، میں نے جا کر مصافحہ کیا، ہمارے گھر کا نقشہ دکھایا گیا۔ مجھے یقینی طور پر نظر آ رہا تھا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہوں اور میں نے صوفی زکریا صاحب مؤذن مسجد انوری کو دیکھا کہ وہ آپ کے پاؤں دبا رہے تھے۔ شب جمعہ کو میں نے یہ خواب دیکھا تھا۔ صبح آٹھ بجے صوفی صاحب مسجد کی صفائی کر رہے تھے۔ میں نے جا کر ان کو خواب سنایا، صوفی صاحب اونچی اونچی چیخیں مارنے لگے۔ اور روتے ہوئے مسجد کے اندر چلے گئے۔ یعنی ان کو اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے ان کو یہ خواب سنایا۔

ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی مجھے خواب آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انوری مسجد تشریف لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے صحن میں جہاں امام کھڑا ہوتا ہے وہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا بہت بڑا مجمع ہے تقریباً 150 یا 200 کے قریب انبیاء کرام علیہم السلام ہے اور میں سب کو پہچان رہا ہوں کہ یہ فلاں فلاں ہیں، صوفی زکریا صاحب میرے برابر کھڑے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی ہے۔ وہ میرے دائیں طرف کھڑے ہیں اور

میں ان کے بائیں طرف کھڑا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لے جانا چاہتے ہیں۔ سارے لوگ آپ کے ساتھ ادباً کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے صوفی زکریا صاحب سے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مبارک آگے رکھا ہے۔ یہ بات میں نے کہی اور بلند آواز سے رونے لگ گیا۔

آج فجر کے بعد خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور کچھ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی موجود تھے۔

(۱۱ صفر ۱۴۲۰ھ بروز جمعہ، 28 مئی 1999ء)

2- حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد والد صاحب کی حالت بہت زیادہ غیر ہو گئی تو خواب میں حضرت شاہ صاحب کی بار بار زیارت ہوئی اور شاہ صاحب نے فرمایا آپ حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں چلے جائیں وہ ہمارے رفیق ہیں۔ جب ایسے لوگوں کا تعلق اللہ والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان حضرات کی ملاقات ویسے بھی ہو جاتی ہے جیسے ہم آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ راویات الطیب اور ارواح ثلاثہ کتابوں کا مطالعہ کرنے والا اس بات کو تسلیم کرے گا کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انتقال کے کئی سال بعد دارالعلوم دیوبند میں تشریف لائے، اور حافظ محمد ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد صاحب سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ اس طرح ملاقات ہو جاتی ہے۔

یہ ایک روحانی تعلق ہوتا ہے جو قبر والوں کے ساتھ بھی قائم رہتا ہے۔

3- حضرت والد صاحب کے انتقال کے بعد ایک بزرگ حضرت صوفی محمد طفیل (چیچہ وطنی) نے والد صاحب کی قبر پر کشف کیا پھر بعد میں نے خود بھی کشف کیا تو حضرت والد صاحب کی حالت منکشف ہوئی کہ ایک طرف علماء و صلحا کا

بہت بڑا مجمع تھا اور دوسری طرف طلبہ تھے ایک بڑے تخت پر تکیے لگے ہوئے تھے جس پر حضرت والد صاحب تشریف فرما تھے۔ سامنے چھوٹے میز پر کتابوں کا ڈھیر تھا جس میں ایک طرف تفاسیر اور دوسری طرف احادیث کی کتب موجود تھیں اور حضرت والد صاحب مطالعہ فرما رہے تھے۔ آپ نے کشف کرنے والے کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ ”کیا دیکھتا ہے؟ یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن پاک اور حدیث پاک کی خدمت کی بدولت عطا فرمایا ہے“۔ نیز حضرت صوفی محمد طفیل صاحب کو احقر کے بارے میں فرمایا: ”اسے کہیں کہ میری قبر پر آتا رہے اس کو مجھ سے فیض ہوگا۔“

4- والد صاحب کے انتقال کے تقریباً چھ ماہ بعد ہماری والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں سیکڑوں بچیوں کو حفظ و ناظرہ قرآن پاک اور بہشتی زیور و دیگر مسائل کی تعلیم دی تھی۔ ان کی حالت ایسے منکشف ہوئی کہ بہت بڑی تعداد میں بچیاں پڑھ رہی ہیں اور بی بی جی (والدہ صاحبہ) سامنے بیٹھی ہوئی تھیں۔ صاحب کشف کو فرمایا کہ ”ذات ذات سے مل گئی خاک خاک سے مل گئی بس کام بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کو میرا صبر و تحمل پسند آ گیا“ اور میرے بارے میں فرمایا کہ جب یہ (ایوب الرحمن) قبر پر آتا ہے تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے۔

اسی طرح ہمارے حضرت والد صاحب کے ایک شاگرد محمد نذیر انتقال و تدفین کے دو تین دن بعد اپنے استاذ حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے گئے لیکن اندازہ نہ ہوا (کیونکہ جنازے میں ریش تھا) اور قبر سے آگے گزر گئے تو پیچھے سے اپنے استاذ محترم حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ کی آواز آئی۔ محمد نذیر میں ادھر ہوں۔ چنانچہ وہ جدھر سے آواز آئی تھی اس قبر پر پہنچ گئے جو حضرت کی ہی قبر تھی۔

5۔ بچپن میں ہم لوگ حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں میری عادت تھی کہ جب بھی آتا تو حضرت سے مصافحہ کرتا، اس پر حضرت نے فرمایا بھائی اتنے مصافحے اپنی والدہ سے کیا کرو۔ حضرت کوئی بات پوچھتے تو میں صاف سچ بتا دیتا تھا۔ اس پر حضرت میرا نام لیکر فرماتے بھائی یہ ثقہ آدمی ہے۔ ایک بار حضرت نے فرمایا پتہ نہیں، یہ ثقہ کو کیا سمجھتا ہوگا؟ پھر فرمایا ثقہ کہتے ہیں معتبر آدمی کو۔ جس پر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ حضرت کے تشریف لانے پر اتنا اہتمام ہوتا تھا کہ سارے گھر کی صفائی رنگ و روغن خصوصی طور پر ہوتا۔ حضرت فجر کے بعد سیر کے لیے پیدل یا گاڑی میں تشریف لے جاتے تو میں بھی ساتھ ہوتا۔ حضرت مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھالیتے۔ میں نے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریباً بارہ سال زیارت کی ہے جس آدمی نے سورج دیکھا ہو، اسے آپ موم بتی جلا کر دکھائیں تو اس کے لئے وہ کیا معنی رکھتی ہے۔

6۔ امام العصر حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان تھا کہ مرزا نیوں کے خلاف اگر کوئی کام نہ کر سکے ختم نبوت والوں کے ساتھ نہیں جڑ سکتا یا ان کے ساتھ جیلوں میں نہیں جاسکتا وہ صبح اٹھ کے مرزا کو پانچ دس گالیاں نکالے تو اس کی بخشش کا ذریعہ یہ بن جائے گا۔ اس کی یہ خدمت قبول کی جائے گی۔ میرے پاس کچھ کتابیں تھیں جو کسی آدمی نے دی تھیں جو قادیان کی ان کے اپنے پریس کی چھپی ہوئی تھیں، ان میں ایک کتاب حقیقۃ الوحی تھی۔ اس میں دو تصویریں لگی ہوئی تھیں میں نے دونوں تصویریں نکال لیں۔ صبح اٹھ کے ان دونوں تصویروں پر جوتیاں مارتا اور میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کمزور آدمی ہوں میں تحریکوں میں حصہ نہیں لے سکتا، میں یہ تو کر سکتا ہوں۔ میرے ایک شاگرد نے دیکھ لیا، اس نے کہا کہ استاذ جی یہ تصویریں آپ مجھے دے دیں تاکہ میں پلاسٹک کوٹنگ کروادوں،

آپ دیر تک جو تیاں مارتے رہیں۔ بات یہ ہے کہ کسی کے دھڑے کا ہو کر رہنا، ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دھڑے کے لوگ ہیں۔

7۔ ہم ایک جگہ بیٹھے تھے کہ ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغیر درود شریف پڑھے صرف ”حضور حضور“ کا لفظ استعمال کر رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کون حضور؟ بولا، وہی اپنے حضور۔ میں نے کہا، خدا کرے تیرا منہ ٹوٹ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لے رہا ہے، تیرے منہ سے درود شریف نہیں نکلتا۔ تو ایسے کہہ، میرے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا کہنا تھا کہ اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ مجلس میں موجود لوگوں نے میری تائید کی۔ اکفار الملحدین میں شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ کوئی شخص کلمہ کفر نقل کر رہا ہو اور ایسا محسوس کر رہا ہو کہ اس کو لذت محسوس ہو رہی ہے تو نقل کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔

8۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کی کیسٹ میرے پاس تھی جس میں لوگوں کو بیعت فرما رہے تھے۔ حضرت نے اس میں یہ الفاظ کہلوائے کہ ”بیعت کی میں نے حضرت شیخ الہند سے حسین احمد کے ہاتھ پر۔“ اسی طرح ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ میں جب بیعت فرماتے تو ایسے ہی الفاظ کہلاتے کہ بیعت کی میں نے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن سے محمد کے ہاتھ پر۔

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، لیکن جب حضرت شیخ الحدیث پاکستان کا سفر فرماتے پہلے لاہور پہنچتے پھر فیصل آباد وہاں سے سرگودھا۔ پھر حضرت کا ڈھڈیاں جانا ہوتا تھا اس تمام سفر کے دوران حضرت شیخ الحدیث یہ الفاظ کہلواتے تھے ”بیعت کی میں نے حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے زکریا کے ہاتھ پر۔“ ایک شخص

نے زکریا کے ہاتھ پر کہنے کی بجائے ”حضرت شیخ کے ہاتھ پر“ کہہ دیا۔ جس پر حضرت نے جلال میں فرمایا میں تمہیں کہہ رہا ہوں زکریا کے ہاتھ پر اور تم کہہ رہے ہو حضرت شیخ کے ہاتھ پر۔ ہمارے اکابر ایسے ہی بیعت کے الفاظ کہلواتے تھے۔ جیسے حضرت نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دوستوں میں اور بزرگوں میں سے بھی ہیں۔ نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ساری تربیت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر ہوئی ہے۔ نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بیعت کرتے وقت ایسے ہی الفاظ کہلواتے تھے۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جب پاکستان کا سفر فرماتے تو باقی جگہ بالعموم اور فیصل آباد بالخصوص بیعت کے بعد نصح فرماتے اور اکثر یہ الفاظ فرماتے کہ ”حضرت مولانا محمد صاحب انوری سے ملتے رہیں اور معمولات و اذکار ان سے پوچھتے رہیں“.....

9۔ خلفاء سارے ہی جانشین ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پگڑی نہیں پہنائی تھی نہ ہی ان کی جانشینی کا اعلان فرمایا تھا یہ کہا تھا کہ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے متعدد بار یہی فرمایا۔ سترہ نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلیٰ پر پڑھائیں۔

10۔ آپ اپنے والد محترم حضرت انوری کا حلیہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کا چہرہ ایسا تھا کہ ابھی چہرہ پھٹ جائے گا اور بہت تیز نور کی شعائیں نکلیں گی۔ یہ حقیقت ہے زبانی باتیں نہیں، ان کی انگلیوں کی پوریں ایسی تھیں جیسے بلب جل رہے ہوں۔ اندھیرے میں بیٹھتے تو روشنی ہو جاتی والد صاحب اپنے شیخ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ مقدمہ بہاولپور کے قیام کے دوران جب رات کو تہجد پڑھ کر فارغ ہوتے تو کمرے میں اندھیرا ہوتا تھا مگر سارا کمرہ روشن ہوتا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے قمقمے جل رہے ہیں۔ اسی بات کو مولانا سید

احمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ میں بہت کچھ لکھ دیا ہے والد صاحب اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ انہیں سب کچھ نظر آتا تھا۔

11- حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا دلائل الخیرات اور حزب الاعظم ساری عمر کا معمول تھا، یہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ کے معمولات میں شامل ہے۔

12- حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کی صحیح تعداد و تفصیل تو معلوم نہیں حضرت نے ساری زندگی اپنا انخفا رکھا۔ اور اپنی اجازت و خلافت کا کبھی ذکر نہیں فرمایا۔ انخفاء کی یہ حالت تھی کہ حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ”تذکرۃ الرشید“ اس میں خلفاء کی فہرست میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں ہے، ایک تو یہ انخفا اتنا تھا کہ معلوم نہ ہو سکا۔ اور دوسرا یہ کہ جب کتاب لکھی گئی تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سعودیہ مستقل چلے گئے تھے۔

حضرت کے ایک خلیفہ جو بہاولپور میں تھے جن کا نام بھی مجھے مولانا محمد ادریس انصاری صادق آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بتایا تھا اب ذہن سے محو ہو گیا اور دوسرے خلیفہ مشرقی بنگال سلہٹ میں تھے جن کا نام مولانا انصاری کو بھول گیا اور تیسرے خلیفہ حضرت والد صاحب تھے وہ بھی میں نے پوچھ لیا تھا ورنہ انہوں نے بھی کہاں بتانا تھا۔ ایک مرتبہ فیصل آباد میں ایک مجلس میں دادا جان حضرت مولانا فتح الدین رشیدی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہوا تو میں نے بتایا کہ وہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے وہاں موجود ایک مفتی صاحب فوراً تذکرۃ الرشید اٹھا کر لے آئے اور خلفائے کی فہرست نکال کر مجھے دکھانے لگے کہ اس میں تو مولانا فتح الدین کا نام درج نہیں ہے تو میں نے کہا کہ اس میں تو حضرت علامہ انور شاہ

کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی نہیں ہے اس پر انہوں نے چپ سادھ لی۔

13۔ مولانا مفتی محمد یونس صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سابق مفتی شہر و خطیب جامع مسجد کچھری بازار والد صاحب کے دوستوں میں سے تھے جید عالم تھے جامع مسجد فتح دین عبداللہ پور میں ان کی قبر ہے جب حج کے لیے گئے تو والد صاحب کو اپنی جگہ جامع مسجد کچھری بازار میں جمعہ پڑھانے کے لیے مقرر کر گئے تھے۔ دیگر معاملات میں بھی والد صاحب سے مشاورت کرتے تھے۔ مفتی یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی بھی طرح راضی کر لیا جائے کہ وہ جامع مسجد کچھری بازار کی خطابت سنبھال لیں چنانچہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد انتظامیہ نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ وہ یہاں کی خطابت سنبھال لیں لیکن حضرت نے انکار فرمایا تو انہوں نے کہاں کہ مفتی یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین نہیں کریں گے جب تک آپ جامع مسجد کی خطابت سنبھالنے کے لیے راضی نہیں ہو جاتے۔ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ آپ ضد نہ کریں تدفین کر دیں میں خود تو یہاں نہیں آؤں گا البتہ اپنا کوئی آدمی دے دوں گا۔ انہی دنوں جگہ کی تلاش میں مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ والد صاحب کے پاس آتے تھے۔ چنانچہ والد صاحب نے ان کو خط لکھ کر بلایا اور جامع مسجد کا خطیب مقرر کر دیا۔ مفتی صاحب کے مالی حالات اس وقت کمزور تھے بعد میں اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خوب دین کا کام کیا۔ اپریل 2004ء میں مفتی صاحب کا انتقال ہوا۔ ان کی وصیت تھی کہ مجھے اسی قبرستان میں دفن کیا جائے جہاں حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ دفن ہیں چنانچہ اسی قبرستان میں تدفین ہوئی حالانکہ مفتی صاحب کے قائم کردہ درالعلوم فیصل آباد کے سامنے قبرستان موجود ہے۔ احقر اتفاق سے فیصل آباد گیا ہوا تھا کہ مفتی صاحب کے

جنازے میں شرکت ہو گئی مفتی زین العابدین صاحب میانوالی کے قریب مسندہ خیل گاؤں کے رہنے والے تھے۔ جو عیسیٰ خیل سے ملحقہ ہے۔

14- مولانا بدر عالم میرٹھی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت والد صاحب کے ساتھی تھے۔ بہت صحیح اور مخلص عالم دین تھے مدینہ منورہ میں انتقال ہوا تین بار ان کی قبر کھلی؛ لیکن جسد بالکل صحیح سالم رہا تو سعودی گورنمنٹ نے آرڈر دیا کہ اس قبر پر نشان لگا دیں اور دوبارہ نہ کھولیں، میں نے ان کی زیارت مدینہ منورہ میں کئی بار کی ہے۔ مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ نے آگے کسی کو اجازت و خلافت نہیں دی۔ اس لیے کہ انہیں اپنے معیار کا بندہ نظر نہیں آیا جسے خلافت دی جائے۔

15- مولانا محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ صاحب میاں چنوں والے بڑے ہی بزرگ آدمی تھے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے۔ بہت سے اکابر کی زیارت کی لیکن کسی طرف سے اجازت نہیں ہوئی لیکن ان کی بزرگی میں ذرا بھی شک نہیں بہت اللہ والے متقی تھے اور مجسم نور تھے دیکھ کر ہی بندہ کہتا تھا کہ سارا نور لپٹا ہوا ہے دیکھنے میں والد صاحب کے حقیقی بھائی معلوم ہوتے تھے والد صاحب کی وفات کے چھ ماہ بعد تک حیات رہے اور قبر پر بھی آتے تھے لوگ جب قبرستان میں دیکھتے تو کہتے یہ مولانا محمد انوری کے بھائی ہیں۔ پھر حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت سے مشرف فرمایا آپ نے لمبی عمر پائی۔

16- مولانا فضل احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی سادہ مزاج و لباس تھے کوئی کبھی دیکھ کر کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ مولوی ہیں ایسے ہی لگتا کہ حقہ پینے والا دیہاتی بابا ہے، حضرت شاہ عبدالرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت رکھتے تھے۔ یہ واقعہ والد صاحب نے کئی بار ہمیں سنایا لیکن اپنے اخلاص کی بنا پر کبھی ظاہر نہ کیا۔ حضرت مولانا سے مجھے معمولات و وظائف کی اجازت ہے۔ یہ 1957ء کی بات ہے،

ہمارے ہاں آتے رہتے تھے، کافی دن قیام بھی فرماتے تھے۔

17- امام کعبہ عبداللہ سُبَیْل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کی حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے ملاقات: ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں حرم پاک میں غالباً نماز مغرب کی امامت کے لیے امام کعبہ عبداللہ بن سُبَیْل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تشریف لائیں میں بھی نماز کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ قریب ہی حضرت علی میاں رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بھی موجود تھے۔ جب امام صاحب حرم میں تشریف لائے تو انہیں معلوم ہوا کہ مولانا ابوالحسن علی ندوی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بھی حرم میں موجود ہے۔ تو وہ نماز سے پہلے ان سے ملاقات کے لیے خود ان کے پاس تشریف لے گئے اور ملاقات کرنے کے بعد امامت کے لیے مصلیٰ پر تشریف لے گئے۔ میں اس واقعہ کا عینی شاہد ہوں۔

18- صاحبزادہ محمد راشد انوری بیان کرتے ہیں کہ حضرت دادا جان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کی طرح حضرت والد صاحب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ میں بھی کمال استغنا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک بہت بااثر سیاسی شخصیت نے حضرت والد صاحب کو پیشکش کی کہ آپ کیسی سادگی والی زندگی بسر کر رہے ہیں، سادہ سے مکان میں رہتے ہیں، آپ ایک علمی خانوادے کے فرد ہیں، آپ حکم کریں تو بنگلہ بنوادیں اور گاڑی اور سیکورٹی بھی فراہم کرتے ہیں۔ لیکن حضرت نے معذرت فرمائی۔

19- جب والد صاحب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مدینہ مسجد کلفٹن میں خطیب مقرر ہوئے اور پہلا ماہ رمضان آیا تو رمضان سے چند دن پہلے ایک قاری صاحب ملاقات کے لئے آئے۔ انہوں نے بتایا کہ میں اس مسجد میں عرصہ دس سال سے تراویح پڑھا رہا ہوں اور اس سال بھی ارادہ ہے۔ اس پر والد صاحب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نے فرمایا کہ آپ تو داڑھی کترے ہیں آپ کی تو داڑھی پوری نہیں ہے۔ جس پر وہ بوکھلا کر ادھر ادھر کی ہانکنے لگے پھر پینتر بدل کر کہنے لگے کہ ختم قرآن پر جو ہدیہ اکٹھا ہوتا ہے وہ میں

امام صاحب کو دیا کرتا ہوں۔

اس پر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ آدمی بھول گئے ہیں اب یہاں میں خطیب ہوں آپ کے پیچھے تراویح نہیں ہوگی۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ ہم منگل کو آئیں گے اور نمازیوں سے پوچھیں گے۔

تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ضرور آئیں، منگل کے دو دن بعد جمعہ بھی آئے گا اس میں میں یہ مسئلہ بیان کروں گا کہ دارہی کترے کے پیچھے نماز تراویح نہیں ہوتی لیکن وہ نہ آیا۔ پھر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ عبدالرشید سورتی رحمۃ اللہ علیہ سے تراویح کے لیے حافظ کے انتظام کا کہا۔ سورتی صاحب نے انتظام کر دیا پھر نئے قاری صاحب نے کئی سال اس مسجد میں قرآن پاک سنایا۔ وہ چندہ اکٹھا نہ کرتے تھے اور مٹھائی بھی خود لے کر آتے تھے۔

20- مدینہ مسجد کے ارد گرد بیرونی ممالک کے سفارت خانے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ جمعہ کے بعد حضرت والد صاحب مسجد سے باہر نکلے تو ایک صاحب جو کئی ممالک میں سفیر رہ چکے تھے بڑی محبت سے ملے اور عرض کیا کہ حضرت صاحب آپ کی بڑی عنایت ہوگی اگر آپ میری گاڑی میں صرف پاؤں رکھ دیں۔ والد صاحب ان کا دل رکھنے کے لئے کچھ منٹ گاڑی میں بیٹھ گئے۔

21- حضرت والد صاحب مدینہ مسجد میں عرصہ چار سال خطیب رہے۔ غالباً 2009ء میں آپ نے تمام تنخواہ مع اضافہ انتظامیہ مسجد کو واپس کر دی تھی۔

22- حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف چھپوا کر اہل علم تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ملفوظات حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ادارۃ المعارف سے شائع کروائے۔ 2003ء میں حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف انوار انوری شائع

کروائی۔ حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے لکھی جانے والی اربعین جو کہ حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ نے ۱۳۴۶ھ میں تصنیف فرمائی تھی اور اسے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پسند فرمایا تھا، اس اربعین کو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سینکڑوں بار شائع کروا کر دینی مدارس میں تقسیم کروایا اور یہ معمول تا حیات رہا۔ اور حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ کی تمام تصانیف کو دینی رسائل میں قسط وار شائع کروایا۔



محمد رسول اللہ ﷺ

جامع مسجد باب الرحمت

برانی نمائش ایم اے جلال روڈ کراچی ۷۴۳۰۰

فون: ۷۷۸۰۳۳۷۱

نائب امیر، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت
استاذ حدیث، جامعہ العلوم الاسلامیہ انوری ٹاؤن
مدیر، ماہنامہ "بیدنات" کراچی،
اسلامی مفروضات کی سب سے بڑی لڑائی میں زندہ جنگی لڑائی

گرامی قدر جناب جنرل سیکرٹری صاحب جامع مسجد محمدی عزیز آباد

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

معروض آنکہ حامل ہذا جناب مولانا ایوب الرحمن صاحب مجھ سے تعلق

رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ آپ حضرات کو امام و خطیب کی ضرورت ہے۔ اگر
ضرورت ہو تو ان کا تقرر فرمائیں میں سفارش کرتا ہوں۔

والسلام

بقلم سعید احمد جلال پوری





قاری شریف احمد


محترم المقام جناب مولانا محمد ایوب الرحمن صاحب زید مجدکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

چند روز ہوئے جناب کی طرف سے قبلہ والد صاحب رحمہ اللہ کے یادگار
9 رسائل کا پارسل پہنچا۔ موسمی تغیرات کی وجہ سے طبیعت مضمحل تھی جس کی وجہ
سے فوری جواب نہ دے سکا، حتیٰ کہ جناب کا جوابی لفافہ پہنچ گیا۔ یہ جوابی لفافہ کی
وجہ سمجھ میں نہیں آئی کہ جناب نے یہ تکلیف کیوں فرمائی میرے لئے یہ عزت افزائی
کیا کم تھی جناب نے یاد رکھا اور رسائل کا تحفہ بھیج کر ممنون فرمایا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ
جس طرح رسائل بھیج کر جناب نے گنہگار کو یاد رکھنے کا ثبوت دیا مجھے
امید ہے دعاؤں میں بھی نہ بھولینگے۔ چونکہ جوابی لفافہ بھیجنا خلاف قاعدہ ہے اس
لئے بصد شکر یہ اس کی واپسی قبول فرمائیے۔ والسلام

نیاز مند

قاری شریف احمد غفرلہ

27 اگست 1975ء



غلام حبیب نقشبندی

دارالعلوم حنفیہ عکبرال ضلع بہم مغربی پاکستان

باسمہ الکریم

23-08-77

محترم المقام حضرت مولانا صاحب زید مجدکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
مکتوب گرامی شرف صدور لایا، باعث دعاء و ترقی محبت ہوا۔ جزاک اللہ

خیر الجزاء

اب بندہ اللہ کے فضل و کرم سے صحت یاب ہو چکا ہے۔ آخری شعبان کو
راولپنڈی ڈاکٹر کے پاس گیا تھا اُس نے بہت تسلی دی ہے، گو دوا جاری رکھنے کی تاکید
کی ہے اور روزہ سے سختی سے منع کیا ہے کہ ابھی آپ اس کے متحمل نہیں ہیں اور تراویح
بھی بیٹھ کر پڑھنے کو کہا ہے، مجبوراً ایسا ہی کر رہا ہوں۔ دعا فرمانا کہ کہیں خدائی گرفت اور
مواذخہ میں نہ آجاؤں۔ ہو سکے تو مجھے بہت جلد اس کا فتویٰ تحریر فرمادیں کہ آیا کہ ایسا
کرتا رہوں یا روزہ رکھنا شروع کر دوں؟

امید ہے کہ قلبی محور پر اللہ اللہ اللہ بروقت کر رہے ہوں گے اور مراقبہ بھی۔ یہ
مبارک ایام اصلاح نفس کے لئے بہت مفید ہیں۔ اور یہ دونوں چیزیں اصلاح باطن
کے لئے بہت مجرب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعمال مرضیہ کی توفیق دے اور جانشین
رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائے۔ دعا گو کو دعاؤں میں ہمیشہ یاد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں
میں برکت عطاء فرمائے۔ آمین

عبدالرحمن قاسمی السلام علیکم عرض کر رہا ہے۔ گھر میں دعوات صاحبزادگان کو

پیار..... والسلام مع الکرام

غلام حبیب عفی عنہ

مکتوب حضرت مولانا محمد ایوب ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ

(خلیفہ حضرت مولانا عبدالمالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ خانیوال)

محمد ایوب مجددی ہاشمی ازدھستور (ایبٹ آباد)

باسمہ الکریم

عزیزی عزیز القدر مولوی محمد ایوب الرحمن انوری صاحب زیدت معارفہم
السلام علیکم وعلیٰ من لدکم!

یاد آوری کا شکریہ۔ ذکر اللہ حسب معمول و معلوم یعنی اسم ذات کو زبان
خیال لطیفہ قلب سے شروع کریں سانس وغیرہ کا استعمال قطعاً نہ کیا جائے سانس
اپنے معمول پر رہے ایک گھنٹہ تک اس ذکر پر روزانہ کی مداومت رکھیں۔ خیر العمل
مادیم علیہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اصل مقصود ذکر اللہ ہے لہذا فَاذْكُرُونِيْ
حسب معمول عمل کریں امید ہے کہ اَذْكُرْكُمْ کا ترتیب بھی شروع ہو جائے گا
انبساط اور انقباض کو مقصود نہ بنایا جائے وَاللّٰهُ يَغْبِطُ وَيَبْسُطُ کو پیش نظر رکھیں
تاکہ وَالْيَهْ تُرْجَعُونَ یعنی رجوع الی اللہ اور مقام انابت نصیب ہو۔ شعر از دروں
شنو آشناباش وز برون بیگانہ دش ایں چنین زیاروشن کم یسود اندر جہاں۔ دست بکار
یعنی اعمال بطریقہ سنت سنّیہ ودل بیارجس کا حاصل احلاص ہے اَعْبُدْ رَبَّكَ
کانک تراہ کی حقیقت یہی اخلاص ہے۔

ذکر اللہ کی تلقین و تعلیم کی جو آپ کو اجازت دی گئی اس میں بعض چیزیں
قلم نہیں سمجھا سکتی، بالمشافہہ بشرط التلاقی عرض کر دی جائیگی۔ فقط والسلام
آپ کے برادران و جملہ دوستوں کو احقر کی طرف سے سلام عرض ہے۔
(نوٹ): آپ کے رویائے صالحہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا سیر و سلوک مرادی
ہے یعنی نسبت محبوبیت غالب ہے کہ مدینہ منورہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب
العالمین کی آرمگاہ ہے۔ اللّٰهُمَّ زِدْ فِرْدُ

مکتوب حضرت مولانا عبدالجلیل قادری رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ

(1)

برادرِ مکرم مولانا مولوی محمد ایوب الرحمن صاحب مدظلہ

از احقر عبدالجلیل

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

طالب خیریت بخیریت ہے خط ملاحال معلوم ہوا احقر کو چار ماہ سے کمر میں تکلیف ہے پہلے ڈاکٹر کہتے رہے کہ کمر کا مہرہ دب گیا ہے اب کہ ان کی رائے یہ ہے کہ ہڈیوں کی ٹی ٹی بی ہے رائے ونڈ سے عبدالوہاب دو ڈاکٹر لائے ان کا علاج چل رہا ہے۔ آپ بھی دعا کریں آپ اول سات دن غسل کر کے دو رکعت نماز بہ نیت توبہ پڑھیں پھر تین سو ساٹھ دفع **يَا تَوَّابُ** پڑھ کر مغفرت طلب کریں اور اس کے بعد ذکر شروع کر دیں جو نہ تو زیادہ اونچا ہو اور نہ ہی زیادہ شد و مد کے ساتھ ہو۔ کلمہ طیبہ کے لا کوناف سے داہنے کندھے تک لے جاویں پھر الہ کو بائیں طرف کندھے پر لاویں اور اوپر کی جانب ہ کو لمبا کریں اور ذرا دیر کے لیے ٹھہریں اور الا اللہ کی ضرب دل پر لگاویں سب چیز کی نفی کریں صرف مالک کی ذات کا اثبات کریں یہ گیارہ سو دفعہ پڑھنا ہے پھر اسم ذات کو اللہ کہہ کر اوپر لے جاویں اور نیچے لا کر ختم کریں۔ شروع بھی دل سے کرنا ہے اور ختم بھی دل پر کرنا ہے چار ہزار دفعہ پڑھ لیا کریں اور اپنے بدن کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جایا کریں اور تصور کریں کہ میرے سارے بدن میں سے اللہ اللہ کی آواز آرہی ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں۔ اس کو آدھ گھنٹہ کر لیں اور پختہ کرنے کی کوشش کریں۔ احقر بھی ہر طرح سے دعا گو ہے اور گھر میں سب خیریت ہے۔ والسلام

دعا گو

عبدالجلیل 13 جون از ڈھڈیاں

(یہ خط 13 جون 2000ء کا ہے)

(2)

عزیز گرامی قدر مولوی محمد ایوب الرحمن صاحب سلمہ

از احقر عبدالجلیل

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

خط ملا حال معلوم ہوا احقر اسی طرح سے بیمار چل رہا ہے ٹی بی کی دوائی نو ماہ سے کھا رہا ہوں اجازت کا سلسلہ اصولی طور سے اور حضرات کے طرز عمل سے یہ نہیں ہے۔ حضرت مدنی اپنے بیٹوں کو اجازت نہیں دے کر گئے تھے مولوی سعید الرحمن کے لیے میں نے حضرت شیخ الحدیث صاحب سے بہت عرض کیا مگر انہوں نے ان کو اجازت نہیں دی تھی۔ آپ کے والد صاحب کے احقر پر بہت احسان ہیں اس لیے تو کلا علی اللہ آپ کو بیعت کی اجازت دیتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ آپ ذکر نفی اثبات گیارہ تسبیح اور اسم ذات چار ہزار باقاعدہ کرتے رہیں اور کم از کم آدھ گھنٹہ مراقبہ دعائیہ کیا کریں کہ آنکھ بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہو کر خیال سے دعا کرتے رہیں۔ زبان کو بند رکھیں اور خیال سے مالک الملک سے دعا مانگا کریں۔ اور اتنے عرصہ اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرتے رہیں۔ اور برے اخلاق کو اپنے اندر سے نکالتے رہا کریں ہمہ تن یکسو ہو جائیں سب کے ساتھ تواضع سے پیش آیا کریں۔ تکبر اور غصہ سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔

احقر بھی دعا کرتا ہے آپ بھی میرے لیے خوب دعا کیا کریں۔ والسلام

دعا گو

عبدالجلیل

17 فروری 2001ء

مکتوب حضرت مولانا عزیز الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ

بنام حضرت مولانا ایوب الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ

برادر عزیز مولوی ایوب الرحمن سلمہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

یہاں الحمد للہ سب خیریت ہے خدا کرے تم بھی خیریت سے رہو۔ تمہارے گھر میں بھی خیریت ہے بچے خوش و خرم ہیں۔ تم نے جو مسجد بنائی ہے سنا ہے ویران پڑی ہے اور بے یار و مددگار ہے۔ ایک آدمی ملا ہے اگر تمہارا خیال ہو تو اس کو مقرر کر دیں۔ نمازیں اور بچوں کو پڑھا دیا کرے گا۔ اور یہ بھی مفصل لکھیں کہ کس کے سپرد کام ہے۔ میں نے تو جگہ بھی نہیں دیکھی۔

خلیل الرحمن خیر المدارس سے فارغ ہو گیا ہے اور اب نیوٹاؤن میں تفصص فی الفقہ والتبلیغ میں داخلہ لینا ہے۔ ساتھ ہو کر کام کرادیں اور خیال بھی رکھیں۔ میں بھی ان شاء اللہ آؤں گا۔ والسلام

احقر عزیز الرحمن انوری

مکتوب حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ

بنام حضرت مولانا محمد ایوب الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ

مکرمی! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مولانا مودودی اپنی ذات کے اچھے ہیں مگر مسائل شرعیہ میں اُن کا علم ناقص ہے۔ اس لئے مسائل میں اُن کا اتباع بغیر علماء و محققین سے دریافت کئے نہ کیا جائے۔ والسلام

ظفر احمد عثمانی

۴ ذوالحجہ ۱۳۸۶ھ

(16 مارچ 1967ء بروز جمعرات)

مکتوب حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

جناب سید محمد معروف صاحب حاجی

السلام علیکم!

حامل عریضہ ہذا مولانا ایوب الرحمن صاحب دام مجدہم کو شرح طحاوی دے دی جائے جس قدر رعایت سے دے سکیں بہتر ہے۔

محمد عاشق الہی

یکم صفر ۱۳۹۹ھ

مکتوب بنام عمران فاروق

از محمد ایوب الرحمن انوری قادری

محترم المقام جناب عمران فاروق صاحب سلبکم اللہ تعالیٰ

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

احقر الحمد للہ بخیریت ہے خدا کرے آپ سب حضرات اسی طرح سے بخیریت ہوں احقر دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین ثم آمین۔ آپ کا محبت نامہ ۲ دن قبل ۱۲ شعبان ۱۴۲۳ھ، 9 اکتوبر 2003ء کو ملا جس میں صرف جمادی الثانی درج تھا تاریخ درج نہ تھی نہ معلوم یہ خط کہاں پھرتا رہا۔ حالات سے آگاہی ہوئی۔

برابر دعا جاری رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین آپ نے جو کیٹیں ہمیں دی تھیں وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی کاپی آپ کو مل جائے گی بلکہ مزید دو کیسٹ اور مل جائے گی۔ بچی کے تولد سے خوش ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو نیک صالحہ حافظہ قاریہ عالمہ اور آپ کی آنکھوں ٹھنڈک بنائے آمین اس کے نصیب اچھے کرے۔ آمین ثم آمین

ام الصبیان کے تعویذ کی آپ کو عام اجازت ہے۔ ام الصبیان کا تعویذ

درج ہے:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ
عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ اِشْرَاهِيَا
بِحَقِّ يَابَدُوْحٍ بِحَكْمِ خَدَا بِطَفِيْلِ رَسُوْلِ-

چالیس دن کے بعد جو دوسرا تعویذ دینا ہے اس میں اصحاب کہف کے نام لکھ دیں بہشتی زیور سے دیکھ لیں یہ تعویذ پہننے کے لیے ہمیشہ بچے کے گلے میں رہے گا۔ ڈھڈیاں شریف جانا اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک فرمائے۔

درود شریف کی مجالس سے بہت خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے مزید ہمت و توفیق عطا فرمائے آمین، مزید مجالس ذکر سے بہت خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضیات سے نوازے۔ آمین ثم آمین

ملفوظات حضرت رائے پوری آپ کو ان شاء اللہ مل جائیں گے۔ حضرت والد صاحب کے خطوط ابھی تک احقر کو نہ مل سکے ان شاء اللہ مل جائیں گے۔ حضرت والد صاحب کے وظائف و عملیات کی آپ کو مکمل اجازت ہے احقر کی طرف سے والد صاحب والدہ صاحبہ اور تمام اہل خانہ اور تمام دوست و احباب کو سلام مسنون اور سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ بچی کو اللہ تعالیٰ طویل العمر عابدہ زاہدہ بنائے آمین یہ خط تمام دوست و احباب کو دکھادیں۔ والسلام

آپ کا بھائی محمد ایوب الرحمن انوری قادری عفا اللہ عنہ

۱۴ شعبان ۱۴۲۴ھ - 11 اکتوبر 2003ء شنبہ

راشد بچہ سلام لکھوار ہا ہے۔ والسلام

عبارت اجازت حدیث

باسمہ سبحانہ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم و علی آلہ و صحبہ

و متبعیہ الی یوم القیامۃ اجمعین اما بعد!

روایات حدیث کی اجازت جو مجھے حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی

اسانید کی رو سے حاصل ہے اور مولانا حیدر علی شاہ صاحب تلمیذ حضرت شیخ الہند محمود

حسن رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے حاصل ہے۔

میں مولانا محمد ایوب الرحمن کو اجازت روایت دیتا ہوں۔

وفقنا اللہ وایاہ لہا یحب ویرضی۔

نقط

سلمان احمد بن مولانا السید محمد اظہار الحق سہیل

المرقوم ۲۷ شعبان ۱۴۱۵ھ، 29 جنوری 1995ء یکشنبہ

<p>سنہ وفات بمطابق ہجری و عیسوی حضرت مولانا محمد ایوب الرحمن انوری نور اللہ مرقدہ</p>	
<p>(۱) ولی ابن ولی محبوب اہل صدق و وفا اک دیا اور بجھا وہ ہم سے ہوا جدا خدا رحمت کنڈایں عا شقانِ پاک طینت را مرقد جو دیکھی میں نے ہے باغِ خوش نما ۲۰۱۵ء</p>	
<p>(۲) رب سے ہی مانگو ہر شے اور اُسی سے وفا کرو اس جہاں فانی میں ہر دم اللہ کا شکر ادا کرو احباب خیر خواہ سے ہے ایک دلی التجا ۱۴۳۶ھ غفلت سے جاگو اور خدا خدا کرو ۱۴۳۶ھ</p>	
<p>(۳) لکھنے لگا جو سنہ وفات حضرت ایوب الرحمنؑ دل سے آئی آواز حضرت سلطان العارفين ۲۰۱۵ء</p>	
<p>(۴) خوب سن غور سے اور دیکھ بصیرت قلب سے سکوں پاتے ہیں دل جب ہوتا ہے ذکرِ معشوق ۱۴۳۶ھ</p>	

نتیجہ فکر: ابو حذیفہ عمران فاروق غفرلہ

۲۸ ذی الحجہ ۱۴۳۸ھ 20 ستمبر 2017ء

بروز بدھ

وظائف

از حضرت مولانا ایوب الرحمن انوری

حاکم و افسر پر غلبہ پانے اور دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے:

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ۔

بلا تعداد دشمن کے تصور سے پڑھے۔

اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ۔

عشاء کے بعد 41 مرتبہ دشمن کے تصور سے پڑھیں۔

سخت مشکلات کے لیے:

رات کو چھت پر یا صحن میں ننگے سر جائے نماز پر بیٹھ کر پڑھیں۔

إِلٰهِیْ أَحَدِیْ صَمَدِیْ مِنْ عِنْدِکَ مَدَدِیْ۔

11 تسبیح عشاء کے بعد زیادہ سے زیادہ 41 دن اور کم از کم 21 دن۔

اور اول و آخر 11 مرتبہ نماز والا دُرود شریف پڑھے۔

میاں بیوی میں اختلاف ہو:

چھٹے پارے کی پہلی آیت ”لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوِّءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا

مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا“ اس تصور سے پڑے کہ میرا ساتھی میری

طرف آرہا ہے۔ محبت کے لیے 700 مرتبہ، اول و آخر دُرود شریف۔

اعمال میں غفلت و سستی کو دور کرنے کا عمل:

بعد آدھی رات کو یا تہجد کے لیے اٹھے غسل کرے نئے یادھلے ہوئے

کپڑے پہنے اور نوافل (کم از کم) دو پڑھے۔ پھر توبہ کی نیت سے دو غسل ادا

کرے ”يَا تَوَّابُ“ 360 بار پڑھے اور دعا کرے۔

ہر مشکل سے نجات کے لیے:

”يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ“

دو نفل پڑھ کر عشاء کے بعد 5 یا 3 تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد دعا کریں۔ کسی ناجائز کام کے لیے نہ پڑھے۔

برائے دفع شر حاسدین و دشمنان، دفع اثر جن و جادو

پلاسٹک کور کر کے پاس رکھیں اور دفع جن و جادو میں عین اللہ پر نظر جما کر دیکھیں کچھ دیر تک روزانہ یہ تعویذ تہہ نہ کریں۔

با اجازت و عنایت از حضرت مولانا قاضی زاہد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ (اتک)



عكس تحریر حضرت مولانا محمد ایوب الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ

القصيد المجدیه

مُجَدِّدٌ مَنْ يَمْشِي عَلَى قَدَمِ	مُجَدِّدٌ اشْرَفَ الْأَعْرَابِ وَالنَّجْمِ
مُجَدِّدٌ صَادِقُ الْأَقْسَانِ وَاللَّسَمِ	مُجَدِّدٌ بَاسِطُ الْمُتَوَكِّفِ جَانِحِ
مُجَدِّدٌ صَادِقُ الْأَقْوَالِ وَالْكَلِمِ	مُجَدِّدٌ نَاجٍ رُسُلِ اللَّهِ قَاطِبِهِ
مُجَدِّدٌ طَيِّبُ الْأَفْئِدَةِ وَالنَّيْمِ	مُجَدِّدٌ تَابِتُ الْإِشْقَاقِ قَاطِبِهِ
مُجَدِّدٌ لَمْ يَنْزِلْ نُورًا مِنْ الْفَوْقِ	مُجَدِّدٌ صَيِّتُ النَّوْرِ طَيِّبَتِهِ
مُجَدِّدٌ يَحْدِنُ الْأَتْعَامِ وَالْحِكْمِ	مُجَدِّدٌ فَالِكُمْ بِالْعَدْلِ زِدْ شَرَفِ
مُجَدِّدٌ خَيْرُ رُسُلِ اللَّهِ كُلِّهِمْ	مُجَدِّدٌ فَخْرُ ظَلَمِ اللَّهِ مِنْ مَقَرِ
مُجَدِّدٌ مُجَلِّدٌ حَقًّا عَلَى عِلْمِ	مُجَدِّدٌ دِينُهُ حَقٌّ نَوَابِغِهِ
مُجَدِّدٌ سَلَّمَ فَرَضَ عَلَى الْأَكْمِيمِ	مُجَدِّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِأَلْفِينَا
مُجَدِّدٌ كَاشَفُ الْعَمَامِ وَالظُّلَمِ	مُجَدِّدٌ زَيْنُهُ الدُّنْيَا وَبَهْجَتُهَا
مُجَدِّدٌ صَاحِبُ الرَّحْمَنِ بِالنَّجْمِ	مُجَدِّدٌ سَيِّدُ طَابِتِ سَاقِبِهِ
مُجَدِّدٌ طَاهِرٌ وَسَائِرُ النَّهْمِ	مُجَدِّدٌ صَفْوَةُ الْبَارِي وَذِكْرُهُ
مُجَدِّدٌ بَاقِيَةٌ وَاللَّهُ لَمْ يُفْسِدِ	مُجَدِّدٌ مَا مَكَ لِلضَّعْفِ مَكْرَمُهُ
مُجَدِّدٌ بَاقِيَةٌ بِالْآيَاتِ وَالْحِكْمِ	مُجَدِّدٌ طَابِتُ الدُّنْيَا بِعَقْبَتِهِ
مُجَدِّدٌ نُورُهُ الْعَمَامِينَ الظُّلَمِ	مُجَدِّدٌ يَوْمَ بَعَثَ النَّاسِ شَافِعَنَا
مُجَدِّدٌ فَالِكُمْ لِلرَّسُولِ كُلِّهِمْ	مُجَدِّدٌ فَالِكُمْ لِلَّهِ دُورُهُمْ

تبصرے

حیات انوری کے پہلے ایڈیشن پر جن دینی رسائل میں تبصرے شائع ہوئے انہیں یہاں شامل کیا جا رہا ہے۔
ماہنامہ البلاغ، (تبصرہ نگار: ابو معاذ):

حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1901ء میں اور وفات 1970ء میں ہوئی، آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مرید باصفا، خادم خاص اور خلیفہ مجاز تھے، امام العصر علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ رشید اور خلیفہ مجاز تھے۔ اسی نسبت سے ”انوری“ کہلائے، نیز مرشد العلماء حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خلیفہ خاص تھے، آپ اتنی بڑی بڑی نسبتوں کے امین تھے مگر اب تک حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی باقاعدہ سوانح مرتب نہیں ہوئی تھی۔

اب آپ کے پوتے جناب صاحبزادہ محمد راشد انوری صاحب کی تحریک پر ڈاکٹر ابو حذیفہ عمران فاروق صاحب نے ”حیات انوری“ کے نام سے زیر نظر کتاب مرتب فرمائی ہے، جس میں حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات، افادات، ارشادات و واقعات، مکاتیب، وظائف و عملیات تفصیل کے ساتھ درج فرمائے ہیں۔ نیز حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد ایوب الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بھی تحریر کیے ہیں۔

حضرت مولانا محمد ایوب الرحمن صاحب نے اپنی حیات میں بہت سے اکابر علماء کرام اور بزرگان دین سے ملاقاتیں کی تھیں۔ ان سب ملاقاتوں کا حال انہوں نے خود اپنے قلم سے تحریر کر دیا تھا۔ یہ سب حالات بھی اس کتاب میں شامل کر دیئے گئے ہیں، جس کی وجہ سے کتاب کافی جامع ہو گئی ہے۔

کتاب کا مطالعہ کرنے سے علمی و عملی فائدہ محسوس ہوتا ہے، یقیناً یہ ایک

عمدہ ”تذکرہ“ ہے جس کا مطالعہ عام و خاص دونوں طبقوں کے لیے بہت مفید ہے۔
جمادی الاول ۱۴۴۰ھ فروری 2019ء

ماہنامہ بینات (تبصرہ نگار: مولانا اعجاز مصطفیٰ):

بزرگوں کی سوانح، ملفوظات وارشادات، اُن کی سیرت و کردار اگلی نسلوں کے لیے نمونہ اور مشعلِ راہ ہوتے ہیں، بعد والوں کو ان میں بہت کچھ پڑھنے اور سیکھنے کو ملتا ہے، جن کو محفوظ اور شائع کرنا ان کے متعلقین، اولاد و احفاد اور شاگردوں پر ایک حق ہوتا ہے، زیر تبصرہ کتاب میں اسی حق کو ادا کیا گیا ہے، چنانچہ اس مجموعہ میں حضرت شیخ الہند محمود حسن قدس سرہ کے خادم خاص و خلیفہ مجاز، حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے تلمیذ رشید اور حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمہ اللہ کے اجل خلیفہ حضرت مولانا محمد انوری لائلپوری نور اللہ مرقدہ (متوفی: ۱۹۷۰ء) کی سوانح، ارشادات اور مکتوبات کو جمع و مرتب کیا گیا ہے، اس جمع و ترتیب کی سعادت ابو حذیفہ عمران فاروق صاحب کو حاصل ہوئی ہے۔ حضرت کے پوتے جناب محمد راشد صاحب نے اس پر حواشی کا کام کیا ہے۔

کتاب میں حضرت کا خاندانی شجرہ نسب، حصولِ علم، بیعت و خلافت، اساتذہ، تلامذہ، خلفاء، ہم عصر علماء و مشائخ، مکتوبات، ارشادات و واقعات، تصنیفات، وظائف و عملیات، شجراتِ طریقت وغیرہ جیسے مرکزی عناوین کے تحت کافی مواد جمع کیا گیا ہے۔ کتاب کے آخر میں حضرت ﷺ کی سندات اور تحریرات کا عکس بھی دیا گیا ہے۔ کتاب کا کاغذ، ٹائٹل، جلد بندی اور کمپوزنگ وغیرہ معیاری ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کتاب کو قارئین کے لیے مفید بنائے اور حضرت ﷺ اور اُن کے متعلقین و مرتبین کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین

رمضان ۱۴۳۹ھ جون 2018ء

ماہنامہ الحقانیہ، (تبصرہ نگار: مولانا عبدالصمد ساجد):

حضرت مولانا محمد انوری لائل پوری قدس سرہ ہمارے ان اکابر و مشائخ میں سے تھے جن کی حیاتِ طیبہ اور ملفوظات و ارشادات اور حالات و واقعات امت کے لیے راہنما اصول کی حیثیت رکھتی ہے، یادگار اسلاف اور اکابر کے خوشہ چین کا لفظ ان کی شخصیت پر بالکل درست اور صادق آتا ہے، حضرت شیخ الہند اور حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمہما اللہ سے ارادت و بیعت کا خصوصی تعلق رہا۔ یقیناً وہ انفرادی امت اور اساطینِ علم و فضل میں سے تھے، اب تک حضرت انوری رحمہ اللہ کی کوئی سوانح سامنے نہیں آئی تھی، حضرت ہی کے نبیرہ جناب صاحبزادہ محمد ارشد انوری سلمہ نے ابو حذیفہ عمران فاروق صاحب زید مجدہ سے آپ کے احوال و آثار پر مشتمل یہ سوانح تحریر کروائی اور اسے مرتب و محشی کر کے عمدہ انداز میں شائع کیا ہے۔

اس کتاب مفید میں حضرت انوری رحمہ اللہ کے از ولادت تا وفات حالات، ارشادات و واقعات، تصانیف، مشہور تلامذہ، خلفاء و مجازین، مختصر حالات خلفاء و مجازین، ہم عصر علماء و مشائخ، مکتوبات اکابر مع عکس، وظائف و عملیات نیز آخر میں آپ کے صاحبزادہ مولانا محمد ایوب الرحمن انوری رحمہ اللہ کے مختصر حالات شامل ہیں۔

حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہم اور دیگر حضرات علماء و مشائخ نے اس اہم کارنامہ کی تحسین و تشجیع فرمائی ہے، یہ محض کتابوں کی دنیا میں ایک اضافہ نہیں بلکہ اکابر کے حالات و واقعات اور علوم و معارف کو محفوظ رکھنے کا عظیم کارنامہ ہے۔

یہ کتاب ہر صاحبِ ذوق اور ہر کتب خانہ کی ضرورت ہے، امید ہے

احباب قدر فرمائیں گے۔

ذیقعدہ، ذوالحجہ ۱۴۳۹ھ، جولائی اگست 2018ء

ماہنامہ الخیر، (تبصرہ نگار: مولانا محمد ازہر):

حضرت مولانا محمد انوری لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ان اکابر میں سے تھے جن کی بلند نسبتوں پر رشک کیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہمہ صفت موصوف شخصیت سے آپ کا ارادت کا تعلق تھا، امام العصر علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے عبقری الصفات عالم سے تلمذ کا رشتہ تھا، اور حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے فانی فی اللہ باقی باللہ شیخ کے آپ خلیفہ اجل تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نبیرہ محترم صاحبزادہ محمد راشد انوری کی تحریک و تحریض پر محترم جناب ابو حذیفہ عمران فاروق صاحب نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح تالیف فرما کر سوانح خوانی کا ذوق رکھنے والے حضرات پر احسان کیا ہے۔ اس کتاب میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سوانحی احوال کے علاوہ متعدد اکابر کے خطوط و عکوس تحریر بھی مندرج ہیں نیز شجرہ ہائے طریقت اور وظائف و عملیات بھی زینت کتاب ہیں۔ علاوہ ازیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا محمد ایوب الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ کی اکابر علماء و مشائخ سے ملاقاتوں کے احوال پر مشتمل یادداشتیں اس کتاب کی عظمت و افادیت کو چار چاند لگا رہی ہیں۔

ذیقعدہ ۱۴۳۹ھ اگست 2018ء

ماہنامہ نقیب ختم نبوت، (تبصرہ نگار: صبیح ہمدانی):

قطب العالم حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری قدس اللہ سرہ ماضی قریب میں سلسلہ قادریہ و چشتیہ صابریہ کے عظیم المرتبت مربی اور شیخ طریقت تھے۔ حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہ کے انفاس شریفہ سے اس خطے میں بے تحاشا ربانی فیوض کا ظہور ہوا۔ ایک عظیم خلقت نے آپ کے دہن مبارک سے اللہ کا پاک

نام سیکھا اور دین و دنیا کی کامیابیوں کے حقدار ہو گئے۔ عوام الناس کے ساتھ ساتھ حضرت رائے پوری کے دستِ اقدس پر اہل فضل و علم کی بھی ایک بڑی تعداد کو اخذِ فیض و استفادہ کی سعادت نصیب ہوئی۔ زیرِ نظر کتاب جن گرامی منزلت بزرگ کے سوانح پر مشتمل ہے وہ بھی حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری قدس سرہ کی بارگاہ کے وابستگان میں سے تھے بلکہ ان وابستہ مشائخ کی جماعت میں بھی نمایاں اور منفرد شان کے حامل تھے۔ آپ کا اسم گرامی حضرت مولانا محمد انوری لائل پوری نور اللہ مرقدہ ہے۔

حضرت مولانا محمد انوری بلند پایہ علمی و عملی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت رائے پوری کی مجلسِ رشد و ہدایت سے جڑنے سے پہلے وہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن عثمانی دیوبندی، اور حضرت خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری قدس اللہ سرہما سے علمی و روحانی طور پر فیض یاب ہو چکے تھے۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب سے ہی عقیدت و محبت کی بنیاد پر انہوں نے اپنے نام میں انوری کے لفظ کا اضافہ کیا۔ وہ عمر بھر ان اولوالعزم مشائخ کے علوم و معارف کے مسین رہے۔ خود حضرت رائے پوری کی بابرکت مجلس میں مختلف موضوعات پر حضرت مولانا محمد انوری سے تقاضا کیا جاتا تھا کہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کی کوئی تفسیرِ ذہن میں ہو تو بتلائیے اور وہ خوب ضبط و اتقان کے ساتھ حضرت کشمیری یا حضرت شیخ الہند کے افادات کو نشر کرتے اور اپنے پیر طریقت کی داد کے مستحق بنتے۔

زیر تبصرہ کتاب انھی حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ کے احوال و آثار کا مجموعہ ہے۔ کتاب بنیادی طور پر تین بنیادی حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ پہلا حصہ حضرت مولانا محمد انوری کے سوانح و مقامات پر مشتمل ہے، دوسرے حصے میں اکابر و اعظم کے مختلف مکتوبات کو جمع کیا گیا ہے جبکہ تیسرے حصے میں حضرت مولانا محمد

انوری کے فرزندِ ارجمند مولانا محمد ایوب الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ کے احوال و آثار اور ملفوظات وغیرہ یکجا کیے گئے ہیں۔

ایسی مبارک ہستیتوں کے احوال و آثار کو پڑھنے اور ان سے مستفید ہونے کا موقع ملنا بجائے خود ایک بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے مؤلف و مرتب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

کتاب عمدہ کاغذ پر شائع کی گئی ہے، پروف خوانی اور طباعت کا معیار بھی قابلِ داد ہے، اگرچہ عربی و فارسی عبارات اور ان کے ترجموں کے حوالے سے نظر ثانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔

محرم الحرام ۱۴۳۹ھ، ستمبر 2018ء

ماہنامہ الاحرار، (تبصرہ نگار: ابو شراحیل):

برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں ہمارے اکابر علماء و مشائخ کے سلسلۃ الذہب میں جن شخصیات کو غیر معمولی فیضِ رسانی، تبلیغ، تعلیم و تزکیہ کے باب میں لافانی شہرت حاصل ہوئی ہے ان میں حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری قدس سرہ کا نام نامی شامل ہے۔ آپ کی کرشماتی و نورانی صحبت سے فیض یافتہ ہزاروں علمی شخصیات معروف ہوئیں، جو اپنی جگہ باصفا مرشد کی تعلیم و تربیت کا عکس جمیل تھی۔ صالحین کی اس بامراد جماعت کے ایک رکنِ تبحر عالم دین، راہ سلوک میں شیخِ وقت، خادمِ خاص و خلیفہِ مجاز حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن نور اللہ مرقدہ تلمیذِ امام العصر حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہِ مجاز حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، استاذ الحدیث حضرت مولانا محمد انوری لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کی دینی، علمی اور روحانی خدمات کے واقعات متفرق کتابوں میں بہت اختصار کے ساتھ درج ہیں تاہم اگر انہیں مربوط و مجتمع انداز میں جمع کر دیا جاتا تو وابستگار راہ

سلوک اور تشنگانِ علوم کے لیے بہت نفع بخش ثابت ہوتے، یہ ضرورت ایک عرصہ سے موجود تھی۔ تاہم اب ”حیاتِ انوری“ کے عنوان سے ایک کتاب مرتب ہو کر سامنے آگئی ہے۔ برادر محترم جناب ابو حذیفہ عمران فاروق صاحب نے حضرت مولانا محمد انوری نور اللہ مرقدہ کے سوانح، آپ کی خدمات اور اکابر علماء سے علمی و روحانی نسبتوں کا تفصیلی ذکر جمع کر دیا ہے۔ یہ کتاب یقیناً اہل ذوق کے لیے ایک شاندار تحفہ ہے جس کے لیے محترم ابو حذیفہ عمران فاروق صاحب قابلِ صدمبار کباد ہیں۔ کتاب میں مذکورہ واقعات کے ساتھ حضرت کے پوتے محمد راشد انوری صاحب نے واقعاتی تطبیق کے لیے جو حاشیے منسلک کیے ہیں وہ نہ صرف معلومات میں اضافے کا باعث ہیں بلکہ مذکورہ واقعات کی نسبت سمجھنے کے لیے بھی بے حد معاون ہیں، کتاب کا مقدمہ یادگار اسلاف حضرت مولانا مجاہد الحسینی مدظلہ نے تحریر فرمایا ہے جو اپنی جگہ خاص ہے۔ اکابر علماء و صلحاء کے سوانح پڑھنے کا ذوق و شوق رکھنے والوں کے لیے یہ کتاب ایک بزرگ کے توسط سے کئی بزرگ شخصیات کا تعارف پیش کرتی ہے۔ امید ہے اہل ذوق اس کتاب کے مطالعہ سے محروم نہ رہیں گے۔

شعبان ۱۴۴۰ھ، اپریل 2019ء

ماہنامہ ”صلو علیہ وآلہ“ (تبصرہ نگار: مفتی نوید ظفر الحسینی):

بِسْمِہِ تَعَالٰی

حَامِدًا وَ مُصَلِّيًا وَ مُسَلِّمًا۔ اَمَّا بَعْدُ!

”حضرت اقدس مولانا محمد انوری لائل پوری قدس سرہ العزیز“

حضرت امام ربانی حضرت گنگوہی قدس سرہ کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا مفتی الدین رشیدی قدس سرہ کے لختِ جگر تھے اور حضرت شیخ الہند قدس سرہ کے خادم و خلیفہ مجاز

ہونے کا شرف بھی رکھتے تھے۔ حضرت انوری قدس سرہ کے مبارک خاندان میں اور بھی کئی نامور حضرات گزرے ہیں مگر حضرت انوری قدس سرہ کا مقام سب سے الگ ہے۔

”حضرت انوری قدس سرہ“ امام العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری قدس سرہ کے اخص تلامذہ اور منظوری نظر حضرات میں ایک بڑا نام ہے۔ حضرت انوری قدس سرہ کو حضرت کشمیری قدس اللہ سرہ العزیز سے اجازت و حلافت بھی حاصل تھی۔ حضرت انوری قدس سرہ کو امام العصر حضرت کشمیری قدس سرہ کے علوم و معارف کا انسائیکلو پیڈیا کہا جاسکتا ہے جیسا کہ حضرت اقدس رائے پوری قدس سرہ کی مجالس مبارکہ میں اور بعض دیگر مواقع پر اس کا اظہار ہوا۔ اسی طرح حضرت انوری قدس سرہ کا شمار قطب الارشاد حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری قدس سرہ کے اجل خلفاء اور اخص متعلقین میں ہوتا ہے۔

حضرت انوری قدس سرہ اکابر علمائے دیوبند قدس اللہ سرہ ہم کے ذوق، فکر، علمی و روحانی اور سیاسی مزاج کی چسپلی پھرتی تصویر تھے۔ ضروری تھا کہ ان کی مبارک حیات کے ماہ و سال کو قلم و قراطس کے حوالے کیا جائے اور ان کے اساتذہ، مشائخ، تلامذہ و خلفاء کا تذکرہ اور حضرت انوری قدس سرہ کی تحسیری و تقریری خدمات کو سامنے لایا جائے۔

”حیاتِ انوری“ حضرت اقدس مولانا محمد انوری قدس سرہ کی سوانح حیات ہے۔ جو کہ حضرت انوری ثانی مولانا محمد ایوب الرحمن انوری قدس سرہ کے فرزند عزیزم جناب محمد راشد انوری زید مجدہ کی تحریک و معاونت سے حضرت انوری ثانی قدس سرہ کے خلیفہ مجاز عزیزم ڈاکٹر عمران فاروق زید مجدہ نے مرتب فرمائی ہے۔ دونوں حضرات خصوصیت سے اور باقی تمام معاونین بھی مبارکباد اور سپاس

کے مستحق ہیں، کیونکہ ایک عرصہ سے اہل ذوق حضرت انوری قدس سرہ کی سوانح کے منتظر تھے۔

دیدہ زیب ٹائٹل اور عمدہ کاغذ کی اس ۳۱۴ صفحات کی سوانح کی اشاعت کے بعد ان حضرات نے حضرت انوری قدس سرہ، ان کے والد گرامی حضرت مولانا فتح الدین رشیدی قدس سرہ اور حضرت انوری قدس سرہ کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد ایوب الرحمن انوری قدس سرہ کے رسائل ”کلیات انوری کے نام سے دو جلدوں میں شائع کیے ہیں اور اب اس کا نام ”مجموعہ رسائل انوری“ کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ”انوار انوری“ کی بھی اشاعت ہو چکی ہے۔ ان سب کی اشاعت پر بھی یہ دونوں حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی ان کاوشوں کو قبولیت سے نوازے اور ان حضرات کو مزید ایسی خدمات بجالانے کی توفیق عطا فرماتے رہے۔ آمین!

مجلہ ”صلوا علیہ وآلہ“ کے اراکین، مجلس منتظمہ اور مجلس مشاورت سبھی حضرات بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اولاً حضرت انوری قدس سرہ کی سوانح اس مجلہ میں شائع ہوئی۔ اس کے بعد کتابی صورت میں اس کی اشاعت ہوئی۔

محرم الحرام ۱۴۴۲ھ بمطابق اکتوبر 2020ء



حضرت مولانا محمد انوری لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ

سوانح..... بیماری..... سفر آخرت

1947ء کے خونی ہنگامہ میں ہجرت کر کے لائل پور تشریف لائے اور اپنے مرشد حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق لائل پور میں آتے ہی دینی مدرسہ کی بنیاد رکھی جو کہ تقسیم ملک سے قبل رائے کوٹ ضلع لدھیانہ میں جاری تھا۔ مدرسہ میں حفظ القرآن کے علاوہ ابتدائی کتب عربی سے دورہ حدیث تک کی تعلیم شروع کرائی، خود سارے اسباق دورہ کے پڑھاتے تھے۔ صبح تین بجے سے شروع کر کے رات 11 بجے تک پڑھانا معمول تھا۔ اس محنت و مشقت کی وجہ سے ذیابیطس وغیرہ امراض کے شکار ہوئے، لیکن کام میں سستی نہ آنے دی۔ آخر 1962ء میں فالج کا شدید حملہ ہوا پھر 1965ء میں دوسرا حملہ ہوا مرض شدت اختیار کر گیا، آخر اسباق چھوڑ دیئے لیکن باوجود اس قدر ضعیف اور پیرانہ سالی کے اپنے اوراد و وظائف میں انہماک اس طرح رہا کہ گرمیوں سردیوں میں تہجد کے لئے رات 12 بجے اٹھنا ایام بیض اور جمعہ کے دن کا روزہ معمول رہا۔ آخر مرض نے اور شدت اختیار کی 9 جنوری 1970ء کو بعد از نماز جمعہ قلب کا شدید دورہ ہوا جو کہ جمعہ سے عصر تک رہا۔ پہلے دورہ کے بعد اپنے صاحبزادے مولانا سعید الرحمن سے فرمایا کہ یہی مرض آخر میں میرے مربی و شفیق استاذ مولانا سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہوا تھا۔ مجھے اپنے شیخ سے نسبت خاص ہے۔ قلب کا دوسرا دورہ 13 جنوری 1970ء جو کہ عصر سے عشاء تک رہا۔ تیسرا دورہ قلب 16 جنوری 1970ء بعد از نماز عشاء تا ڈیڑھ بجے شب تک رہا۔ تو رات 2 بجے اپنے لواحقین کو بلا کر وصیتیں فرمائیں۔ اللہ کا خوف ہر حالت میں رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی پوری کوشش کرنا۔ میرے احباب سے حسن سلوک رکھنا آپس میں محبت و سلوک سے رہنا، 20 جنوری

1970ء دن کے وقت طبیعت مبارکہ میں بہت خشیتِ الہی کا غلبہ تھا اور ملاقاتِ ربانی کے شوق میں اشعار پڑھتے تھے۔ 19 جنوری 1970ء بروز پیر حجام کو بلانے کا فرمایا، تو عرض کیا گیا کہ جناب ہمیشہ جمعرات کو حجامت بنوایا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں اس دفعہ پیر کے دن ہی بنوانی ہے۔ اور جمعرات میں کتنے دن باقی ہیں صبح و شام پوچھتے رہے۔ آخر 20 جنوری 1970ء بعد از نماز عصر طبیعت مبارکہ پر نقاہت کا غلبہ بہت تھا۔ مولانا عبدالجلیل صاحب نے عرض کیا حضرت زبان مبارکہ خشک ہو رہی ہے۔ خمیرہ مروارید میں آبِ زمزم ملا کر دوں۔ فرمایا ہاں ضرور دو، پی کر فرمایا الحمد للہ سینہ سیراب ہو گیا پھر فرمایا زمزم پیو اور روح پرواز کر گئی۔ پھر مغرب کی نماز باجماعت پڑھنا شروع کی، آخری التحیات میں نقاہت بہت ہو گئی، سلام بمشکل پھیرا کہ استغراق کی حالت ہو گئی۔ حالت استغراق میں ہی بدھ کا پورا دن گزرا۔ تھوڑی دیر بعد شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، یوں ہی بدھ 21 جنوری 1970ء کا پورا دن گزرا۔ جمعرات کی رات 11 بجے طبیعت مبارکہ میں زیادہ کمزوری کے آثار نظر آئے تو ڈاکٹروں کے تقاضے پر ہیڈ کوارٹر ہسپتال لائل پور میں پرائیویٹ وارڈ میں لے جایا گیا۔ پوری رات شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھتی رہی، آخر صبح 7 بجے داعی اجل کو لبیک کہا۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ○

جنازہ 8 بجے ایمبولینس پر رکھ کر مکان واقع سنت پورہ لایا گیا۔ غسل کے دوران سب نے محسوس کیا کہ چہرہ انور پر مسکراہٹ اور بشاشت بہت تھی اور جسم مبارک سے گلاب کی سی خوشبو آرہی تھی غسل سے فراغت کے بعد آپ کے مکان کی ڈیوڑھی (برآمدہ) میں جنازہ رکھا گیا تو لوگ روتے جاتے تھے زیارت کرتے جاتے تھے۔ قریباً ایک لاکھ افراد نے زیارت کی ہوگی۔ اعلان کے مطابق شام ساڑھے 4 بجے اقبال پارک دھوبی گھاٹ میں غالباً ڈیڑھ لاکھ افراد نے نمازِ جنازہ

پڑھی اور جنازہ کا جلوس بڑا قبرستان لائل پور کی طرف روانہ ہوا۔ حدنگاہ تک انسانوں کا سمندر موجیں مارتا ہوا جا رہا تھا۔ آخر سسکیوں اور آہوں میں ساڑھے 5 بجے شام لحد میں اتار دیئے گئے۔

خدا رحمت کند بر این عاشقانِ پاک طینت را

جنازہ میں ملک کے گوشہ گوشہ سے آئے ہوئے اکابر علماء صلحاء حفاظ و دیگر معززین نے شرکت کی، مقامی حضرات نے دکانیں بند کر دیں۔ شہر میں ہڑتال کی سی کیفیت تھی۔ جمعہ 23 جنوری 1970ء بعد از نماز عشاء جامع مسجد انوری میں جلسہ تعزیت منعقد ہوا جس میں مفتی زین العابدین خطیب لائل پور، مولانا محمد ضیاء القاسمی مولانا تاج محمود کے علاوہ دیگر حضرات نے تقاریر فرمائیں۔ اور مولانا کی خدمات کو سراہا، آخر میں مولانا مرحوم کے ارشاد کے مطابق مولانا مرحوم کے بڑے سے چھوٹے صاحبزادے حافظ مولانا سعید الرحمن کو آپ کا جانشین مقرر کیا گیا۔ مولانا نے 5 صاحبزادے تین صاحبزادیاں اور ایک بیوہ چھوڑی ہیں۔

خودنوشت سوانح:

حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء مجازین کا تذکرہ لکھتے ہوئے مولانا مرحوم نے اپنی سوانح پر بھی اس میں روشنی ڈالی ہے، جو مختصراً نقل کی جا رہی ہے۔

احقر کی پیدائش مئی 1901ء میں ہوئی اور حضرت مولانا محمد صاحب قدس سرہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر بے حد مہربان اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے اجلہ خلفاء میں سے تھے اور حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی قدس سرہ العزیز کے تلمیذ تھے۔ اور مولانا شیخ عبدالحق مصنف تفسیر حقانی کے ہم سبق تھے، کوٹ بادل خاں ضلع جالندھر میں رہتے تھے، میرے عقیدے پر تشریف لائے تھے۔

حضرت مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے نام پر نام میں نے محمد رکھ دیا ہے اور برکت کی دعا فرمائی، میں ابھی چھ ماہ کا ہوں گا کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو زمین ضلع لائل پور میں ملی حضرت مولانا محمد رحمۃ اللہ علیہ کوٹ بادل والوں کا انتقال اسی سال ہوا۔ والد صاحب ریل گاڑی میں بیٹھ چکے تھے کہ اطلاع ملی میری والدہ ماجدہ کا انتقال ضلع لائل پور کے ایک گاؤں چک 248 گ ب میں ہوا۔ پانچ سال کی عمر میں قرآن عزیز ناظرہ پڑھا حافظ محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ جالندھری ہمارے گاؤں میں رہتے تھے۔ اعلیٰ درجہ کے طبیب اور حافظ قرآن تھے۔ باوجود قرآن عزیز پڑھتے تھے۔ کئی سال رہ کر پھر اپنے وطن مالوف جالندھر شہر میں واپس تشریف لے گئے اور وہاں انتقال فرمایا۔ میں غالباً چھٹی جماعت میں داخل ہو گیا تھا کہ والد صاحب نے مجھے فنانسی شروع کرادی پھر بوستان تک گھر ہی میں پڑھتا رہا۔ ایک دفعہ کہنے سے سبق یاد ہو جاتا تھا۔ مگر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ایک سو بار سبق یاد کر لیتا تھا تو چھٹی دیتے تھے۔ کتابیں مجھے حفظ یاد ہو گئیں تھیں، پھر سکندر نامہ اور یوسف زلیخا، جامع قواعد، احسن القواعد، نیرنگ عشق رائے پور گوجراں ضلع جالندھر مولانا مفتی فقیر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھیں۔ مولانا فضل احمد رحمۃ اللہ علیہ نے صرف و نحو کی ابتدائی کتابیں پڑھائیں نفعہ ایسن قلیوبی سببہ تعلقات مولانا مفتی فقیر اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھیں اور حافظ محمد صالح رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں رہتا تھا۔ مولانا فقیر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح ابھی نہیں ہوا تھا پھر مولانا کا نکاح ہو گیا۔ اور میں روٹی مولانا موصوف کے گھر میں کھانے لگا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ماہانہ خرچ مولانا کی خدمت میں ارسال کر دیتے تھے، اگلے سال پھر طبیعت اچاٹ ہو گئی پھر دو سال پڑھنا چھوڑ دیا تیسرے سال پھر کتابوں کو دہرایا۔

غرض پنجاب کے مختلف مدارس میں رہ کر کتابیں پڑھتا رہا۔ پھر مشکوٰۃ شریف مولانا مفتی فقیر اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، پھر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی آمد آمد سن کر

دیوبند حاضری ہوئی ۱۳۳۸ھ میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ترمذی، مسلم کچھ حصہ اور بخاری پڑھی مولانا حافظ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ سے مسلم پوری کی، ابوداؤد حضرت میاں اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی اور حضرت مفتی عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے باقی کتب حدیث پڑھیں، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سند حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی عنایت فرمائی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ ہمیں بخاری پڑھائیں گے۔ لیکن حضرت سخت بیمار ہو گئے پھر وصال ہو گیا۔ حسرت ہی رہ گئی۔

اے بسا آرزو کہ خاک شدہ

حضرت کے وصال کے بعد پھر حضرت شاہ صاحب کشمیری قدس سرہ کی خدمت میں بخاری شریف بھی پڑھی۔ تمام اساتذہ خوش رہے سند پر عمدہ الفاظ تحریر فرمائے۔ مولانا بدر عالم میرٹھی اسی سال سہارنپور سے آئے تھے۔ انہوں نے ترمذی شریف بخاری شریف ہمارے ساتھ ہی پڑھیں اور تقریریں بھی لکھیں۔ میں نے باقی فنون کی کتب اگلے سال دیوبند ہی میں پوری کیں مقامات حریری مولانا بدر عالم نے مولانا اعزاز علی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی اور شرح بھی لکھتے رہے۔ میں بھی ترمذی شریف اور بخاری کی تقریر لکھتا تھا۔ بیعت حضرت مولانا فقیر اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے کرا دی تھی۔ میرے جیسا نجس اور ناپاک آدمی حضرت مفتی صاحب کا احسان ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے سفارش کی حضرت اس کو بیعت فرمائیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً قبول فرمالیا اور بیعت کر لیا۔ پھر احقر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا۔ پھر 1938ء میں حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گیا یہ حضرت کی شفقت ہے کہ احقر کو رائے کوٹ سے بلا کر بیعت فرمایا۔

(ماہنامہ الحق محرم ۱۳۹۰ھ)

سند انعام امتحان سالانہ دارالعلوم دیوبند بابیت



تفصیل انعام		نام کتاب حسب امتحان	نمبر شمار
انعام خاص	انعام عام		
		۵۰	۵۰
		۵۰	۵۰
		۵۰	۵۰
		۵۰	۵۰
		۱۹	۱۹
		۱۸	۱۸
		۱۷	۱۷
		۱۵	۱۵
		۱۵	۱۵
		۱۳	۱۳
		۱۰	۱۰

مہتمم دارالعلوم دیوبند مؤرخہ ۱۸ ماہ برج اشادہ ۱۳۱۵ھ

(۱) انعام عام صرف ان کتابوں کے امتحان پر دیا جاتا ہے جن میں طالب علم نے کم از کم چالیس نمبر حاصل کر سکے ہوں۔
 (۲) انعام خاص کے مستحق وہ طلبہ قرار دیئے گئے ہیں جن کے امتحان دہا جرنی کتبوں میں سے نامہ کتابوں میں
 پچاس پچاس یا اس سے زائد نمبر آئیں بشرطیکہ وہ کسی کتاب میں فیصل نہ ہوئے ہوں

سند انعام امتحان سالانہ دارالعلوم دیوبند
 حضرت مولانا محمد انوری لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ

عکس سند فراغت درالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد انوری لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ




تاریخ دورہ حدیث رجب ۱۳۳۹ھ بمطابق 1921ء

سند پر جن اساتذہ کرام کے دستخط موجود ہیں ان میں سے چند نام یہ ہیں:
 مولانا محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ ابن حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید محمد انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ،
 مولانا اعزاز علی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ



سرٹیفکیٹ تدریس عربی محکمہ تعلیم پنجاب 1929ء




سرٹیفکیٹ تدریس فارسی محکمہ تعلیم پنجاب 1938ء

مرقد مبارک
حضرت شیخ الہند
مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ
بمقام: دیوبند، انڈیا



مرقد مبارک
امام العصر حضرت علامہ
سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ
بمقام: دیوبند، انڈیا

مرقد مبارک
(1) حضرت اقدس مولانا
شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ
(2) حضرت مولانا
عبدالوحید قادری رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ
(3) حضرت مولانا
عبدالجلیل قادری رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ



بمقام: ڈھڈیاں شریف ضلع سرگودھا، پاکستان



مرقد مبارک
حضرت مولانا محمد ایوب الرحمن انوری رحمۃ اللہ علیہ
بمقام: فیصل آباد



مرقد مبارک
حضرت اقدس مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ
بمقام: فیصل آباد



مسجد انوری سنت پورہ فیصل آباد جو حضرت انوری رحمۃ اللہ علیہ نے 1948ء میں قائم کی۔